

الحَقِيقَةُ الْحَسَنَةُ

المعروف به

عقائد الإسلام

تصنيف

حضرت شاه ولی اللہ محدث دہلوی

مولانا مفتی محمد خلیل خان برکاتی مدظلہ العالی

فرید پکٹال، اردو بازار لاہور



Book Series قلم / عجمی

Serial No. ....

Price 42 .....

Date 13-1-1415

11. 1 - 1415 9

Jamia Naqishbandia  
Bustan-ul-Aloom  
Mujahid  
Muzila (AK)

العقيدة الحسنة

المعروف به

عقائد الاسلام

تصنيف

حضرت شاه ولي الله محدث دہلوی

ترجمہ و تشریح

خلیل العلامی مفتی محمد خلیل خاں قادری ابرکاتی الماسری

فزیلہ کبیرا لہوری

جملہ حقوق بحق رومی پبلیکیشنز محفوظ ہیں

# اسلامی عقائد

نام کتاب \_\_\_\_\_ العقیدۃ الحسنیہ

ترجمہ و تشریح \_\_\_\_\_ عقائد الاسلام

تصنیف \_\_\_\_\_ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

مترجم \_\_\_\_\_ علامہ مفتی محمد خلیل خاں برکاتی قدس سرہ

ناشر \_\_\_\_\_ رومی پبلیکیشنز ۳۸ اردو بازار لاہور

مطبع \_\_\_\_\_ حامد اینڈ کمپنی پرنٹرز لاہور

قیمت \_\_\_\_\_ Rs 42 / 00

بسم اللہ الرحمن الرحیم

## آئینہ مضامین

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۵	اسلام (دین توحید)	۱۹	۱۰	انتساب	۱
۳۷	یاد رکھنا چاہیے کہ	۲۰	۱۱	نقش اول	۲
۳۸	اسلامی عقیدوں کا خلاصہ	۲۱	۱۳	العقیدۃ الحسنیۃ	۳
۴۳	ایمان و کفر کا بیان	۲۲	۱۴	توحید و وجود الہ	۴
۴۷	توحید باری تعالیٰ	۲۳	۱۸	دیدار الہی	۵
۵۶	رسالت و نبوت	۲۴	۲۰	قدرت الہی	۶
۵۹	عقائد متعلقہ نبوت	۲۵	۲۲	فرشتے اور شیاطین	۷
۶۱	انبیائے کرام اور تقیہ کی تشریح	۲۶	=	قرآن	۸
۶۷	انبیاء پر نام بنام ایمان	۲۷	۲۴	اسمائے الہی	۹
۷۴	معجزات نبویہ	۲۸	=	معاد و محشر	۱۰
۷۵	کل نفس ذائقہ الموت کی تشریح	۲۹	۲۵	جنت و دوزخ	۱۱
۸۳	خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۳۰	۲۶	شفاعت	۱۲
۸۶	ام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم	۳۱	۲۷	رسالت	۱۳
۸۸	الطاف خفیۃ	۳۲	۲۹	اولیاء اللہ	۱۴
۹۱	محمد و احمد ناموں کے فضائل	۳۳	۳۰	عشرہ مبشرہ	۱۵
۹۲	خصائص ابنی صلی اللہ علیہ وسلم	۳۴	=	خلفائے راشدین	۱۶
۹۴	رحمت عالم کے معنی	۳۵	۳۲	تکفیر اہل قبلہ	۱۷
۹۵	خاتم النبیین کے معنی اور وہابیہ	۳۶	۳۳	تحت	
۹۷	محبوبیت کبریٰ	۳۷	۳۴	باران درود	۱۸

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۲۸	محوظ رکھیں۔	۵۵	۹۹	معراج و اسراء	۳۸
۱۲۹	اولاد اجماد سے نیک سلوک کا حکم	۵۶	۱۰۰	تصویر سفر معراج	۳۹
۱۲۹	سادات کرام کو زکوٰۃ دینا حرام	۵۷	۱۰۳	شفاعت کبریٰ	۴۰
	قطعاً ہے۔		۱۰۴	مسئلہ شفاعت	۴۱
۱۳۰	تبرکات شریفہ کی تعظیم	۵۸	۱۰۶	تفویت الایمان اور شفاعت	۴۲
۱۳۱	نام پاک سن کر انگور ٹھے چومنا	۵۹	۱۰۹	حضور کی محبت مدار ایمان ہے	۴۳
	جائز ہے۔		۱۱۰	اذا قضی اللہ ورسولہ امرًا	۴۴
۱۳۱	حضور کے کسی قول و فعل کو بہ نظر	۶۰	۱۱۱	احکام شریعت حضور کو سپرد ہیں	۴۵
	حقارت دیکھنا۔		۱۱۲	اعتقاد عظمت رسول جزو ایمان ہے	۴۶
۱۳۲	حضور کا مقام بشریت	۶۱	۱۱۳	تعظیم رسول قطعاً نماز سے اہم و اعظم ہے۔	۴۷
۱۳۲	تمام جہاں حضور کے تحت تصرف ہے	۶۲			
۱۳۶	احکام شریعیہ حضور کے قبضہ میں ہیں۔	۶۳	۱۱۷	محبت اس عالی جناب کی ایمان کی جان ہے۔	۴۸
۱۳۷	اختیارات نبی کی نظیریں	۶۴	۱۱۹	چند علامات محبت رسول	۴۹
۱۳۱	سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور کو ملا۔	۶۵	۱۲۲	بدگویان رسول سے عداوت فرض ہے۔	۵۰
۱۳۲	اللہ عزوجل نے حضور کو اپنی ذات کا منکر بنایا	۶۶	۱۲۳	شان رسالت میں ادب کا حکم	۵۱
۱۴۳	حسنت الابرار سیات المقربین	۶۷	۱۲۵	معاقل میلاد مبارک انعقاد	۵۲
۱۴۵	آسمانی کتابیں اور صحیفے	۶۸	۱۲۶	نام مبارک کے ساتھ نذاکی ممانعت	۵۳
	انبیاء پر وحی کے چار طریقے ہیں	۶۹	۱۲۷	روضہ انور پر صلوٰۃ و سلام کا طریقہ	۵۴
۱۴۶	صحیفوں اور آسمانی کتابوں کی تعداد	۷۰	۱۲۸	علاہر حال میں آداب مجلس نبوی	۵۵

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۴۳	ملائکہ کا بیان	۹۰	۱۴۶	سب آسمانی کتابیں اور صحیفے	۷۱
۱۴۵	فرشتے اجسام نوری ہیں	۹۱		حق ہیں۔	
۱۴۶	فرشتوں کو مختلف خدمتیں سپرد ہیں	۹۲	۱۴۷	قرآن کریم مکمل دستور حیات ہے	۷۲
۱۴۷	ذکر الہی فرشتوں کی غذا ہے	۹۳	"	قرآن کریم کی حفاظت	۷۳
"	فرشتوں کی تعداد و پیدائش	۹۴	۱۴۸	قرآن کریم لفظ بہ لفظ کلام الہی ہے	۷۴
۱۴۹	فرشتوں کے وجود کا انکار کفر ہے	۹۵	۱۴۹	قرآن کریم عظیم معجزہ ہے۔	۷۵
	جن کا بیان	۹۶	۱۵۰	قرآن کریم آپ اپنی صداقت کی دلیل ہے۔	۷۶
۱۴۹	جن آگ سے مخلوق ہیں	۹۷	"	قرآنی چیلنج	۷۷
"	ابلیس و شیطان	۹۸	۱۵۲	قرآن کریم کی سات قرائیں	۷۸
۱۸۰	افضل وہ ہے جسے اللہ فضیلت دے۔	۹۹	۱۵۳	قرآن کریم کی جمع و ترتیب	۷۹
	اغولے شیطان سے محفوظ بندے	۱۰۰	۱۵۳	قرآن کریم کا جامع؟	۸۰
۱۸۱	شیطان کا وجود خارجی	۱۰۱	۱۵۶	قرآن کریم ناسخ ہے۔	۸۱
"	وجود ملائکہ و جن پر دلائل	۱۰۲	"	نسخ کی تشریح و توجیہ عقلی	۸۲
۱۸۵	عالم برزخ کا بیان	۱۰۳	۱۵۸	آیات محکمت و متشابہات	۸۳
۱۸۶	مقررہ زندگی میں کمی بیشی ممکن نہیں	۱۰۴	۱۶۱	قرآن و حدیث کا باہمی ربط و تعلق	۸۴
۱۸۷	مرنے کے بعد روح و جسم کا تعلق	۱۰۵	۱۶۴	قضا و قدر کا بیان	۸۵
"	روح کی قوتیں، بعد موت	۱۰۶	۱۶۶	تدبیر، تقدیر الہی کے موافق ہے	۸۶
۱۸۹	تنازع و آواگون کا عقیدہ	۱۰۷	۱۶۷	قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ کی تفسیر	۸۷
۱۹۱	منکر نکیر کے سوالات	۱۰۸	۱۶۸	قضاے مبرم و مُعلق	۸۸
			۱۷۲	بندوں کے تمام افعال کا خالق اللہ ہے۔	۸۹



صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۲۵	نسخہ اولیٰ	۱۳۱	۱۹۳	عذاب قبر و تنعم قبر	۱۰۹
۲۲۷	روز قیامت ملائکہ کی موت کا حال	۱۳۲	۱۹۷	معاذ و حشر کا بیان	۱۱۰
۲۲۸	نسخہ ثانیہ	۱۳۳	۱۹۹	روز قیامت روجوں کا اعادہ	۱۱۱
۲۲۹	خلاصہ احادیث شفاعت	۱۳۴	۲۰۰	احیاء موتی کا زندہ ثبوت	۱۱۲
۲۳۲	شافع حشر کی بارگاہ میں حاضری	۱۳۵	۲۰۱	خلیل جلیل کا علم عین الیقین	۱۱۳
۲۳۳	چند لطیف اشعار	۱۳۶	۲۰۵	قیامت کے اوصاف و مناظر	۱۱۴
۲۳۵	مقام محمود	۱۳۷	۲۰۶	آثار قیامت	۱۱۵
۲۳۶	انبیاء و صلحاء وغیرہم کی شفاعت	۱۳۸	۲۰۸	علامات صغریٰ	۱۱۶
۲۳۷	سے گناہگار ان امت	۱۳۹	۲۰۹	علامات کبریٰ	۱۱۷
۲۳۸	نامہ اعمال	۱۴۰	۲۱۱	دجال کا ظاہر ہونا	۱۱۸
۲۳۹	میزان	۱۴۱	۲۱۲	حضرت امام حمادی کا ظہور	۱۱۹
۲۴۰	وزن و مقدار معلوم کرنے کے طریقے	۱۴۲	۲۱۴	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول	۱۲۰
۲۴۱	حساب کتاب	۱۴۳	۲۱۹	یاجوج و ماجوج کا خروج	۱۲۱
۲۴۲	حسابا سیرا کی جلوہ طرازیوں	۱۴۴	۲۱۷	مسئلہ ضروریہ	۱۲۲
۲۴۳	ایک حدیث شریف	۱۴۵	۲۲۰	تین خسف ہوں گے	۱۲۳
۲۴۴	حساب جاں گزرا کی جھلکیاں	۱۴۶	۲۲۱	دھواں ظاہر ہوگا	۱۲۴
۲۴۵	قرآن کریم کا ارشاد گرامی	۱۴۷	۲۲۲	دابة الارض کا نکلنا	۱۲۵
۲۴۷	الکوشر	۱۴۸	۲۲۳	آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا	۱۲۶
۲۵۱	القراط	۱۴۹	۲۲۴	توبہ کا دروازہ بند ہونا	۱۲۷
۲۵۲	کرم مصطفیٰ کی تجلیاں	۱۵۰	۲۲۴	آگ کا نمودار ہونا	۱۲۸
				عالم آخرت کے کچھ تفصیلی بیانات	۱۲۹
				قیام قیامت	۱۳۰

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۵۱	جنت کا بیان	۲۵۳	۱۴۳	تذکار یاران علی بزبان علی رض	۲۸۱
۱۵۲	جنت کی نعمتیں	۲۵۴	۱۴۴	ایک حدیث	۲۸۲
۱۵۳	یاد رہانی	۲۵۷	۱۴۵	اصحاب بیعتہ الرضوان	۲۸۳
۱۵۴	احادیث کریمہ سے روشن	۲۵۷	۱۴۶	اصحاب بدر	۲۸۵
۱۵۵	وجہ کریم کی زیارت	۲۵۹	۱۴۷	مقام صحابیت	۲۸۶
۱۵۶	لطائف الاحادیث	۲۶۰	۱۴۸	قرآن کریم اور فضائل صحابہ	۲۸۹
۱۵۷	۱۲ دوزخ کا بیان	۲۶۲	۱۴۹	مشاجرات صحابہ	=
۱۵۸	جہنم کی عقوبتوں کا مجمل بیان	۲۶۳	۱۸۰	صحابی کے ساتھ بد عقیدگی،	۲۹۰
۱۵۹	عذاب بالائے عذاب	۲۶۵		گرا رہا ہے	
۱۶۰	منافقوں کا مقام	۲۶۶	۱۸۱	حضرت امیر معاویہ مجتہد تھے	=
۱۶۱	۱۳ اعراف کا بیان	۲۶۶	۱۸۲	اول ملوک اسلام امیر معاویہ	۲۹۱
۱۶۲	انجام کار	۲۶۸	۱۸۳	قند مکرر	۲۹۳
۱۶۳	امامت کا بیان	۲۶۹	۱۸۴	امہات المؤمنین	۲۹۳
۱۶۴	عقائد متعلقہ	۲۷۰	۱۸۵	ازواج مطہرات کے فضائل قرآنی	=
۱۶۵	افضلیت کے معنی	۲۷۱	۱۸۶	اہل بیت میں ازواج داخل ہیں	۲۹۵
۱۶۶	عشرہ مبشرہ	۲۷۲	۱۸۷	حضرت خدیجہ الکبریٰ	۲۹۸
۱۶۷	خلفائے راشدین	=	۱۸۸	ام المؤمنین عائشہ صدیقہ	۲۹۹
۱۶۸	خلیفہ رسول اللہ صدیق اکبر	۲۷۳	۱۸۹	امہات المؤمنین کے اسمائے گرامی	۳۰۰
۱۶۹	امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم	۲۷۴	۱۹۰	اہلبیت کرام رض	۳۰۲
۱۷۰	امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی	۲۷۶	۱۹۱	خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہراء	۳۰۲
۱۷۱	مولیٰ المسلمین حضرت علی مرتضیٰ	۲۷۷	۱۹۲	امایین جلیلین حسنین کریمین	۳۰۴
۱۷۲	تفضیل شہین و سب الختین	۲۷۹	۱۹۳	یزید پلید	۳۰۷

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
			۳۰۸	چند مسائل ضروریہ	۱۹۳
	فائدے ہی فائدے		۳۰۹	تعزیه داری	۱۹۵
۴۷	ضروریات دو قسم پر ہیں	۲۱۲	۳۱۰	اولیاء اللہ کا بیان	۱۹۶
۵۰	کذب باری تعالیٰ محض باطل ہے	۲۱۳	۳۱۰	قرب الہی کے مدارج	۱۹۷
۵۵	وہ اللہ الاسماء الحسنیٰ	۲۱۴	۳۱۱	ولی اللہ کی صفات	۱۹۸
۶۰	انبیائے کرام کی قوت قدسیہ		۳۱۲	اولیائے اولین و آخرین کے تہ	۱۹۹
۶۳	علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم	۲۱۵	"	یہ غلط ہے کہ شریعت سے	۲۰۰
۶۶	دیوبندیوں کا یوسف ثانی	۲۱۶		طریقیت جدا ہے۔	
۶۸	تخلیق آدم علیہ السلام	۲۱۷	۳۱۴	اے عزیز! شریعت راہ کو	۲۰۱
۶۹	آدم علیہ السلام کا علم بعباد الہی	۲۱۸		کہتے ہیں۔	
۶۹	سجدہ تہمت	۲۱۹	۳۱۵	کرامات اولیاء برحق ہیں	۲۰۲
۷۰	آدم کو سب سے پہلے کس نے	۲۲۰	"	کرامات کا ثبوت قرآن سے	۲۰۳
	سجدہ کیا۔		۳۱۷	واجب الحفظ چند امور	۲۰۴
۷۲	امام الوبابیہ کی دریدہ دہنی	۲۲۱	۳۱۸	ولی کے مزار پر سمعیں روشن کرنا	۲۰۵
۷۷	وابیہ کی اونٹنی مت	۲۲۲	۳۱۹	اولیاء اللہ سے استعانت جائز	۲۰۶
۷۹	معجزہ کی حقیقت	۲۲۳		ہے۔	
۸۷	معجزہ وغیر معجزہ میں فرق	۲۲۴	۳۲۳	تقلیدائے متعلق چند امور	۲۰۷
۱۰۶	مسئلہ شفاعت اور وبابیہ	۲۲۵	"	فقہ و مذہب	۲۰۸
۱۱۶	امام الوبابیہ کا عقیدہ	۲۲۶	۳۲۴	فرقہ غیر مقلدین	۲۰۹
۱۶۰	قرآن کریم محض زبانی یادداشتوں	۲۲۷	۳۲۶	عرض آخرین	۲۱۰
	یا روایتوں کا مجموعہ نہیں		۳۲۸	حرف آخر	۲۱۱
۱۶۳	شہرہ ہشموں کی محرومی	۲۲۸			

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۲۹	رحمت شان جمال ہے اور قہر	۱۶۷	۲۲۵	حوض کوثر سے بعض افراد کی مردودی	۲۲۹
	شان جلال		۲۲۶	امام المسلمین کا تقرر	۲۷۱
۲۳۰	بارگاہِ عزت میں محبوبانِ خدا کی	۱۷۲	<b>تنبیہات</b>		
	عزت				
۲۳۱	جنات کی پیدائش	۱۷۹		قضاء و قدر کے مسائل عام	۱۷۳
۲۳۲	سب سے پہلی میت	۱۸۶		عقلوں میں نہیں آ سکتے۔	
۲۳۳	دم نزع، تلقین کی اہمیت	۱۸۶	۲۲۷	قرآن کریم کے ذکر تین قسم کے	۲۰
۲۳۴	شیطانِ رحیم اور قبر میت	۱۹۲		لوگوں کا کیل ہے	
۲۳۵	قبر پر اذان کی بحث	۱۹۳	۲۲۸	ضروریات دین کے منکرین	۲۵
۲۳۶	قرآن سے قبر کے عذاب کا ثبوت	۱۹۴	۲۲۹	گنگوہی صاحب کے یہاں رحمت	۹۴
۲۳۷	ملک الموت کی صورت	۱۹۴		عالم کی بی قدری	
۲۳۸	وہ جن کے بدن قبر میں سلامت	۱۹۶	۲۵۰	درو میں اختصار	
	رہتے ہیں		۲۵۱	مسائل تقدیر میں بحث	
۲۳۹	ایک اور حدیث شریف	۲۹۶	۲۵۲	حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں	۲۱۷
۲۴۰	قیامت تین قسم پر ہے	۲۰۵	۲۵۳	ہیئت و فلکیات کے قواعد	
۲۴۱	حضرت ذوالقرنین		۲۵۴	حوض کوثر، میدانِ حشر میں ہے؟	۲۲۸
۲۴۲	امام الوہاب سے کفر	۲۲۲	۲۵۵	اہل تشیع کی اذان	۲۷۸
۲۴۳	حضور کو تین سوال عطا فرمائے گئے	۲۳۷	۲۵۶	سلسلہ مشائخ میں بیعت	۳۲۱
۲۴۴	علم صحیح کے حجابات تین ہیں	۲۲۲	۲۵۷	مرشدِ خاص کے لئے شرطیں	۳۲۳
۲۴۵	فوائدِ جلید	۲۲۵			

# انتساب

معمول ہے کہ حضرات مصنفین کرام بہ نیت حصول برکات اپنی تصانیف کو علمائے کرام و مشائخ عظام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اس طریقہ مرضیہ کی تقلید و اتباع میں یہ فقیر بے بضاعت اپنی اس ناچیز تصنیف کو اسوۃ المحققین الکرام: سرسراج السالکین العظام: کاشف استار طریقت: واقف اسرار حقیقت: حامی شرع مبین: رکن رکن دین متین: مجتہد میدان: مجاہدہ: مجاہد ایوان مشاہدہ: سیدنا و سندننا: مولانا و مقتدانا: بالفضل و الکمال اولانا: حضرت السید الشاہ ابوالحسن احمد نوری المقلب بہ نوری میاں زبدہ سلسلہ برکاتیہ: مارہرہ: مقدسہ: قدس سرہ العزیز کی بارگاہ، بیکس پناہ میں شرماتے بجاتے پیش کرنے کی جرات کرتا ہے۔

گر قبول افتد زبے عز و شرف

غلام غلامان آل رسول

العبد محمد خلیل خاں القادری البرکاتی المارہری عنی عنہ

حیدرآباد ۲ شعبان العظمیٰ ۱۳۴۰ھ دو شنبہ مبارکہ



# نقش اول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ الْجَبَلِيِّ. وَتِي النَّعْمَاءِ وَالْعَطَاءِ  
 الْجَزِيلِ. الَّذِي خَلَقَنَا وَسَوَّانَا وَهَدَانَا سَوَاءَ السَّبِيلِ. هُوَ الْأَوَّلُ  
 وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. لَا يَبْدِيلُ  
 لِسُنَّةِ اللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَلَا تَحْوِيلَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْأَتَمَّانِ  
 الْأَكْمَلَانِ عَلَى جَبِيهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَصِيلِ. السَّيِّدِ  
 النَّبِيِّ. الْمُنْتَخَبِ مِنْ أَنْجَابِ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ. صَاحِبِ الْوَجْهِ  
 الْجَمِيلِ. وَالْخَدِّ الْأَسِيلِ. وَالظَّرْفِ الْكَحِيلِ. مَالِكِ الْحَوْضِ وَ  
 الْكُوْتِرِ وَالسَّلْسَبِيلِ. الَّذِي جَاءَ بِالْوَحْيِ وَالتَّنْزِيلِ. وَأَوْضَحَ لَنَا  
 بَيَانَ التَّأْوِيلِ. وَخُصَّصَ عَلَى سَائِرِ الْخَلَائِقِ حَتَّى الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
 وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ بِالْكَرَامَةِ وَالتَّقْضِيلِ. فَيُرْغَبُ إِلَيْهِ الْخَلَائِقُ  
 حَتَّى الْخَلِيلِ. الْمُوَيْدِ بِسَيِّدِنَا جَبْرِيلَ وَسَيِّدِنَا مِيكَائِيلَ  
 الْمُبَشِّرِينَ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ

الْحَقُّ الْمُبِينُ . وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُولَهُ الضَّادِقُ  
 الْوَعْدِ الْأَمِينُ . مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا . وَمَنْ  
 يُعَصِرْهُمَا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا . رَبَّنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّا أُمَّتَابُهُ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَرَهُ . فَمَتَّعْنَا اللَّهُمَّ فِي الدَّارَيْنِ بِرُؤْيَيْهِ . وَ  
 ثَبَّتْ قُلُوبَنَا عَلَى مَحَبَّتِهِ . وَاسْتَعْمَلْنَا عَلَى سُنَّتِهِ . وَاحْتَشَرْنَا فِي  
 زَمْرَتِهِ وَتَوَقْنَا عَلَى مِلَّتِهِ . وَأُوْرِدْنَا حَوْضَهُ الْأَصْفَى وَاسْقِنَا  
 بِكَاسِهِ الْأَوْفَى . اللَّهُمَّ يَا رَبِّ بِنَيْتِكَ الْمُصْطَفَى وَرَسُولِكَ  
 السُّجَّتِي وَامِينِكَ عَلَى وَحْيِ السَّمَاءِ . طَهَّرْ قُلُوبَنَا مِنْ كُلِّ وَصْفٍ  
 يُبَاعِدُنَا عَنْ مُشَاهَدَتِكَ وَمَحَبَّتِكَ . وَامْتِنَا عَلَى الْكِتَابِ السُّنَّةِ  
 وَالْجَمَاعَةِ غَيْرِ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ وَلَا فَاتِنِينَ وَلَا مَفْتُونِينَ .  
 وَالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ . آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ .  
 وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ  
 وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَأَنْزَلَ وَاجِبَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ  
 بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

اما بعد خداوند بخشنده عزیز شمر که توفیق خیر فرستد ، اورا اس غنی ہے نیاز کی مرثیں  
 بخششیں شامل حال نہ ہوں تو انسان ضعیف البنیان کی کیا بہ اظہر زبان ہدائے پتہ نکالے

یہ اسی کریم لم یزل ولایزال کے کریم لازوال کا ترہ ہی کہ مجھ جیسا ضعیف و ناتواں بیچ میرز  
و بیچداں، عقائد اہلسنت و جماعت، و معتقدات اساطین دین و ملت، کثرہم اللہ تعالیٰ و  
ادخلنا فی زمرتہم پر مشتمل نئے طرز نئے اسلوب، نئی ترتیب سے متشکل، یہ کتاب مستطاب  
تشریح العقائد المعروف بہ "عقائد الاسلام" کے کرناظرین و قارئین کی خدمت میں حاضر  
ہے اور آپ کی دعا ہائے خیر کا طالب بھی۔

محنت میری ہے اور توجہ میرے مشائخ کرام خصوصاً سیدی و سندی، وارث الاکابر الایمان  
بالاستحقاق و الانفراد، مولینا السید الشاہ اولاد رسول محمد میاں قادری برکاتی مارہری، قدس سرہ کی  
کام میرا ہے اور التفات کرم ہے، شیخ الاسلام و المسلمین، حامی دین متین، مجدد مائتہ حاضرہ،  
صاحب حجۃ قاہرہ، اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، مولینا الشاہ احمد رضا خان صاحب قادری  
برکاتی فاضل بریلوی، قدسنا الشہ سہ العزیز کا۔

نام میرا ہے اور کریم بے پایاں ہے۔ استاذی و استاذ الاستاذ، حضرت صدر الشریعہ، بدر  
لطریقہ، ابوالعلیٰ مولانا محمد امجد علی صاحب سنی حنفی قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصنف  
بہار شریعت، کا ورنہ کہاں مجھ ناسیہ کاروبے بضاعت اور کہاں خدمت دین متین کی یہ سعادت  
فقر نے اس کتاب کی ترتیب و تدوین اور تقریر عقائد و مسائل میں "بہار شریعت" کو  
اساس و بنیاد بنایا۔ اور مصنفات اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز سے مواد فراہم کر کے، تشریح و  
توضیح اور کہیں فوائد کے نام سے بعونہ تعالیٰ کام، اختتام تک پہنچایا۔

شرح عقائد نسفی۔ شرح فقہ اکبر۔ تمہید ایمان۔ المعتمد المستند۔ تمہید ابوالشکور السالی  
الیواقیت و الجواہر۔ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ۔ نسیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض  
و غیر ہا کتب اکابر کو پیش نظر رکھا۔ ان کتب کے علاوہ اچھی بات جہاں سے ملی، جس سے  
بھی ملی، اخذ کر لی اگرچہ کتب اغیار سے۔ جن سے نہ کوئی علاقہ محبت نہ رابطہ عقیدت۔ مولائے  
کریم، س خدمت کو قبول فرمائے اور اسے اس گناہگار کے لئے ذریعہ نجات بنائے۔

مجھے اور قارئین کو اس سے دنیا و آخرت میں فائدے پہنچائے اور ایمان پر ثبات نصیب فرمائے۔  
قارئین سے التماس ہے کہ وہ ظاہری صورتی یا کسی معنوی و باطنی غلطی پر مطلع ہوں تو فقیروں پر  
احسان فرمائیں تاکہ اس کی اصلاح کی جاسکے۔ واللہ ولی التوفیق و بیدہ التحقیق

العبد محمد خلیل خاں القادری البرکاتی المارہری عفی عنہ حیدرآباد سندھ پاکستان۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

العقيدة الحسنة

توحید و وجود الہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ

اَمَّا بَعْدُ . فَيَقُوْلُ الْفَقِیْرُ الْمَفْتَقِرُ اِلٰی رَحْمَةِ اللّٰهِ الْكَرِیْمِ

اَحْمَدُ الْمَدْعُوْ بِوَلِیِّ اللّٰهِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَحْسَنَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِلَیْهَا

اَشْهَدُ اللّٰهُ تَعَالٰی وَمَنْ حَضَرَ مِنْ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِّیْ

اَعْتَقَدُ مِنْ صَبِیْمٍ قَلْبِیْ

۔۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ اور درود و سلام

ہمارے آقا محمد پر جو تمام نبیوں کے خاتم ہیں اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر۔

اس کے بعد کہتا ہے یہ عاجز و محتاج ہے خداوند کریم کی رحمت کا یعنی احمد جسے دل اللہ

سے عبد الرحیم کہتے ہیں۔ خدا ان دونوں کے حال پر رحم فرمائے کہ میں خدائے تعالیٰ کو اور ان کو جو

فرشتوں جنوں اور انسانوں میں سے حاضر ہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں بچے دل سے یہ اعتقاد

رکھتا ہوں کہ

اَنَّ لِلْعَالَمِ صَانِعًا قَدِیْمًا لَمْ یَزَلْ وَلَا یَزَالُ وَاَجِبًا وَجُوْدًا

مُسْتَبْعَا عَدَمُهُ وَهُوَ الْكَبِیْرُ الْمُتَعَالِ مُتَّصِفًا بِجَمِیْعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ

مَنْزَهَا مِنْ جَمِيعِ سِمَاتِ النَّقْصِ وَالزَّوَالِ . وَهُوَ خَالِقُ الْجَمِيعِ  
 الْمَخْلُوقَاتِ . عَالِمُ جَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ . قَادِرٌ عَلَى جَمِيعِ  
 الْمُمْكِنَاتِ . مُرِيدٌ لِجَمِيعِ الْكَائِنَاتِ . حَتَّى بِصِيرٍ لَا شِبْهَ لَهُ .  
 وَلَا ضِدْلَهُ وَلَا يَنْدَلَهُ . وَلَا مِثْلَ لَهُ . وَلَا شَرِيكَ لَهُ فِي وُجُوبِ  
 الْوُجُودِ . لَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ . وَلَا فِي الْخَلْقِ وَالتَّدْبِيرِ . فَلَا  
 يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ أَيُّ أَقْصَى غَايَةِ التَّعْظِيمِ إِلَّا هُوَ . وَلَا يَسْتَقِرُّ رِضًا  
 وَلَا يَزْنُقُ رِزْقًا وَلَا يَكْشِفُ ضَرًّا إِلَّا هُوَ . بِمَعْنَى أَنْ يَقُولَ لَشَيْءٍ  
 كُنْ فَيَكُونُ .

ترجمہ: اس جہاں کا خالق ایک (اللہ) ہے جو قدیم (ازلی ابدی) ہے کہ  
 ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود منزه کی ہے اور عدم محال۔ وہ  
 بزرگ و برتر ہے اور ہر کمال و خوبی کا جامع۔ اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقص ہے پاک  
 ہے۔ وہی تمام مخلوقات کا خالق ہے (ذوات ہوں خواہ افعال سب اسی کے پیدا کئے ہوئے  
 ہیں) تمام باتوں کا جاننے والا ہے (اور اس کا علم ہر شے کو محیط ہے) تمام ممکن الوجود چیزوں  
 پر قادر ہے (کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں) تمام جہانوں کو اپنے ارادے سے پیدا  
 فرمانے والا ہے وہ خود زندہ ہے اور ہر (باریک سے باریک) چیز کو دیکھتا ہے۔ نہ کوئی اس  
 کا مشابہ ہے نہ مقابل۔ نہ کوئی اس کا حریف ہے نہ عدیل و ہمسر۔ اور نہ کوئی اس کا مماثل ہے  
 نہ شریک۔ نہ وجوب وجود (یعنی ذات و صفات) میں۔ نہ استحقاق عبادت میں۔ نہ جہاں کی  
 تخلیق میں نہ اس کے انتظام و انصرام میں۔ لہذا سارے جہانوں میں کوئی اس کے سوا، اس  
 کا مستحق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یعنی ماسوی اللہ کے کوئی انتہائی تعظیم کا حق

نہیں رکھتا۔ اور نہ کوئی اور اس کے سوا ہے کہ بیماریوں کو شفا دے۔ مخلوق کو روزی بخشنے اور کسی کی تکلیف کو مال دے۔ باری معنی کہ وہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے "ہو جا" اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔

لَا يَبْغِي السَّبَبِ الْعَادِي الظَّاهِرِي . كَمَا يُقَالُ شَفَى الطَّبِيبُ  
 الْمَرِيضَ . وَرَزَقَ الْأَمِيرُ الْجُنْدَ . فَهَذَا غَيْرُهُ . وَإِنْ أَشْبَهَ فِي  
 اللَّفْظِ . وَلَا ظَهِيرَ لَهُ . وَلَا يَجِلُّ فِي غَيْرِهِ . لَا يَقُومُ بِذَاتِهِ حَارِثٌ  
 فَلَيْسَ فِي ذَاتِهِ وَلَا صِفَاتِهِ حَدُوثٌ . وَإِنَّمَا الْحُدُوثُ فِي تَعَلُّقِ  
 الصِّفَاتِ بِمُتَعَلِّقَاتِهَا . حَتَّى يُظْهَرَ الْأَفْعَالُ . وَحَقِيقَتُهُ أَنَّ التَّعَلُّقَ  
 لَيْسَ أَيْضًا بِحَادِثٍ . وَلَكِنَّ الْحَادِثَ هُوَ الْمُتَعَلِّقُ . فَيُظْهَرُ أَحْكَامُ  
 التَّعَلُّقِ مُتَفَاوِتَةً . وَهُوَ بَرِيٌّ عَنِ الْحُدُوثِ وَالتَّعَدُّدِ مِنْ جَمِيعِ  
 الوجود  
 الوجوه .

ترجمہ :- نہ سبب ظاہری اور عربی عام و عادت کے اعتبار سے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ طبیب نے بیمار کو شفا دی اور بادشاہ نے لشکر کو روزی دی کر یہ بالکل دوسری بات ہے اگرچہ الفاظ (اور کہنے سننے) میں اس کے مشابہ۔ اور نہ کوئی اس کا مددگار (دوسرا) ہے۔ وہ نہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے۔ نہ کسی چیز میں (متحد ہوتا اور) سماتا ہے۔ کوئی حادثہ نہ پیدا نہیں اس کی ذات کریم کے ساتھ قائم نہیں۔ لہذا نہ اس کی ذات حادثہ ہے نہ صفات، جس طرح اس کی ذات قدیم ازل ابدی ہے صفات بھی قدیم ازل ابدی ہیں) ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی صفات (فعالیہ) کا تعلق اپنے متعلقات سے حادث ہوتا ہے تاکہ افعال ظاہر ہوں۔ اور حقیقت یہ

ہے کہ وہ تعلق بھی حادث نہیں۔ حادث تو وہی چیز ہے جس سے ان صفات کا تعلق ہوا۔ اسی تعلق کے اختلاف کے باعث، تعلق کے احکام مختلف ہوتے ہیں۔ اور اس کی ذات ہر اعتبار سے، ہر قسم کے حدوث اور تعدد و تفاوت سے مُبْتَلٰہ ہے۔ (الآن ہو گنا کان) وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا ازل میں تھا۔ اس میں نہ کوئی تغیر ہوا نہ کسی حدوث کو اس کے سر پر وہ جلال میں کسی قسم کا کوئی دخل)

لَيْسَ بِجَوْهَرٍ وَلَا عَرَضٍ. وَلَا جَسِيمٍ. وَلَا فِي حَيْزٍ وَجْهَةٍ.  
لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِهَيْئَةٍ وَهَيْئَالِكَ. وَلَا يَصِيحُ عَلَيْهِ الْحَرَكَةُ وَالْإِنْتِقَالُ  
وَالْتَبَدُّلُ فِي ذَاتِهِ. وَلَا فِي صِفَاتِهِ. وَالْبَاطِلُ وَلَا الْكِذْبُ. وَهُوَ  
فَوْقَ الْعَرْشِ. كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ. وَلَكِنْ لَا يَبْعَثُ التَّحْيِيزَ. وَلَا  
الْجِهَةَ. بَلْ لَا يَعْلَمُ كُنْهَ هَذَا التَّوْفِيقِ وَالِاسْتِوَاءِ إِلَّا هُوَ. وَ  
الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِتَّنَّ أَتَاكَ اللَّهُ مِنْ لَدُنْهِ عِلْمًا.

ترجمہ :- نہ وہ جوہر ہے اور نہ عرض۔ اور نہ کسی مقرر جگہ میں۔ نہ کسی متعین سمت میں۔ کہ جس کی طرف "یہاں" اور "وہاں" سے اشارہ کیا جاسکے۔ اور اس کا حرکت کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یا اپنی ذات و صفات میں کسی قسم کا تغیر قبول کرنا۔ یا لغو کرنا یا کرنا اور جھوٹ سے ملوث ہونا (یا دغا خیانت ظلم جمل بے حیائی وغیرہا عیوب) اس پر قطعاً محال ہیں۔ اور وہ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ خود اس نے اپنا وصف کریم بیان فرمایا لیکن نہ اس معنی میں کہ وہ کسی خاص سمت و جہت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت و جمیع حوادث سے پاک ہے، بلکہ اس فوقیت اور عرش پر استواء کی حقیقت اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یا پھر ان ذوات عالیہ کو اس سے آگاہی ہے جنہیں اس

نے اپنے پاس سے علم بخشا اور ان کا علم درجہ یقین کو پہنچ گیا۔

## دیدارِ الہی

وَهُوَ مَرْتَبِي لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ  
يُنْكَشِفَ عَلَيْهِمُ انْكِشَافًا بَلِيغًا أَكْثَرَ مِنَ التَّصْدِيقِ بِهِ عَقْلًا  
فَكَاتَهُ الرُّؤْيَى بِالْبَصَرِ إِلَّا أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ مُحَاذَاةٍ وَمُقَابَلَةٍ  
وَجِهَةٍ وَلَوْنٍ وَشَكْلِ. وَهَذَا الْوَجْهُ قَالَ بِهِ الْمُعْتَزِلَةُ وَغَيْرُهُمْ  
وَهُوَ حَقٌّ. إِنَّمَا خَطَأُهُمْ فِي تَأْوِيلِ الرُّؤْيَى بِهَذَا الْمَعْنَى حَصْرُهُمْ  
الرُّؤْيَى فِي هَذَا الْمَعْنَى.

وَتَأْنِيهِمَا أَنْ يَتَشَبَّهَ لَمْ بِصُورَةٍ كَثِيرَةٍ. كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ  
فِي السُّنَّةِ. فَيَرَوْنَهُمْ بِأَبْصَارِهِمْ بِالشَّكْلِ وَاللَّوْنِ وَالْمُوجِهَةِ  
كَمَا يَقَعُ فِي مَنَامٍ.

ترجمہ ۱۔ اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کا دیدار آخرت میں ہر صاحب ایمان (سنی مسلمان) کو ہوگا۔ اور اس کی دو صورتیں، متصور ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ان پر تجلی خاص فرمائے اور اس کا دیدار بلا کیف، تصدیق عقلی سے زیادہ منکشف اور روشن تر ہوگا۔ تاکہ انہیں اس کا ظاہری طور پر نظر نہ کر رہی ہیں۔ لیکن یوں کہ وہ نہ کسی کے محاذات میں ہونہ کسی کے مقابلہ میں۔ نہ کسی بہت خاص میں نہ کسی رنگ و شکل و صورت میں۔ یہ عقیدہ معتزلہ وغیرہ کا ہے اور وہ حق ہی ہے لیکن ان کی

غلطی یہ ہے کہ انہوں نے، اس معنی کے اعتبار سے دیدار الہی کو، اسی طریقہ تاویل میں منحصر کر دیا ہے۔

اور دوسری صورت، دیدار الہی کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک روشن ترین ستارے کی مانند اہل ایمان پر نمودار ہو جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا۔ اور اہل ایمان کی نگاہوں میں بظاہر حبت تشکل، مکان اور رنگ سے، اس کی زیارت معنوی و عقلی ہو جائے۔ جیسا کہ خواب میں واقع ہوتا ہے حالانکہ وہ رویت عقلی ہوتی ہے عینی نہیں)

كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ رَأَيْتُمْ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ. فَيَرُونَ هُنَاكَ كَمَا يَرُونَ فِي الدُّنْيَا مَنَامًا. وَهَذَا إِنْ الْوَجْهَانِ تَقَهَّمَهُمَا وَتَعْتَقِدُهُمَا. وَإِنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ أَرَادَ بِالرُّؤْيَةِ غَيْرَهُمَا فَحَقٌّ. أَمَّا بِمُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ بِعَيْنِهِ ذَلِكَ.

ترجمہ ۱۔ اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دیدار الہی کی وہی صورت ہو جیسی ہمیں خواب میں دوسری چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ دونوں وہ صورتیں ہیں جو ہماری فہم ناقص میں آتی ہیں اور ہم ان پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ و رسول کے نزدیک، رویت الہی سے ان دونوں طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ مراد ہے تو وہی حق و صواب ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا و رسول کی جو مراد ہے وہ حق ہے اگرچہ ہم اسے کما حقہ نہ سمجھ پائیں۔



## قدرتِ الہی

مَا شَاءَ اللهُ كَانَ. وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ فَالْكَفْرُ وَالنَّعَاصِي  
 بِخَلْقِهِ وَإِرَادَتِهِ لَا يَرْضَاهُ. وَغَنِيٌّ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ فِي ذَاتِهِ  
 وَصِفَاتِهِ. وَلَا حَاكِمَ عَلَيْهِ. وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِإِجَابِ غَيْرِهِ.  
 نَعْمَ قَدْ يَعِدُ شَيْئًا فَوَفِيٌّ بِالْوَعْدِ. كَمَا وَرَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ.  
 وَجَمِيعُ أَعْمَالِهِ يَتَضَمَّنُ الْحِكْمَةَ وَالْمَصْلِحَةَ الْكُلِّيَّةَ. عَلَى مَا لَمْ  
 نَعْلَمْ. وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ اللَّطْفُ الْجُزْئِيُّ الْخَاصُّ وَالْإِصْلَاحُ الْخَاصُّ  
 لِأَقْبِيحٍ مِنْهُ. وَلَا يُنْسَبُ فِي مَا يَفْعَلُ أَوْ يَحْكُمُ عَلَى جَوْرٍ وَظُلْمٍ.  
 يُرَاسِي الْحِكْمَةَ فِي مَا خَلَقَ وَأَمَرَ. لِأَنَّهُ يَسْتَكْبِلُ نَفْسَهُ وَ  
 صِفَاتَهُ بِشَيْءٍ. وَأَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ وَغَرَضٌ. فَإِنَّ ذَلِكَ  
 ضَعْفٌ وَقُبْحٌ.

ترجمہ: جو اس نے چاہا وہ ہو گیا اور جو نہ چاہا نہ ہوا۔ پس کفر و معصیت کو اسی نے  
 پیدا کیا اس کے ارادے سے ہے لیکن وہ ان سے راضی نہیں۔ وہ غنی و بے نیاز ہے اپنی ذات  
 و صفات میں کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں۔ اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اور نہ کسی دوسرے کے  
 لازم کر دینے سے اس پر کوئی شے لازم ہو جاتی ہے۔ مالک علی الاطلاق ہے جو چاہے کرے  
 اس نے اپنے کرم سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرماتا ہے۔ اس کے وعدہ و وعید بدلتے

نیں) چنانچہ احادیث میں ہے کہ (جو فلاں کام کرے وہ جنت میں جائے گا) اللہ اس کا ضامن ہے۔ اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں اور بے شمار مصلحتیں ہیں خواہ ہم کو (معلوم ہوں یا) نہ معلوم ہوں۔ اس پر کسی خاص بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو کچھ واجب نہیں۔ وہ برائی سے پاک و صاف ہے۔ اس کے کسی فعل یا حکم کی طرف ظلم و زیادتی کی نسبت نہیں کی جاسکتی (وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے) وہ جو کچھ کرتا یا جس کام کا حکم ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی مصلحت سے ہوتا ہے) لیکن اس کا حکم دینا (یا کسی چیز سے روکنا) اس لئے نہیں کہ اس کام کے کرنے یا نہ کرنے سے اس کی ذات و صفات میں کوئی کمال حاصل ہوگا۔ اور نہ اس لئے کہ اس میں اس کی کوئی غرض و غایت ہے کہ یہ چیزیں صنعت و نقصان کی علامتیں ہیں (اور وہ اس سے برتر و بالا)

لَا حَاكِمَ سِوَاكَ . فَلَيْسَ لِلْعَقْلِ حُكْمٌ فِي حُسْنِ الْأَشْيَاءِ وَ قُبْحِهَا . وَ كَوْنِ الْفِعْلِ سَبَبًا لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ . وَإِنَّمَا حُسْنُ الْأَشْيَاءِ وَ قُبْحُهَا بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَ حُكْمِهِ وَ تَكْلِيفِهِ لِلنَّاسِ . فَمِنْهَا مَا يُدْرِكُ الْعَقْلُ وَجَهَ مَصْلِحَتِهِ وَ مَنَاسِبَتِهِ لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ . وَمِنْهَا مَا لَا تُدْرِكُ إِلَّا بِأَخْبَارِ الرُّسُلِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَ كُلُّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ وَ أَحَدَةٌ بِالذَّاتِ . غَيْرُ مَتْنَاهِيَةٍ بِحَسَبِ التَّعَلُّقِ بِالْمَعْنَى .

ترجمہ :- اس کے سوا حقیقتہً کوئی دوسرا حاکم نہیں (نور دوسرا اس پر نہ کوئی حکم چلا سکتا ہے اور نہ اپنے حقوق کا اظہار کر کے اس سے کوئی مطالبہ کر سکتا ہے) لہذا کسی چیز کی جہانی برائی، اور کسی کام کا، باعث ثواب و عذاب ہونا، عقل پر منحصر نہیں (کہ عقل نکم ہی ہے)



بلکہ چیزوں کا بعلا برا ہونا، اس بات پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اچھا بتایا، اس کے کرنے کا بندوں کو حکم دیا اور انہیں اس کا مکلف بنایا ہے۔ البتہ ان میں بعض امور ایسے ہیں جن کی افادیت (بندوں کے حق میں مفید ہونا) اور ان امور کا ثواب و عذاب کے مناسب ہونا، عقل انسانی بھی پہچان لیتی ہے جبکہ بعض امور ایسے بھی ہیں جن کی اچھائی برائی جلتے پہچاننے میں ہماری عقل قاصر ہے۔ اور جب تک انبیائے کرام، وحی الہی کے ذریعہ ہمیں ان کا حسن و برقع نہ بتائیں ہم بادی النظر میں آگاہ نہیں ہو سکتے۔ خدائے تعالیٰ کی ہر صفت بذات خود واحد ہے (کوئی کسی صفت میں اس کا شریک نہیں) ہاں اس کا اپنے متعلقات سے تعلق غیر متناہی اور لا انتہا ہے۔ (وہ ذرہ ذرہ کو محیط ہے)

## فرشتے اور شیاطین

وَلِلَّهِ تَعَالَىٰ مَلَائِكَةٌ عَلِيُّونَ مُؤْتَرِبُونَ. وَمَلَائِكَةٌ مُّوَكَّلُونَ  
عَلَىٰ كِتَابَةِ الْأَعْمَالِ. وَحِفْظِ الْعِبَادِ عَنِ الْمَهَالِكِ. وَالذَّعْوَةِ إِلَى  
الْخَيْرِ. وَيَلْتَمُونَ بِالْعِبَادِ لِمَةِ الْخَيْرِ. لِكُلِّ وَاحِدٍ مَّقَامٌ مَّعْلُومٌ.  
لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.  
وَمِنْ خَلْقِ الشَّيَاطِينِ. لَهُمْ لَمَّةٌ شَرِّ بَابِ آدَمَ

## قرآن

وَالْقُرْآنُ كَلَامٌ أَوْجَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ بَيْتِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. أَوْ مِنْ وَرَائِهِ

حِجَابٍ. أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بآذَانِهِ مَا يَشَاءُ فَهَذَا حَقِيقَةُ  
الْوَحْيِ.

ترجمہ :- اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کئے ہیں۔ ان کو مختلف خدمتیں سپرد ہیں۔ ان میں سے بعض فرشتے (مقرب بارگاہ الہی ہیں) اور یہ سب ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں) ان کو علوی کہتے ہیں۔ اور بعض کے متعلق انسانوں کے اعمال نامے لکھنے کی خدمت سپرد ہے۔ بعض کے متعلق انسانوں کے اعمال نامے لکھنے کی خدمت سپرد ہے۔ بعض انسان کی ہلاکتوں اور دشمنوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ بعض انسان کو بھلائی اور خیر کی طرف بلا تے اور نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ان فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک خاص منصب و مقام ہے۔ خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے نہ تصدآنہ سہوانہ خطاء۔ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ مخلوقات الہی میں شیاطین بھی ہیں۔ جو بنی آدم کو برائی پر آمادہ کرتے ہیں

اور قرآن مجید کلام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اور یہ بات کس بشر کے لئے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے دو بد و گفتگو کرے مگر وحی کے طور پر (یعنی بے واسطہ۔ اس کے دل میں القا فرما کر اور الہام کر کے۔ بیداری میں خواہ خواب میں) یا یوں کہ وہ بشر پس پردہ اس کا کلام سنے۔ یا اللہ تعالیٰ کوئی فرشتے بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے۔



## اسمائے الہی

وَلَا يَجُوزُ الْإِيْجَادُ فِيْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَصِفَاتِهِ فَيَتَوَقَّفُ  
الْاِطْلَاقُ عَلَى الشَّرْعِ .

## معاد و محشر

وَالْمَعَادُ الْجَسْمَانِي حَقٌّ . يُحْشَرُ الْاَجْسَادُ . وَيُعَادُ فِيْهَا  
الْاَرْوَاحُ . وَيَكُوْنُ الْاَبْدَانُ تِلْكَ الَّتِي كَانَتْ شَرْعًا وَعُرْفًا . وَاِنْ  
طَالَتْ اَوْ قَصُرَتْ . كَمَا وَرَدَ اَنْ ضَرَسَ الْكٰفِرُ مِثْلُ اُحِدٍ . اَوْ  
كَانَتْ الطَّفَ مِنْهَا . كَمَا وَرَدَ فِيْ صِفَةِ اَهْلِ الْجَنَّةِ . وَذٰلِكَ اَنَّ  
الصَّبِيَّ هُوَ الَّذِي يَشْبُ وَيَشِيْبُ . وَاِنْ تَبَدَّلَتِ الْاَجْزَاءُ فِيْهِ  
اَلْفَ مَرَّةٍ . وَالْمُجَازَاتُ وَالْمُحَاسِبَاتُ وَالْيَصْرَاطُ وَالْمِيْزَانُ  
حَقٌّ .

ترجمہ در اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات میں کوئی نام محض اپنی طرف سے ایجاد  
کرنا جائز نہیں۔ اسمائے الہیہ سب توقیفی ہیں اور ذات باری تعالیٰ پر ان کا اطلاق امرت  
شرع پر موقوف و منحصر ہے۔

معاد جسمانی (یعنی قیامت کے روز جسموں کا اپنی اپنی تہ و نون سے اٹھنا) برحق ہے۔  
لوگوں کے اجسام اٹھے جائیں گے اور دنیا میں جو روح جس جسم سے متعلق تھی۔ اس میں درباراً

ڈال دی جائے گی۔ شرعاً بھی یہی بات ہے اور عرف و عادت کا بھی یہی تقاضا ہے ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ طویل و کوتاہ کر دیئے جائیں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ کافر کی داڑھ کوہ احد کے برابر ہو جائے گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اجسام اس سے زیادہ لطیف اور خوب صورت ہو جائیں جیسے دنیا میں تھے۔ جیسا کہ جنتیوں کے بارے میں وارد ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بچہ۔ وہی بچہ جو ان ہوا وہی بوڑھا ہوا۔ اور اس کے اجزاء ہزار ہا بار ادا لتے بدلتے رہے۔ نیک و بد اعمال پر جزا و سزا۔ لوگوں کے اچھے برے اعمال کا حساب کتاب۔ اور صراط و میزان حق ہے اسی میزان میں لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے۔

## جنت و دوزخ

وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ. وَهُمَا مَخْلُوقَتَانِ الْيَوْمَ. وَلَمْ يُصَيَّرْ  
 نَصٌّ بِتَعْيِينِ مَكَانِهِمَا بَلْ هُمَا حَيْثُ يَشَاءُ اللَّهُ. إِذْ لَا إِحَاطَةَ  
 لَنَا بِخَلْقِ اللَّهِ وَعَوَالِيهِ. وَلَا يَخْلُدُ الْمُسْلِمُ صَاحِبُ الْكِبْرَةِ فِي  
 النَّارِ. وَهِيَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ تَجْتَنِبُوا الْكِبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ  
 عَنْهُ نَكِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. يَعْنِي بِالصَّلَاةِ وَالنَّكَارَاتِ وَالْعَفْوِ  
 عَنِ الْكِبَائِرِ جَائِزٌ. عَيْرَ أَنْ أَفْعَالَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَلَى  
 وَجْهِينَ. مُوَافَقَةً لِسُنَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَائِنَةً عَلَى سَبِيلِ الْخُرْقِ  
 وَعَفْوِ الْكِبَائِرِ عَمَّنْ مَاتَ بِلَا تَوْبَةٍ جَائِزٌ مِنْ بَابِ خُرْقِ الْعَوَائِدِ.

وَهَذَا أَوْجَهُ التَّطْبِيقِ بَيْنَ النَّصُوصِ الْمُتَعَارِضَةِ بَادِي الزَّارِي

ترجمہ :- اور جنت و دوزخ حق میں اور آج سے (بہارِ سال) پیشتر پیدا ہو چکی ہیں  
ہاں کوئی نص صریح ان کی ناس بگہ بتانے کے متعلق وارد نہیں بلکہ یہ دونوں اسی جگہ میں جہاں  
خدا نے چاہا۔ ہمارا علم اور ہماری معلومات، آخر تمام مخلوق الہی اور ساری کائنات کو تو محیط  
نہیں۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا اور جنت میں جائے گا  
جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے کہ اگر تم ممنوع کاموں میں سے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو  
ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف فرمادیں گے۔ تو یہ بات ماننی چاہیے کہ نماز و  
کفارات وغیرہ کے باعث یہ بات جائز ہے کہ اللہ عزوجل محض اپنے فضل سے اس کی مغفرت  
فرمادے اور گناہ کبیرہ پر مواخذہ نہ فرمائے۔

مگر چونکہ افعال الہی دنیا و آخرت میں دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ کہ سنت الہیہ کے  
موافق ہیں اور دوسرے ہمارے اعتبار سے بطور خرق عادت تو ان لوگوں کے کبیرہ گناہوں  
کی معافی جو توبہ کئے بغیر اس دنیا سے سدھار گئے۔ بطور خرق عادت کے ہو جائے تو ایسا  
ہونا جائز و ممکن ہے۔ اس طرح شریعت کے ان نصوص میں بھی تطبیق ہو جاتی ہے جو بادی النظر  
میں مختلف اور باہم متعارض معلوم ہوتی ہیں۔

## شفاعت

وَالشَّفَاعَةُ حَقٌّ لِمَنْ أَدِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ۔ وَشَّفَاعَةُ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْكِبَايَرِ مِنْ أُمَّتِهِ حَقٌّ۔ وَ

هُوَ شَفِيعٌ۔ وَحَيْثُ وَقَعَ نَفْيُ الشَّفَاعَةِ فَالْمُرَادُ مِنْهَا الشَّفَاعَةُ

الَّتِي تَكُونُ بِغَيْرِ إِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِرِضَائِهِ۔ وَعَدَابُ الْقَبْرِ

بِغَايِبِهَا وَتَنْعِيمُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ حَقٌّ۔ وَسَوَالُ الْمُنْكَرِ وَالْمُكْدِرِ حَقٌّ۔

ترجمہ: اور شفاعت حق ہے اور ان لوگوں کے لئے ثابت ہے جن کو شفاعت کرنے کی خدائے رحمن و رحیم نے اجازت دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے اہل کبائر کا شفاعت فرمانا حق ہے اور وہ یقیناً شفع روز محشر ہیں۔ اور شریعت مطہرہ میں جہاں شفاعت کا انکار آیا ہے تو اس نفی سے مراد وہی شفاعت ہے جو اذن الہی اور مرضی خداوندی کے برخلاف ہو یعنی کفار اور ان کے معبودان باطل کی، گناہگار اور بدکاروں پر قبر میں عذاب ہونا اور نیکو کار مسلمانوں کا اپنی اپنی قبروں میں نعمتیں پانا دونوں باتیں برحق ہیں اور قبر میں منکر نکیر کا مردے سے سوال کرنا برحق ہے۔

## رسالت

وَبَعَثْنَا الرُّسُلَ إِلَى الْخَلْقِ حَقًّا . وَتَكَلِّفُ اللّٰهُ عِبَادًا بِالْأَمْرِ  
وَالنَّهْيِ عَلَى السُّنَّةِ الرُّسُلِ حَقًّا وَهُمْ مُتَّمَيِّزُونَ بِأُمُورٍ لَا يُوجَدُ  
فِي غَيْرِهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْتِمَاعِ . تَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِمْ نَبِيًّا . مِنْهَا  
خَرَقُ الْعَوَائِدِ لَهُمْ . وَمِنْهَا سَلَامَةُ فِطْرَتِهِمْ . وَكَمَالُ اخْتِلَافِهِمْ  
وَعَبْرَةُ ذَلِكَ . وَالْأَنْبِيَاءُ مَعْصُومُونَ مِنَ الْكُفْرِ وَتَعَمُّدِ الْكِبَائِرِ  
وَالْإِصْرَارِ عَلَيْهَا . يَعْصِمُهُمُ اللّٰهُ عَنْهَا بِوَجْوهٍ ثَلَاثَةٍ . أَحَدُهَا  
أَنَّ يَخْلُقُهُمْ فِي سَلَامَةِ الْفِطْرَةِ وَكَمَالِ إِعْتِدَالِ الْإِخْلَاقِ  
فَلَا يَرْغَبُونَ فِي الْمَعَاصِي . بَلْ يَكُونُونَ مُتَنَفِّرِينَ عَنْهَا .

ترجمہ: اور خدائے تعالیٰ کا اپنے رسولوں کو جو اس کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لئے مبعوث فرمانا برحق ہے۔ اور اس کا اپنے بندوں

کو اپنے پیغمبروں کی وساطت سے، اچھے کاموں کا حکم دے کر اور برے کاموں سے روک کر، مکلف بنانا برحق ہے۔ یہ انبیاء و رسل اور لوگوں سے، ان امور کے باعث ممتاز ہوتے ہیں جو اوروں میں برسبیل اجتماع (سب ایک ساتھ) نہیں پائے جلتے۔ اور یہی امور ان کی نبوت کی دلیل (حکم) ہوتے ہیں۔ انہیں امور میں سے یہ ہے کہ انہیں معجزے دیئے جلتے ہیں۔ انہیں میں سے یہ ہے کہ ان کی فطرت سلیم (اور سلامت روی ان کا خاصہ) ہوتی ہے اور ان کے اخلاق میں کمال پایا جاتا ہے۔ یوں اور خصوصیتیں۔ انبیاء و مرسلین کفر و شرک سے (قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع) معصوم ہیں۔ اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے مطلقاً اور گناہ صغیرہ پر اصرار سے بھی (قبل نبوت و بعد نبوت) معصوم ہیں۔ خدائے تعالیٰ ان کو سب برائیوں سے تین طرح بچاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو فطرت سلیم پر پیدا فرماتا ہے اور ان کے اخلاق میں کمال درجہ کا اعتدال بخشا ہے (اسی قوت تدبیر کے باعث) وہ گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ ہر حال میں ان سے دور و نفور رہتے ہیں۔

وَتَأْنِيهَا أَنْ يُوحَى إِلَيْهِمْ أَنَّ الْمَعَاصِيَ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا. وَ  
الظَّاعَاتُ يُثَابُ عَلَيْهَا. فَيَكُونُ ذَلِكَ رَادِعًا عَنِ الْمَعَاصِي. وَ  
الثَّالِثُ أَنْ يَحُولَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَعَاصِي بِأَخْدَاتِ لَطِيفَةِ  
عَيْنِيَّةٍ. كَظَاهِرِ صُورَةِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَاصِيًا عَلَى  
إِصْبَعِهِ فِي قِصَّةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَاثِمَةُ النَّبِيِّينَ. لِأَنِّي بَعْدَاةٌ. وَدَعْوَتُهُ عَامَّةٌ لِجَمِيعِ

الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. وَهُوَ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَذَا الْخَاصَّةِ. وَبِخَوَاصِّ  
أُخْرَى نَحْوِ هَذَا.

ترجمہ :- اور دوسری وجہ امتیاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بذریعہ وحی گناہوں کے  
عذاب، اور طاعتوں کے ثواب سے آگاہ فرماتا رہتا ہے اور یہ چیز بھی ان کو گناہوں سے بچاتی  
ہے۔ اور تمیزی صورت یہ ہے کہ رحمت الہی، لطف آمیز غیبی تنبیہوں سے، ان کے اور نافرمانیوں  
کے درمیان حائل ہو جاتی ہے (اور یہ تائید و نصرت غیبی) انہیں ہر لغزش سے بچا لیتی ہے  
جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ (جب زلیخا آپ کے درپے ہوئی تو)  
آپ نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ انگشت مبارک، دندانِ اقدس کے  
نیچے دبا کر اجتناب کا اشارہ فرماتے ہیں۔

## اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

خاتم النبیین ہیں اللہ عزوجل نے سلسلہ نبوت حضور پر ختم کر دیا حضور کے زمانہ  
یا بعد، کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور حضور کی دعوت اسلام تمام جن وانس کے لئے عام ہے  
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق انسان و جن (بلکہ ملائکہ حیوانات جمادات سب کی  
طرف مبعوث ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں ختم نبوت کے  
خصوصیت کے لحاظ سے بھی اور دوسرے ایسے ہی اور سائنس کے اعتبار سے بھی۔

## اولیاء اللہ

وَكِرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ. الْعَارِفُونَ بِاللَّهِ  
تَعَالَى وَصِفَاتِهِ. الْمُحْسِنُونَ فِي إِيْمَانِهِمْ. حَقٌّ. يُكْرَمُ بِهَا مَنْ



يُنْشَاءُ وَيَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يُرِيدُ

## عشرہ مبشرہ

وَنَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ وَالْخَيْرِ لِلْعَشْرَةِ الْمُبَشِّرَةِ - وَفَلِطَمَةَ  
حُدَايَةَ وَعَالِشَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى  
عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - وَنَوْمٌ بِهِمْ - وَنَعْرِفُ تَعْظِيمَ مَجْلِسِهِمْ فِي  
الْإِسْلَامِ - وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْبَدَايَا وَأَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ -

اور اولیاء اللہ کی کرامات حق و ثابت ہیں۔ اور یہ کامل الایمان مسلمان ہیں جنہیں اللہ  
تعالیٰ کی ذات و صفات کا عرفان ہوتا ہے۔ اور اپنے ایمان (علم و عمل) میں راست باز و نیکوکار  
ہوتے ہیں۔ اسی قرب خاص سے اللہ جسے چاہتا ہے معزز فرماتا ہے اور وہ جسے چاہے اپنی رحمت  
سے امتیاز بخشنے۔

اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ (وہ دس صحابی جن کو جنت کا مشرکہ ملا) قطعی جنتی اور  
اصحاب خیر ہیں۔ یوہیں حضرت بل بل فاطمہ الزہراء اور حضرت حذیفہ و حضرت صدیقہ عائشہ اور  
حضرات حسین یعنی حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ سب جنتی ہیں  
ہم ان کی اقتداء کرتے اور ان کے ان عظیم مراتب کو پہچانتے اور ملتے ہیں جو انیس اسلام  
(دوسلمین) میں حاصل ہے۔ اسی طرح اصحاب بدر و اصحاب بیعت الرضوان یہ سب قطعی جنتی ہیں۔

## خلفائے راشدین

وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إِمَامٌ حَقٌّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ عُمَرُ. ثُمَّ عَثْمَانُ. ثُمَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى  
عَنْهُمْ. ثُمَّ تَمَّتِ الْخِلَافَةُ وَبَعْدَهُ مُلْكُ عَصَاوُضٍ. وَأَبُو بَكْرٍ  
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُمَرُ. وَلَا نَعْنِي الْأَفْضَلِيَّةَ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ  
حَتَّى تَعَمَّ النَّسَبَ وَالشَّجَاعَةَ وَالْقُوَّةَ وَالْعِلْمَ وَأَمْثَالَهَا. بَلْ  
هِيَ بِمَعْنَى عَظَمِ نَفْعِهِ فِي الْإِسْلَامِ. فَالْأَمِيرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَوَزِيرَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا  
بِاعْتِبَارِ الْهِمَّةِ الْبَالِغَةِ فِي إِشَاعَةِ الْحَقِّ.

ترجمہ :- اور حضرت ابوبکر صدیق، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد امام مطلق  
اور حضور کے خلیفہ برحق ہیں۔ پھر عمر فاروق اعظم پھر حضرت عثمان غنی۔ پھر حضرت مولیٰ علی۔  
رضی اللہ تعالیٰ عنہم (پھر چھ مہینے کے لئے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ان حضرات پر  
خلافت راشدہ تمام ہوئی پھر اس کے بعد اسلامی بادشاہت کا پھر جبر و تشدد کا دور آیا۔ حضرت  
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اور دیگر انبیاء و مرسلین کے بعد تمام  
مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم (پھر عثمان غنی پھر مولا علی  
رضی اللہ تعالیٰ عنہم) اور اس افضلیت سے ہماری مراد وہ افضلیت نہیں جو شجاعت و قوت  
اور علم و نسب اور ایسی ہی دوسری چیزوں کو شامل ہو بلکہ ہماری اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ عزوجل  
کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہونے کے باعث) دین اسلام کو ان سے جتنا فائدہ پہنچا  
کسی اور سے نہ پہنچا۔ مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہنشاہ ہیں اور ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ  
عنہما دونوں آپ کے وزیر۔ اس وجہ سے کہ آپ نے دین حق، دین اسلام کی اشاعت میں

پوری تندہی سے کام لیا (اور حضور کی سچی نیابت کا پورا حق ادا کر دیا)

فَإِنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَيْنِ. وَجْهٌ يَأْخُذُ  
مِنَ اللَّهِ وَجْهٌ يُعْطَى الْخَلْقَ. وَلَهُمَا فِي الْأَعْطَاءِ لِلْخَلْقِ تَأْلِيفًا  
لِلنَّاسِ. وَجَمْعًا لَهُمْ وَتَدَابِيرًا لِلْحَرْبِ يَدَا طَوْلِي.

وَنَكْفُ السِّنْتَانَا عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ. وَهُمْ  
أَيْتُنَا وَقَادَتُنَا فِي الدِّينِ. وَسَبُّهُمْ حَرَامٌ وَتَعْظِيمُهُمْ وَاجِبٌ.

ترجمہ:- اس لئے کہ (ہر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام بالخصوص) سید الانبیاء صلی اللہ  
علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خدا کی مرضی کی باتیں بارگاہِ الہی سے حاصل کریں۔  
دوسری یہ کہ ان باتوں کو مخلوق خدا تک پہنچائیں اور ان دونوں یعنی ابوبکر صدیق اور عمر فاروق  
اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آخری حیثیت کے اعتبار سے حفظ وافر پایا تھا۔ یعنی اس فیضان  
ابی کو مخلوق خدا تک پہنچانے، ان کی تالیفِ قلوب اور انہیں مرکزِ اسلام پر جمع کرنے اور جنگی  
تدابیر میں کمال حاصل تھا۔ اور ہم صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کریں خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے  
وہ سب ہمارے دینی پیشوا اور مقتدا ہیں۔ ان میں کسی کے ساتھ بد عقیدگی، اور ان کی کسی بات  
پر طعن کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا سب حرام ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کی تعظیم و تکریم بجا  
لائے رہیں۔

## تکفیر اہل قبلہ

وَلَا تُكْفِرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ. إِلَّا بِمَا فِيهِ نَفْسُ الْقَلْبِ

الْمُخْتَارِ أَوْ عِبَادَةً غَيْرِ اللَّهِ. أَوْ انْكَارَ الْمَعَادِ. وَالنَّبِيِّ. وَسَائِرِ

ضُرُورِيَّاتِ الدِّينِ . وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ . وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ .  
 وَاجِبٌ . وَالشَّرْطُ أَنْ لَا يُؤَدِّيَ إِلَى الْفِتْنَةِ . وَأَنْ يُظَنَّ قَبُولَهُ .  
 فَهَذَا عَقِيدَاتِي أُوْمِنُ بِاللَّهِ تَعَالَى بِهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَالْحَمْدُ  
 لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا .

ترجمہ :- اور ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے۔ ہاں اگر کوئی کلمہ گو قادر مختار  
 کا منکر ہو یا وہ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش و عبادت کرے، یا وہ حشر نشر کا انکار کرے یا  
 نبی کی عظمتوں کو نہ مانے یا ضروریات دین میں سے کسی ایک ضروری دینی کو ضروریات دین سے نہ  
 جانے، وہ بے شک (اسلامی برادری سے خارج اور) مستحق تکفیر ہے۔

اور اچھے کاموں کا حکم کرنا۔ بری باتوں سے روکنا، ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن شرط یہ ہے  
 کہ اس سے فتنہ و فساد برپا نہ ہو اور اس کا بھی غالب گمان ہو کہ اسے قبول کر لیا جائے گا  
 (ورنہ نہیں)

یہ ہیں میرے عقیدے۔ اور میں ظاہر و باطن میں انہیں پر کاربند اور بارگاہ الہی میں  
 ان کی قبولیت کا متوقع ہوں۔ اور سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ اول و آخر و ظاہر  
 و باطن میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اے دادہ حبیب را، کلید تمہہ کار

بارانِ دُرود، برزخِ پاکش بار

دستے کہ بدامان کریمش زردہ ایم

ز نہارِ بدستِ دیگرانشِ مسپار

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلْوَةٌ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ

## اسلام (دین توحید)

ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام صرف چند عقائد یا صرف چند عبادات یا صرف چند قوانین کے مجموعہ کا نام نہیں وہ تو ایک جامع و مانع نظام حیات ہے ایک مکمل و منظم دستور زندگی ہے جو سعادت دارین کا جامع اور صلاح و فلاح ثقلین کا ذخیرہ ہے۔ اور انسانیت کے ایک ایک شعبہ ہر گوشہ پر حاوی۔ اور اس کا ہر جزو، اس کے کل سے، اور اس کے دوسرے اجزا سے نہایت درجہ مربوط و منظم۔ اسی لئے قرآن عظیم مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ کسی استثناء اور ہیر پھیر کے بغیر، اپنی پوری زندگی کو اسلام کے تحت لے آؤ کہ ظاہری و باطنی، انفرادی و اجتماعی، اعتقادی و عملی زندگی میں، اور موت و حیات کے تمام اعمال و امور میں اسلام ہی کا رنگ چڑھا رہے صِبْغَةَ اللّٰهِ وَ مَنۢ مِّنۡ اٰمَنۡ مِّنۡ اللّٰهِ جِبۡغَةً۔ اور ان کے خیالات، ان کے نظریات، ان کے علوم، ان کے طور طریقے، ان کے معاملات اور ان کی سہمی و عمل کے راستے، سب کے سب تابع اسلام ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص توحید تو اسلام سے لے لے لیکن عبادات کے لئے مسجد، مندر، کلیسا سب کو یکساں سمجھے۔ یا رسالت پر تو ایمان لے آئے لیکن معاشیات کے قاعدے اور اخلاق کے ضابطے کسی اور اور سے لینے جائے۔ آدمی کہلاتا تو رہے مسلمان، لیکن اس میں اختیار کر لے جو س کے معاشرت لے لے کفار و ہنود کی۔ قانون فوجداری پسند کر لے ملحدین فرنگ کی اور معاملات کرنے لگے دستور یہود و نصاری کے مطابق قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے۔

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا اَدْخُلُوۡا فِى السَّبِيۡلِ كَاۡفَّةً ۙ مِّنۡ دَلٰلَتۡ بَعۡوِ الْاُخۡطَاۡتِ الشَّيۡطٰنِ ۗ  
یعنی اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو،

شیطان کے نقش قدم پر چلنا یہی ہے کہ اسلام میں غیر اسلام کی آمیزش اور حق کے ساتھ باطل کی پیوند کاری کی جانے لگے اور کسی نہ کسی نام سے اس کے ساتھ کسی ازم کا رشتہ نااطہ جوڑ دیا جائے جیسے اسلامی سوشلزم وغیرہ قرآن عظیم کا صاف ارشاد گرامی ہے قصداً و

دانستہ، مخالفت اور حق کے ساتھ باطل کا امتزاج تو پھر بڑی چیز ہے، غلطی یا بے خیالی یا بے اختیاری میں بھی پھسل جانے اور راہ حق سے بہک جانے میں بھی گرفت کی جاسکتی ہے۔ یہاں یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ ہر زمانہ کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا اس کی اطاعت و اتباع کو اسلام کہتے ہیں یہاں تک کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اسلام نام ہو گیا اتباع محمدی کا اس ذات اقدس کو چھوڑ کر کوئی شخص اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ گمراہی کا راستہ ہوگا اور حضور کی غلامی کو چھوڑ کر جو شخص بھی کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ بلکہ آدمی حق سے ہٹے ہوئے اس راستہ پر جتنا دوڑے گا، حق و صداقت سے اتنا ہی دور جا پڑے گا۔ *وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ* اور یہ بات کوئی مسلمان مرد خواہ عورت، ہرگز نہ بھولے اور کسی لمحہ اس حقیقت سے غافل نہ رہے کہ اسلام فقط طوطے کی طرح، زبان سے کلمہ رٹ لینے کا نام نہیں۔ اور نہ صرف ظاہری عبادت و ریاضت، نجات اخروی کی ضامن ہے۔ عبادت کی اصل ایمان ہے بغیر ایمان و درستگی عقائد، عبادت و ریاضت بیکار۔ کہ جڑ ہی نہ رہی تو نتائج و ثمرات کہاں۔ درخت پھول پھل اسی وقت لاتا ہے کہ اس کی جڑ قائم ہو۔ کافروں میں بہتیرے جوگی اور راہب، ترک دنیا کر کے، اپنے طور پر ذکر اور پوجا پاٹ میں عمریں کاٹ دیتے ہیں بلکہ ان میں بہت وہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے اور ضربیں لگاتے ہیں۔ مگر از انجا کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں۔ کیا فائدہ؟ اصلاً بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، حضور کے روبرو، منافقوں نے کیسی کیسی تاکیدوں سے مؤکد اور کیسی کیسی قسموں سے مؤید، کلمہ گوئی کا اظہار کیا لیکن اللہ واحد قہار نے، ایسوں کے جھوٹے اور کذاب ہونے کی گواہی دی۔

تو اصل چیز، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت اور ان کی تعظیم و تکریم ہے بلکہ پوج پوچھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقادِ عظمت جزو ایمان و رکن ایمان ہے۔ تو اعمال کی درستی، عقائد کی درستی پر مبنی ہے عقائد

اصول ہیں اور اعمال فروع۔ عقیدے درست ہیں تو اعمال کی قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے ورنہ سارا کیا دھرا برباد۔ سب جہنم کا ایندھن۔ محض کاغذی پھول کہ

دیکھنے میں خوشنما، بوئے وفا کچھ بھی نہیں

### یاد رکھنا چاہیے

(۱) اسلام کی صداقت ہی نے نسل و قومیت کی خصوصیتوں، اور ملک و قوم کی حالتوں، اور امیری غریبی کے امتیازوں، اور فاتح و مفتوح کے تفاوتوں، مختلف زبانوں مختلف رنگتوں سے قطع نظر کر کے بڑی خوش اسلوبی سے، سب کو، دین واحد کے رشتہ سے متحد و متفق، یکساں و مساوی، ہم سطح و ہم خیال، ہم اعتقاد و ہم آواز بنا دیا جس کی بدولت رنگتوں کا اختلاف، زبانوں کا تباہی، قومیت کا تفرقہ، ملکی خصوصیات کا امتیاز سب کچھ جاتا رہا۔ دین واحد نے سب کو ملت واحد، امت مسلمہ بنا کر ایک ہی ولولہ دلوں میں، ایک ہی جوش طبیعتوں میں ایک ہی خیال دماغوں میں، اور ایک ہی آوازہ توحید، زبانوں پر جاری کر دیا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو رشتہ توحید میں پرو کر دشمنوں کو دوست، اور جان ستانوں کو جان نثار بنا دیا۔

(۲) اسلام ہی دین توحید ہے اور یہ اسلام ہی کی توحید ہے جو فطرتِ صحیحہ اور عقل سلیمہ کے دلائل سے مزین ہے اور جس کی تائید علم و عقل کے ہر ذریعہ سے، ہر منزل، ہر قدم پر ہوتی ہے۔ اسلام کی توحید کا مسئلہ، عیسائیت کی "تثلیث" کی طرح نہیں جسے کو پادری لوگ، ہم سے بالاتر اور عقل سے بلند تر کہا کرتے ہیں۔ اور جس پر بغیر سوچے سمجھے ایمان لانے کو واجب بتایا کرتے ہیں۔

(۳) اسلام ہی روحانیت کا مذہب ہے اور اسلام ہی ذوق سلیم کو، علم و عقل اور تجربہ و مشاہدہ کے فانوسوں سے روشن کرتا اور منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔

(۴) اسلام ہی اخلاق حسنہ کا معلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "میں بزرگ ترین اخلاق اور نیکوترین اعمال کی تکمیل کے لئے نبی بنایا گیا ہوں۔"

(۵) اسلام ہی علم و علماء کا حامی ہے اور اسلام ہی نے علم کو اپنی سرپرستی میں لیا اور اسلام ہی ہے جس نے علوم کی تعظیم عام کر دی اور اسلام ہی علماء کا ماں و پلجا بنا۔



- (۶) اسلام ہی دین العمل ہے۔ اسلام ہی اپنے ماننے والوں کو دنیاوی بہبود و بھلائی کے لئے بھی حکم دیتا ہے اور آخرت کی سرخروئی و نجات کے لئے عمل کا ارشاد فرماتا ہے۔
- (۷) اسلام ہی بانی اخوت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضانِ صحبت سے اسلام میں داخل ہونے والوں میں جو اخوت قائم ہوئی وہ اپنے تقدس میں ایسی برتر و اعلیٰ ہے جس کی نظیر تاریخِ عالم میں تلاش کرنا عبث ہے۔ زمین و آسمان اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں۔
- (۸) اسلام ہی مساوات کا بانی ہے اور اسلام ہی کی یہ تعلیم ہے کہ ہر شخص کو شرعاً و قانوناً و اخلاقاً وہ تمام حقوق حاصل ہوں جو کسی دوسرے شخص کو، اسی ملک یا اسی دین کے اندر حاصل ہوں۔
- (۹) اسلام ہی نے حکومت میں رعایا کو حصہ دار بنایا اور اسلام ہی نے جملہ اقوامِ عالم کو اس اصول سے روشناس کرایا اور اس اصول کی برکات سے انہیں فائدہ اٹھانا سکھایا۔
- (۱۰) اسلام ہی وہ فیضِ رسالِ دین ہے جس سے اقوامِ عالم نے بالواسطہ فیوض حاصل کئے خواہ اسے کوئی مانے یا نہ مانے۔ (ملفوظ)

## ایمانِ محمل

أَمَنْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبَلْتُ جَمِيعَةَ أَحْكَامِهِ إِقْرَأْ بِاللِّسَانِ  
وَتَصْدِيقًا بِالْقَلْبِ ۝

(ترجمہ) ایمان لایا میں اللہ پر۔ جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے اور قبول کئے میں نے اس کے تمام احکام۔ مجھے اس کا زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین

## اسلامی عقیدوں کا خلاصہ

- (۱) اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے وہ بے پرواہ ہے کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہاں اس کا محتاج ہے۔
- (۲) لوگوں کی ہدایت و راہنمائی کے لئے جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بھیجے وہ سب بشر تھے اور شرک و کفر بلکہ ہر ایسے امر سے جو مخلوق کے لئے باعثِ نفرت ہو نیز ایسے افعال

سے جو وجاہت و مرآت کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم، تمام مخلوق سے افضل اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عزت و وجاہت والے اور اس کے محبوب و مقرب بندے ہیں۔

(۳) ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں اور خاتم النبیین کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔

(۴) انبیائے کرام پر جتنی آسمانی کتابیں اتریں اور صحیفے نازل ہوئے سب حق ہیں اور سب کلام اللہ۔ ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے۔

(۵) قرآن عظیم تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل ہے جو سب سے افضل، رسول حضور پر لورا حمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس کی حفاظت اللہ عزوجل نے اپنے ذمہ رکھی۔ اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی کا کوئی بھی امکان نہیں۔

(۶) فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہیں جو نہ مرد ہیں نہ عورت وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے۔ ان کی غذا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر ہے۔

(۷) جن، آگ سے پیدا کی گئی، خدائے تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ ان میں مسلمان بھی ہیں۔ کافر بھی۔ ان میں جو شریر و کافر ہوتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ سب انسانوں کی طرح کھاتے پیتے مرتے جیتے ہیں۔

(۸) ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ ساری دنیا، فرشتے پہاڑ جانور آدمی زمین و آسمان اور ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ مردے قبروں سے اٹھیں گے اور سب کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا اس کا نام حشر ہے۔ پھر میزان قائم ہوگی اور سب کا حساب کتاب ہوگا۔ مسلمان کافر اور ہر نیک و بد کے اعمال تولے جائیں گے اور ان کا بدلہ دیا جائے گا۔

(۹) جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے بنایا ہے اور اس میں ہر قسم کی جسمانی اور روحانی لذتوں کے سامان پیدا کئے گئے ہیں۔ بادشاہ ہفت کشور کے تصور

میں بھی وہ نعمتیں نہیں آ سکتی ہیں جو ایک ادنیٰ جنتی کو ملیں گی۔

(۱۰) اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں اور کافروں کے عذاب اور سزا کے لئے ایک جگہ بنائی ہے جس کا نام جہنم (دوزخ) ہے۔ اس میں ہر قسم کی تکلیف دینے والے، طرح طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے مہیلے ہیں جن کے خیال ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

(۱۱) جہنم کے اوپر ایک پل ہے جسے "صراط" کہتے ہیں۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ سب لوگوں کو اسی پر گزرنا ہوگا۔

(۱۲) دنیا میں جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اپنے علم کے مطابق پہلے ہی سے لکھ دیا۔ اور جو کچھ لکھ دیا وہی ہوگا۔ اس میں رتی برابر فرق نہ آئے گا۔ اسے تقدیر کہتے ہیں۔

## ایمان مفصل

أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرًا

وَشِرْكَهٖ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ط

(ترجمہ) ایمان لایا میں اللہ پر۔ اور اس کے فرشتوں پر۔ اور اس کی کتابوں پر۔ اور اس کے رسولوں پر۔ اور قیامت کے دن پر۔ اور اس بات پر کہ ہر بھلائی اور برائی، اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمادی ہے۔ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔

آئندہ صفحات پر جو کچھ ہے وہ "ایمان مفصل" ہی کی اجمالی تفصیل اور "ضروریات دین" ہی کی تشریح و تبیان ہے اور ضمناً فائدے ہی فائدے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔

## تنبیہ جلیل

قرآن کریم نے ذکر تین قسم کے انسانوں کا کیا ہے۔

ایک مومن مخلص جو ظاہراً و باطناً ایماندار، اور قانون الہی کے مطیع و فرمانبردار ہیں اور ان کی خصوصیات یہ بیان فرمائیں۔

(۱) ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں خوفِ خدا کی جگہ ہوتی ہے۔

(۲) ان کا اعتقاد، اس مادی دنیا سے پرے، ایک عالمِ غیب پر بھی ہوتا ہے۔

(۳) ان کے تعلق مع اللہ کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں اور صوری و معنوی طور پر نماز کا حق ادا کرتے ہیں۔

(۴) اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اللہ کی مخلوق پر، اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں

(۵) یہ رسول کے رسول برحق ہونے اور قرآن مجید کے کلامِ الہی ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔

(۶) پورے سلسلہٴ وحی اور نظامِ نبوت کی تصدیق کرتے رہتے ہیں۔

(۷) ان کا کامل اعتقاد یومِ آخرت یا روزِ جزا پر رہتا ہے۔

دوسرا گروہ کافروں، قانونِ الہی کے منکروں اور باغیوں کا ہے۔ جو ظاہری و

معنوی طور پر اپنے کفر و انکار پر جے ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے ان

کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ پردہ ہے“ یعنی وہ اپنی

ضلالت و گمراہی میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ حق کے دیکھنے سننے سمجھنے سے اس طرح محروم

ہو گئے جیسے کسی کے دل اور کانوں پر مہر لگی ہو اور آنکھوں پر پردہ ہو۔ چنانچہ کھلے ہوئے

دلائلِ حق اور روشن سے روشن آیاتِ الہیہ بھی انہیں نظر نہیں آتے۔

اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا جو ہوتے یہ بھی کافر و منکر ہیں لیکن اپنے کفر و انکار پر پردہ

مکرو فریب کا ڈالے رکھتے ہیں۔ یعنی زبان پر دعویٰ اسلام رکھتے ہیں لیکن دل میں کفر خالص۔

زبان سے اقرار ایسا کہ جس میں قلب کی تصدیق کسی درجہ میں بھی شامل نہیں ہوتی۔ ان ننگ

انسانیت انسانوں کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ قرآن کریم ان کی علامتیں یہ

بیان فرماتا ہے۔

(۱) ان کے دل میں ایمان و تصدیق کا ذرہ برابر حصہ نہیں ہوتا۔

(۲) وہ مسلمانوں سے نفع حاصل کرنے اور ان کی گرفت سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے

اپنے تئیں مسلمان کہتے اور کلمہ پڑھتے ہیں۔

(۳) ان کے نفاق سے نقصان کسی اور کا نہیں خود انہیں کا ہوتا ہے اور ہوگا۔

(۴) جوں جوں مسلمانوں کو ترقیاں اور کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں ان کے رشک و حسد میں بھی ترقی ہوتی جاتی ہے۔

(۵) ان کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں شور و شر اور فساد برپا ہے۔

(۶) مخلص اہل ایمان، ان کی نگاہوں میں فساد و تخریب کا رہتے ہیں۔

(۷) یہ غریب مسلمانوں کے مقابلے میں اکڑتے رہتے ہیں لیکن صاحب اثر اور مقدر مسلمانوں کے آگے جھکتے اور ان کی خوشامد میں لگے رہتے ہیں۔

(۸) عوام منافقین جب تنہائی میں اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دل و جان سے تو آپ کے ساتھ ہیں باقی مسلمانوں کو بنانے کے لئے ان کی سی کہہ دیتے ہیں۔

(۹) ان کی بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ یہ ہدایت و ایمان جیسی جنس بے بہا، قیمت میں دے کر گراہی و کفر جیسی نکمی اور بے حقیقت شے خرید لیتے ہیں۔

(۱۰) عقل سلیم سے محرومی کے باعث، دنیا و آخرت کا وبال ان کے لئے مقدر ہوتا ہے۔

(۱۱) نور ہدایت سے مستفید ہونے کی بجائے، یہ اپنی بصیرت ہی سے محروم ہو جاتے ہیں۔

(۱۲) یہ گروہ، صدائے حق کو یا سنتا ہی نہیں۔ اور کلمہ حق و ایمان کے ادا کرنے سے گویا ان

کی زبان گونگی ہوتی ہے اور دید حق کی طرف سے ان کی آنکھیں بند۔

(۱۳) ابی بزدلی پست ہمتی اور غباثت نفسی کی وجہ سے یہ ہر وقت اپنے ارد گرد خطرے

منڈلاتے دیکھتے اور اپنی سی تدبیروں میں لگے رہتے ہیں۔

(۱۴) صحیح العقیدہ مسلمانوں کی کامیابیاں دیکھتے ہیں تو ہارے جھک مارے، ان کی طرف

اضطراری طور پر ان کے قدم اٹھ جاتے ہیں لیکن جب اہل ایمان کو دنیاوی مصائب و آفات

کا سامنا ہوتا ہے تو پھر ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں۔

(۱۵) قانون اسلام کے مقابلہ میں وہ راہ تمام تر انکار و بغاوت کی اختیار کئے رہتے ہیں۔

اور انہیں کے متعلق قرآنی فیصلہ یہ ہے کہ

یہ منافقین، ان کے کھلے کافروں کی طرح اس کی گرفت سے بچ کر کیس نہیں جاسکتے۔

قدرت الہی کے سامنے ان کی ساری تدبیریں اور جیلے اثر رہ جائیں گے۔ کہ جو منافق ہیں وہ

کافر تو ہیں ہی، لیکن کافر ہونے کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں یعنی فریب کار۔ دغا باز۔ تو عذاب بھی ان پر دہرا ہوگا۔ عظیم یعنی بڑا بھی اور الیم یعنی دردناک بھی۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ مسلمانو! سنیو! حنیفو! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کی بے پرواہ بکریو! کس نیند سو رہی ہو۔ گلا دور پہنچا۔ سورج ڈھلنے پر آیا۔ فونخوار بھیڑیے بظاہر دوست بن کر، تمہارے کان تھپک رہے ہیں کہ تم غفلت کی نیند ڈوب جاؤ اور ذرا جھٹ پٹا ہو تو وہ اپنا کام کر جائے اور تمہارے دین و ایمان کے خون سے اپنی پیاس بجھائے۔ چوپایوں میں تمہاری لاپرواہی اور لاپرواہی اور تمہاری بے جا ہٹ کے باعث اختلاف پڑ چکا ہے۔ بہت حکم لگا چکے کہ یہ بکریاں سے ہمارے گلے سے خارج ہیں۔ بھیڑیا کھائے، شیر لے جائے، ہمیں کچھ کام نہیں۔ اور جنہیں تم پر ابھی تک ترس باقی ہے وہ بھی تمہاری ناشائستہ حرکتوں سے ناراض ہو کر اپنے خاص گلے میں تمہارا آنا نہیں چاہتے۔ ہیہات ہیہات، اس بے ہوشی کی نیند اندھیری رات میں تم جسے چوپایاں، اپنا نگران سمجھ رہے ہو واللہ وہ تمہارے نہیں۔ تمہاری نگرانی نہیں کریں گے۔ وہ خود بھیڑیے ہیں زیاب فی ثیاب انسانی لباس میں ملبوس گرگ ہیں کہ تمہارے لباس میں، تمہیں دھوکا دے رہے ہیں۔ اللہ اپنی حالت پر رحم کرو اور جہاں تک دم رکھتے ہو ان بھیڑیوں سے بھاگو۔ جیسے بن پڑے اس مبارک گلے میں جس پر خدا کا ہاتھ ہے کہ ید اللہ علی الجماعۃ اور اس کے سچے لہای محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آکر ملو کہ امن و سلامتی کا راستہ چلو اور مرغزار جنت میں بے خوف چرو۔ اے رب میرے ہدایت نصیب فرما۔

## ایمان و کفر کا بیان

عقیدہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے :-

(۱) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔

(۲) نماز قائم کرنا (۳) زکوٰۃ دینا (۴) حج کرنا (۵) ماہِ رمضان کے روزے رکھنا۔ ہم کہہ سکتے

ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقیدے تین ہیں۔ (۱) توحید (۲) رسالت (۳) معاد یعنی قیامت

باقی اعتقادی باتیں انہیں کے اندر آجاتی ہیں۔

**عقیدہٴ اقرارسانی** یعنی زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرنا، تاکہ دوسرے اے مسلمان سمجھیں اور اسے اسلامی برادری کا ایک فرد جان کر اس کے ساتھ اہل اسلام کا سا سلوک کریں، مسلمان ہونے کے لئے شرط ہے۔ کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہوں اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے دل میں انکار نہیں۔ کہ بغیر شرعی مجبوری کے کلمہ کفر وہی شخص اپنی زبان پر لائے گا جس کے دل میں ایمان کی اتنی ہی وقعت ہے کہ جب چاہا انکار کر دیا۔ اور ایمان تو ایسی تصدیق اور یقین قلبی کا نام ہے۔ جس کے خلاف اصلاً گنجائش نہیں۔ ایمان کی کیفیت نفسی شک، تردد، تذبذب کی بالکل ضد ہے۔ ایمان سے دماغ کو سکون، دل کو اطمینان اور روح کو تسلی نصیب ہوتی ہے۔ غرض کسی چیز کو محض سرسری، رسمی اور سطحی طور پر مان لینے کا نام ایمان نہیں۔ بلکہ ایمان نام ہے یقین قلبی کا۔ اور یقین یہ ہے کہ کسی مسئلہ پر دل و جان سے اعتقاد جم جائے اور عقل، جذبات، ارادہ سب پر وہی چھا جائے۔ یقین کی راہ، شک گمان خیال سب سے الگ ہے۔

**عقیدہٴ اطاعت و فرمانبرداری**، اسلام کے لغوی معنی ہیں اور شرعی معنی میں اسلام اور ایمان ایک ہیں۔ ان میں کوئی فرق نہیں۔ جو مومن ہے وہ مسلمان ہے اور جو مسلمان ہے وہ مومن ہے۔ البتہ محض زبانی اقرار جس کے ساتھ قلبی تصدیق نہ ہو معتبر نہیں۔ اس سے آدمی مومن نہیں ہوتا۔

**عقیدہٴ نچے دل سے** ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہیں اسے ایمان کہتے ہیں۔ یا یوں سمجھو کہ جو کچھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے لائے، خواہ وہ حکم ہو یا خبر، ان سب کو حق جاننا ایک بات پر یقین لانا اور بچے دل سے ماننا کہ شک و شبہہ کا شائبہ بھی نہ رہے ایمان کہلاتا ہے۔ اور جو شخص ایمان لائے اسے مومن و مسلمان کہتے ہیں۔

**عقیدہٴ اصل ایمان** صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اعمال بدن اصلاً جزو ایمان نہیں۔ ہاں بعض اعمال جو قطعاً ایمان کے منافی ہوں۔ ان کے مرتکب کو ضرور کافر کہا جائے گا

جیسے بت وغیرہ کو سجدہ کرنا یا کسی نبی کی یا قرآن کی یا کعبہ معظمہ کی توہین کرنا۔ یوں بعض اعمال کفر کی علامت ہیں جیسے زنا، بار باندھنا۔ سر پر چٹیا رکھنا۔ جیسا کہ ہندوؤں میں رکھتے ہیں۔ تشفقہ لگانا۔ بول دیوالی منانا اور ایسی ہی دوسری باتیں۔

عقیدہ ضروریات دین جنہیں سچے دل سے مانے بغیر دولت ایمان نصیب نہیں ہوتی اور جن میں سے کسی ایک کا انکار، آدمی کو (اگرچہ کلمہ پڑھتا ہو) اسلامی برادری سے خارج کر دیتا ہے وہ مسائل دین ہیں جنہیں ہر خاص و عام جانتے ہیں کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے لائے جیسے اللہ عزوجل کی وحدانیت و یکتائی۔ انبیاء کی نبوت، جنت دوزخ حشر و نشر وغیرہ یا مثلاً یہ اعتقاد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ایمان و کفر میں واسطہ نہیں۔ یعنی آدمی یا مسلمان ہو گا یا کافر۔ تیسری صورت کوئی نہیں کہ نہ مسلمان ہونہ کافر۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ہم بوجہ شبہہ کے کسی کو نہ مسلمان کہیں نہ کافر جیسے یزید پلید کہ اس کے بارے میں ہمارے امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک سکوت ہے۔ یعنی ہم اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان۔

عقیدہ نفاق کہ زبان سے دعویٰ اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار، یہ بھی خالص کفر ہے۔ ایسے لوگ منافق کہلاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لئے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن نے گواہی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی، اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرمادیا کہ یہ منافق ہے۔ اب اس زمانہ میں کسی خاص شخص کے نسبت یقین سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ منافق ہے۔ البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانہ میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور دیکھا جاتا ہے۔ تو دعویٰ اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی ہے۔ مثلاً قادیانی رافضی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز صحابہ کرام و ائمہ اظہار و اولیائے امت کی شان میں گستاخیاں بد زبانیاں کرنے والے وہابی دیوبندی۔

تنبیہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے فرقوں کا قدرے تفصیل سے بیان بہار شریعت حصہ ۱



مصنفہ حضرت صدر الشریعہ مولانا شاہ امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں دیکھیں۔

**عقیدہ شرک کے معنی** ہیں غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا۔ اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس کے سوا، کوئی بات، اگرچہ کسی ہی شدید کفر و گناہ ہو، حقیقہً شرک نہیں۔ ولہذا شرح مطہر نے اہل کتاب کفار دیعنی وہ جو عیسائیت اور یہودیت پر قائم رہے اور اسلام قبول نہ کیا ان کے احکام، مشرکین کے احکام سے جدا فرمائے۔ مثلاً کتابی کا ذبیحہ (ذبح کیا ہوا حلال جانور) حلال ہے۔ اور مشرک کا مردار۔ کتابیہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ مشرک سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں کبھی شرک بول کر مطلق کفر مراد لیا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن عظیم میں فرمایا کہ شرک نہ بخشا جائے گا۔ وہ اسی معنی پر ہے یعنی اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی۔ باقی سب گناہ، اللہ عزوجل کی مشیت پر ہیں جسے چاہے بخش دے۔ وہ بمقتضائے عدل، کفار کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور مسلمانوں کو اپنے وعدہ کرم سے جنت میں پہنچائے گا۔

**تشریح:** مشرک چونکہ حکومت خداوندی سے صریح بغاوت کے مترادف ہے اس لیے مشرک عذاب دائمی میں مبتلا رہے گا۔ مشرک کی نجات کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اس نے جنت کی نعمتوں کے قبول کرنے کی استعداد و صلاحیت ہی اپنے اندر باقی نہ رکھی۔ شرک وہ جرم عظیم ہے جس کی بنا پر کوئی مشرک قابل مغفرت نہ ہوگا۔ ہاں شرک کو چھوڑ کر باقی ہر معصیت، مغفرت کی گنجائش رکھتی ہے اور جس کسی مسلمان فاسق فاجر کے حق میں مشیت الہی ہوگی اسے معافی مل جائے گی خواہ اس نے توبہ نہ بھی کی ہو۔

**عقیدہ ۱:** جو کسی کافر کے لئے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے یا کسی مردہ مردہ کو مرحوم یا مغفور یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا اور ایسے ہی الفاظ کہے یا لکھے یا کسی مردہ ہندو کو سیکنٹھ باشی (جنتی) کہے وہ خود کافر ہے۔ کفر اگر لائق بخشش ہے تو پھر ایمان کا کیا حاصل۔

**عقیدہ ۲:** مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر جاننا، ضروریات دین سے ہے اگرچہ کسی خاص شخص کی نسبت یہ یقین نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان، یا معاذ اللہ کفر پر ہوا۔ تا وقتیکہ اس کے خاتمہ کا حال دلیل شرعی سے ثابت ہو جیسے ابولسب کا کفر پر مرنا اور عذاب جہنم میں گرفتار ہونا، قرآن سے ثابت ہے اور خلفاء اربعہ اور باقی دوسرے عشرہ مبشرہ و حضرات حسین و اصحاب بدر

## فائدہ عظیم

ضروریات دو قسم پر ہیں۔

(۱) ضروریات دین: جن کا منکر کافر، خارج از اسلام اور اسلامی برادری سے باہر جانا جاتا ہے۔ ان کا ثبوت قرآن عظیم یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی سے ہوتا ہے۔ ان میں نہ کسی شبہ کو گنجائش ہے نہ کسی تاویل کو راہ۔ نہ کسی شک کا شائبہ۔ انہیں کو ماننا، انہیں کی تصدیق کرنا ایمان ہے اور ان میں شک و تردید یا مذہب، ایمان کی ضد۔

(۲) ضروریات مذہب اہل سنت و جماعت: ان کا منکر، گمراہ، بد مذہب، اہل سنت و جماعت سے خارج اور سنی برادری سے باہر، مانا جاتا ہے۔ ان کا ثبوت بھی دلیل قطعی سے ہوتا ہے مگر ان دلائل قطعیہ میں چونکہ تاویل کا بھی احتمال ہوتا ہے اس لئے ان ضروریات کے منکر کی تکفیر کا باب، مسدود ہے۔ اسے بلا تردد کافر نہ کہیں گے کہ ابھی وہ ایمان کی حدود کو نہیں پھلانگا امید کہ وضوح حق کے بعد توبہ کر لے۔ احادیث کرمیہ میں انہیں کے بارے میں ارشاد ہوا کہ بدعتی لوگ تمام جہان سے بدتر ہیں (ابونعیم) اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بد مذہب کی نماز قبول کرے نہ روزہ۔ نہ زکوٰۃ نہ حج۔ نہ عمرہ نہ جہاد۔ نہ فرض نہ نفل۔ بد مذہب اسلام سے یوں نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال (بیہقی) تیز مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اہل بدعت دوزخیوں کے کتے ہیں (دارقطنی) غرض یہ اپنے ایسے اقوال کی بنا پر، جہنم کی سزا پائے بغیر نجات نہ پاسکیں گے۔ جبکہ مرتد کے لئے نجات ہی نہیں اور فاسق و فاجر کی نجات مشیت ایزدی پر موقوف ہے۔

## توحید باری تعالیٰ

تھوڑی سی عقل والا انسان بھی، دنیا کی تمام چیزوں پر نظر کر کے یقین کر لے گا کہ بے شک یہ زمین و آسمان، یہ ستارے اور سیارے، انسان و حیوان اور تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ آخر کوئی ہستی تو ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اور جس طرح چاہتا ہے انہیں تصرف کرتا ہے۔ جب ہم کسی تخت یا کرسی وغیرہ بنی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو فوراً

واصحاب بیعتہ الرضوان کہ ان سب کا قطعی جنتی ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آخر ہم زندگی میں کافروں کے ساتھ میل جول شادی بیاہ نماز جنازہ کفن دفن میں وہی معاملات کرتے ہیں جو کافروں کے لئے ہیں کہ ان کی لڑکی لیتے نہیں اپنی لڑکی انہیں دیتے نہیں مرجائیں تو ہم ان کے جنازہ میں نہیں جلاتے ہیں نہ ان کی نماز پڑھی جاتی ہے نہ انہیں اپنے قبرستان میں دفن ہونے دیتے ہیں تو مرنے کے بعد کون سی وحی آگئی کہ اب ایسے کافر نہ کہیں۔ جب اس نے کفر کیا تو فرض ہے کہ ہم اسے کافر ہی جائیں اور خاتمہ کا حال علم الہی پر چھوڑ دیں۔ شرعی احکام کا دار و مدار، ظاہر پر ہے۔ اور قیامت میں جزا و سزا موقوف ہے انسان کے خاتمہ پر۔ اور خاتمہ کا علم، اللہ و رسول کے سوا کسے حاصل ہے۔

**عقیدہ مرتد** اس مرد خواہ عورت کہتے ہیں جو کلمہ گو ہو کر، کلمہ پڑھ کر، کفر کرے۔ خواہ یوں کہ پہلے مسلمان تھا پھر علانیہ اسلام سے پھر گیا۔ کلمہ اسلام کا منکر ہو گیا یا یوں کہ کلمہ اسلام اب بھی پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور پھر خدا و رسول کی توہین کرتا، ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرتا یا دین کا مذاق اڑانا اور تعلیمات اسلام کو مضحکہ خیز سمجھتا یا عقائد حقہ کو اپنے زعم باطل کے سانچے میں ڈھالتا ہے۔

**عقیدہ ۵:** ارتداد یعنی دین و ایمان سے پھر جانے والے کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں اکارت جاتے ہیں۔ آخرت میں تو یوں کہ یہ بدنصیب مرتد اپنے کو ہر طاعت کے اجر اور ہر عبادت کے ثواب سے محروم پائے گا۔ اور دنیا میں اس طرح کہ نہ مسلمان بیوی سے اس کا نکاح قائم رہ سکتا ہے۔ نہ مسلمان کی میراث میں اسے حصہ مل سکتا ہے۔ نہ اس کا مال معصوم رہتا ہے۔ بلکہ حکومت اگر اسلامی ہو تو ایسے بدعہد، باغی و غدار کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں رہتا۔ اس کی مدد و ثنا اور امداد جائز نہیں بلکہ ایسوں سے تنکاتوڑ علیحدگی کا حکم ہے۔

**عقیدہ ۶:** علی الاعلان کلمہ اسلام کے منکر چند قسم پر ہیں مثلاً دہریہ کہ خدا ہی کا منکر ہے یا مشرک کہ اللہ عزوجل کے سوا اور کو بھی معبود یا واجب الوجود جانتا ہے جیسے ہندو بت پرست اور آریہ۔ یا بوس آتش پرست کہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اور کتابی یعنی یہودی و نصرانی۔ جو دوسری آسمانی کتابوں کے نزول کا اقرار اور قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں

سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی کاریگر نے بنا لیا ہے اگرچہ ہم نے اپنی آنکھ سے اسے بناتے ہوئے نہ دیکھا۔ لیکن ہماری عقل نے ہماری رہنمائی کی اور ہم نے اس کا یقین کر لیا کہ اس کا کوئی نہ کوئی صانع ہے ضرور۔ ایک عرب کے بدو نے خوب کہا کہ جب اونٹ کی مینگنی دیکھ کر اونٹ کا یقین ہو جاتا ہے اور نقش قدم دیکھ کر چلنے والے کا ثبوت ملتا ہے تو پھر ان برجوں والے آسمان اور کشادہ راستہ والی زمین کو دیکھ کر، کسی صانع عالم کا یقین کیونکر نہ آئے گا۔

فی الواقع زمین و آسمان کی پیدائش، رات دن کا اختلاف، ستاروں کا خاص نظام۔ سیاروں کی خاص گردش، اس بات کی کھلی دلیلیں ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے جو بڑی زبردست قوت و قدرت والا اور بہت بڑا حکیم اور بااختیار ہے جس کے قبضہ قدرت سے یہ چیزیں نکل نہیں سکتیں زمین و آسمان کے یہ سارے کارخانے، جو دنیا کے ہر طلسم سے بڑھ کر حیرت انگیز اور انسانی سائنس کے ہر شعبے سے عجیب تر ہیں بجائے خود اس کی دلیل ہیں کہ نہ یہ اپنے آپ وجود میں آسکتے ہیں جب تک کوئی قادر مطلق ہستی ان کی صانع و خالق اور مربی و مدبر نہ ہو اور وہ نہیں مگر ایک اللہ واحد قہار جل جلالہ و عز شانہ۔

اللہ تعالیٰ کی ہستی کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے خصوصاً مصیبتوں میں، بیماریوں میں، موت کے قریب، اکثر یہ فطرتِ اصلیتہ ظاہر ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے منکرین بھی خدا ہی کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں اور ان کی زبانوں پر بھی بے ساختہ خدا کا نام آ ہی جاتا ہے۔

عقیدہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ ذات میں۔ نہ صفات میں۔ نہ اسماء میں۔ نہ افعال میں۔ نہ احکام میں۔ نہ سلطنت میں۔

عقیدہ وہ واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال وہ قدیم و ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے۔ باقی وابدی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا۔ وہی معبود برحق اور اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے اس کے سوا کسی اور معبود برحق کا سرے وجود ہی نہیں۔ نہ چھوٹا نہ بڑا۔ نہ اصلی نہ ظلی۔ نہ خدا نہ خدا زادہ۔ یہ نہیں کہ وہ تو معبود اعظم ہے باقی چھوٹے چھوٹے معبود اور بھی موجود ہیں۔

عقیدہ وہ حقیقی و قیوم ہے۔ موت نہ اس پر کبھی طاری ہوئی اور نہ آئندہ کبھی طاری ہو

سکتی ہے۔ وہ اپنی ذات سے قائم ہے اور سب کو سنبھالے ہوئے ہے خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے۔  
**عقیدہ** وہی الصمد ہے یعنی سب سے بے نیاز اور بے پرواہ۔ سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا کسی آن کسی لمحہ محتاج نہیں۔

**عقیدہ** وہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اور جو چیز محال ہے اللہ عزوجل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے اور جب مقدور اور تحت قدرت ہوگا تو موجود ہو سکے گا پھر محال نہ رہا۔ مثلاً فنائے باری تعالیٰ محال ہے اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ کی الوہیت ہی سے انکار کرنا ہے۔

**عقیدہ** وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے۔ بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان، وہ بھی اس کے لئے محال ہے۔ مثلاً جھوٹ و غاخیانت ظلم جہل بے حیائی وغیرہا عیوب اس پر قطعاً محال ہیں اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، باطل محض ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔

**فائدہ** ۱۔ وہابیہ دیوبندیہ کہتے ہیں کہ "اللہ تعالیٰ کو جھوٹ پر قدرت ہے بایں معنی کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔" یہ محض باطل ہے اور محال کو ممکن ٹھہرانا، اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے۔ جبکہ کذب (جھوٹ) تو ایسا گندانا پاک عیب ہے جس سے تھوڑی سی ظاہری عزت والا بھی بچنا چاہتا ہے بلکہ بھنگی چار بھی اپنی طرف اس کی نسبت کرتے شرماتا ہے۔ اگر وہ اللہ عزوجل کے لئے ممکن ہوا تو وہ بھی عیبی ناقص، گندی نجاست سے آلودہ ہو سکے گا۔ تو کیا کوئی مسلمان اپنے رب پر ایسا گمان کر سکتا ہے؟ مسلمان تو مسلمان کہ اس کے لئے اس کے رب کی امان ہے، معمولی سمجھ والا یہودی اور نصرانی بھی ایسی بات اپنے رب کی نسبت سننا گوارا نہ کرے گا۔ لکھنا اور کہنا درکنار۔ تو جو خدائے قدوس کی طرف اس کی نسبت کرے وہ یہودیوں اور نصرانیوں سے بدتر ہے۔ مگر وہابیہ دیوبندیہ میں شرم و غیرت کہاں۔ سچ ہے

بے حیاباش و ہرچہ خواہی کن

العظمة لله اگر کذب الہی، خدائے قادر و قیوم کا جھوٹا ہونا، ممکن ہو تو اسلام پر وہ طعن لازم آئیں کہ اٹھائے نہ اٹھیں اور کافروں بلحدوں کو اعتراض و عناد کی وہ راہیں ملیں کہ مٹائے نہ میٹیں۔ حشر و نشر حساب کتاب، جنت و نار۔ ثواب و عذاب کسی پر یقین کی کوئی راہ نہ ملے کہ آخران پر ایمان صرف اخبار الہی سے ہے جب اسی میں کذب ممکن ہو تو عقل کو ہر خبر الہی میں احتمال رہے گا کہ شاید ٹھیک نہ ہو، والعیاذ باللہ تعالیٰ

عقیدہ حیات قدرت علم سمع بصر کلام اور ارادہ و مشیت، اس کے صفات ذاتیہ ہیں مگر کان آنکھ زبان سے اس کا سننا دیکھنا کلام کرنا نہیں کہ یہ سب اجسام ہیں اور اجسام سے وہ پاک۔

انسان اپنے دیکھنے اور سننے کے لئے بہت سی چیزوں کا محتاج ہے مثلاً کان آنکھ وغیرہ پھر اگر کان آنکھ بھی ہوں اور قوت بصارت یا سماعت نہ ہو تو وہ آلہ بھی بیکار ہے۔ پھر اگر دونوں جمع ہوں اور کوئی چیز درمیان میں حائل ہو یا آواز بہت پست یا بہت دور کی ہو تب بھی انسان دیکھنے اور سننے سے عاجز رہتا ہے۔ غرض انسان اپنے اوصاف میں محتاج ہے لیکن خدا کسی کا محتاج نہیں۔

ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے۔ ہر باریک سے باریک کو، کہ خوردبین سے محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے۔

عقیدہ کا مثل دیگر صفات کے اس کا کلام بھی قدیم ہے حادث و مخلوق نہیں۔ یوہیں اس کا کلام آواز سے پاک ہے۔ اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے مصاحف میں لکھتے ہیں، اس کا کلام قدیم بلا صوت (آواز سے پاک) ہے اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور ہماری آواز یہ حادث ہے۔ یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے (کہ پہلے نہ تھا اب پایا گیا) اور جو ہم نے پڑھا وہ قدیم ہے ہمارا لکھنا حادث ہے اور جو لکھا وہ قدیم۔ ہمارا سننا حادث ہے اور جو سنا وہ قدیم ہمارا حفظ کرنا حادث ہے اور جو ہم نے حفظ کیا قدیم۔ یعنی متجلی (تجلی والا) قدیم ہے۔

عقیدہ کا اس کا علم ہر شے کو محیط ہے یعنی تمام موجودات، معدومات، ممکنات،

محالات کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جلنے کے خطروں اور وسوسوں پر اس کی نظر ہے اُسے سب کی خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ غیب و شہادت، غائب حاضر سب کو جانتا ہے۔ علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ جو شخص علم ذاتی، غیب خواہ شہادت کا، غیر خدا کے لئے ثابت کرے کافر ہے۔ علم ذاتی کے یہ معنی ہیں کہ بے خدا کے دیئے خود حاصل ہو۔

عقیدہ ۱۰۔ تکوین و تخلیق اسی کے لئے ہے یعنی وہی ہر شے کا خالق ہے تمام عالم اسی کا پیدا کیا ہوا ہے اور آئندہ بھی ہر چیز وہی پیدا کرے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور عالم کا مادہ دآگ پانی ہوا خاک جنہیں اربع عناصر کہتے ہیں، سب اسی کی مخلوق ہے۔ چیزوں کے پیدا کرنے میں وہ کسی آلہ کا محتاج نہیں۔ نہ اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ فلاں کام ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے چنانچہ نص قرآنی کن فیکون سے ظاہر ہے یعنی وہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ تخلیق عالم اسی طرح پر ہوئی۔ اور جس کو وہ چاہتا ہے کہ وہ نہ ہو وہ کبھی لباس وجود میں نہیں آسکتا کبھی ظہور پذیر نہیں ہو سکتا۔ غرض وہی ہر شے کا خالق ہے۔ ذوات ہوں خواہ افعال سب اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ ماننا، جلانا، چلانا، بھت دینا، بیمار ڈالنا، غنی کرنا، فقیر کرنا وغیرہ صفات جن کا تعلق مخلوق سے ہے اور جنہیں صفات اضافیہ اور صفات فعلیہ بھی کہتے ہیں، ان سب کو صفات تخلیق و تکوین کی تفصیل سمجھنا چاہئے۔

عقیدہ ۱۱۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر ذی روح کو رزق دیتا اور روزی پہنچاتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کو وہی روزی دیتا اور وہی اس کی پرورش کرتا ہے۔ وہی ساری کائنات کی تربیت فرماتا اور ہر چیز کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ بتدریج اس کے کمال مقدار تک پہنچاتا ہے وہی رب العلمین ہے۔ حقیقہً روزی پہنچانے والا وہی ہے۔ ملائکہ وغیرہم وسیلے اور ہمارے، اس کے درمیان واسطے ہیں۔

عقیدہ ۱۲۔ اللہ تعالیٰ جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت جمیع حوادث سے پاک ہے۔ اس کے لئے کوئی جگہ اور طرف متعین نہیں کی جاسکتی وہ ہر جگہ ہے اور تمام عالم کو محیط۔ ایک مکان سے دوسرے مکان یا ایک زمان سے دوسرے زمان کی طرف نقل و حرکت کرنا یا اس میں کسی قسم کا تغیر پایا جانا، یا اس کے اوصاف، حوادث یعنی پیدا اور فنا ہونے

کے لئے ہے اور جو اوصاف، حوادث یعنی پیدا اور فنا ہونے والی چیزوں کے لئے ہیں ان کا اس میں پایا جانا محال۔

**فائدہ عظیمہ:** ہر مرتبہ وجود میں صرف حق عزوجل ہے کہ ہستی حقیقہً اسی کی ذات پاک سے خاص ہے۔ وحدت وجود کے جس قدر معنی عقل میں آسکتے ہیں۔ یہی ہیں کہ وجود واحد موجود واحد، باقی سب مظاہر ہیں کہ اپنی حد ذات میں اصلاً وجود ہستی سے بہرہ نہیں رکھتے۔

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ - اور حاشا یہ معنی ہرگز نہیں کہ من و تو، زید و عمر ہر شے خدا ہے یہ اہل اتحاد کا قول ہے جو ایک فرقہ کافروں کا ہے اور پہلی بات اہل توحید کا مذہب ہے جو اہل اسلام و ایمان حقیقی ہیں۔ (کشف حقائق)

**عقیدہ:** اللہ عزوجل کا دیدار، اس دنیا کے فانی اور عالم کون و فساد یعنی دنیا کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خلاص ہے۔ کسی اور کے نصیب میں یہ دولت نہیں اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لئے ممکن بلکہ واقع ہے۔ چونکہ وہ اس عالم سے بالکل علیحدہ ایک عالم ہے وہاں کی ہر چیز کامل اور غیر فانی ہے۔

**عقیدہ:** اس کا دیدار بلا کیف ہے یعنی یہ تعین نہیں کیا جاسکتا کہ وہ دیدار الہی کس نوعیت کا ہوگا اور کس شان سے ہوگا یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ اس دنیا میں کسی چیز کو دیکھنے کے لئے چند شرائط ہیں۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے۔ نزدیک یا دور۔ وہ دیکھنے والے کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ اس کے لئے کوئی خاص جہت یا جگہ ہوتی ہے لیکن اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا کہ یہ امور ذات واجب الوجود کے لئے منافی ہیں۔ پھر رہا یہ کہ دیدار الہی کیونکر ہوگا۔ یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیونکر وہاں داخل نہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے اس وقت بتادیں گے۔ اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں کہ جو سمجھ میں آگیا پھر وہ خدا کیونکر ہوا۔ اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں۔ بہر حال قرآن و احادیث اور اجماع امت اس بات پر شاہد ہیں کہ عالم آخرت میں سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہوگی اگرچہ اس کی صورت و کیفیت متعین نہ ہو۔ آخرت میں دیدار الہی کا منکر گمراہ بددین ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج۔



عقیدہ: وہ مالک علی الاطلاق ہے جو چاہے اور جیسا چاہے کرے۔ جسے جو چاہے دے اور جس سے جو چاہے چھین لے۔ کسی کو اس پر قابو نہیں اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا۔ اس پر کوئی حکم نہیں کر سکتا۔ اس پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں۔

عقیدہ: کوئی شخص اپنے حقوق کا اظہار کر کے، اس سے کسی چیز کا مستحق اور حقدار بن جائے یہ اس کی شان بے نیازی کے خلاف ہے۔ مثلاً کوئی شخص عبادت و ریاضت میں مصروف رہ کر، اس کا مدعی نہیں بن سکتا کہ وہ اس کے بدلے میں اسے جنت دے ہی دے گا، ہاں اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بندوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ اجر، اس نیک کام کرنے والے کی مرضی کے مطابق ہی ہو۔ اسے اختیار ہے کہ جس صورت سے چاہے اسے اجر عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں سے نوازے۔

عقیدہ: وہ کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے اور ظلم و جور سے وہ پاک و صاف ظلم کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے کو۔ خدا کی ذات ایسی ہے جو ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہے تو حد سے متجاوز نہیں ہوتا کہ نہ اس کے لئے حد ہے نہ وہ محدود، بادی النظر میں معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ مخلوق پر ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن اگر دقیق نظر سے دیکھا اور غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ نہ معلوم کیا کیا مصلحتیں اس میں پوشیدہ ہیں اور ان کے کون کون سے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اس نے فرمادیا ہے کہ بمقضا ئے عدل کفار کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس کے وعدے وعید نہیں بدلتے۔ اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف کر دے گا۔

عقیدہ: نفع ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مظلوم کی فریاد کو پہنچتا اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ ہاں ظالم کو ڈھیل دیتا ہے کہ ظلم سے باز آجائے۔ قہر و غضب فرمانے والا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست۔ ذلیل کو عزت دے اور عزت والے کو

ذلیل کر دے۔ جس کو چاہے راہِ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے۔ جسے چاہے اپنا مقبول بنالے۔ اور جسے چاہے مردود کر دے۔

عقیدہ اس کو نہ اونگھ آئے نہ نیند کہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے۔ تمام جہاں کا نگاہ رکھنے والا۔ نہ تھکے نہ اکتائے۔ تمام عالم کا پلنے والا اور نظامِ عالم کی تدبیر کرنے والا ہے۔ ماں باپ سے زیادہ مہربان اور بڑا حلم والا ہے۔ اسی کی رحمت ٹوٹے دلوں کا سہارا۔ اسی کے لئے بڑائی اور عظمت ہے۔

عقیدہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ اچھے اعمال پر وہ خوش ہوتا اور برے سے ناراض۔ گناہوں کا نیشننے والا اور توبہ قبول فرمانے والا ہے۔

عقیدہ اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں۔ خواہ ہم کو معلوم ہوں یا نہ ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام بظاہر ہماری منشاء کے خلاف ہوتا ہے اور ہم بد دل ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں صریحاً ہمارا نقصان ہو گیا لیکن تھوڑے عرصہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دراصل اس میں بڑا فائدہ تھا۔ اگر وہ کام ہماری منشاء کے مطابق ہو جاتا تو نقصانِ عظیم کا اندیشہ تھا۔

عقیدہ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں، مستببات کا اسباب سے ربط فرما دیا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے۔ کان سنتا ہے۔ آگ جلاتی ہے۔ پانی پیاس بجھاتا ہے۔ وہ چاہے تو آنکھ سے کان دیکھے پانی جلائے آگ پیاس بجھائے نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں، دن کو پیاس نہ سوچھے۔ کروڑوں آگیں ہوں۔ ایک تنکے پر داغ نہ آئے۔ کس قہر کی آگ تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے ڈالا کوئی پاس بھی نہ جاسکتا تھا اسے ارشاد ہوا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا ابراہیم پر۔ اور وہ آگ گلزار بن گئی۔

## فائدہ

قرآن کریم میں ہے۔ **وَلِلّٰهِ اِلٰهَ السَّمٰوٰتِ الْاَرْضِ فَادْعُوْهُ بِهَا اِلٰهَیۡہٗ**  
اور حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام جس کسی نے یاد کر لئے وہ جنتی ہوا

اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اسمائے الہیہ ننانوے میں منحصر نہیں ہیں۔ حدیث کا مقصود صرف یہ ہے کہ اتنے ناموں کے یاد کرنے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے کہ جب یہ اسماء محفوظ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و بزرگی اور اس کے تقدس و پاکیزگی، کا ذہن میں استحضار ہوگا۔ اس کی کبریائی و جبروت و حاکمیت کا خاکہ پیش نظر رہے گا تو ایمان میں فراوانی ہوگی اور اعمالِ حسنہ کی لگن جو جنت کی راہ ہے۔

علمائے کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑ کر غیروں پر اطلاق کرنا، حق سے نکلنا اور ناجائز ہے جیسا کہ مشرکین نے الہ کالات۔ عزیز کا عزی اور منان کا منات کر کے اپنے بتوں کے نام رکھے تھے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کے لئے ایسا نام مقرر کرنا۔ جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو یہ بھی جائز نہیں جیسے کہ سخی یا رفیق کہنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، توقیفیہ ہیں یعنی شرع میں موقوف۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی ایسا نام مقرر کرنا جو اس کے مرتبے سے فرود تر ہوں یا جن سے عیوب و نقائص اس کی طرف منسوب ہوتے ہوں جائز نہیں مثلاً اسے رام یا پرما کہا۔ اسی طرح اس پر ایسے ناموں کا اطلاق جائز نہیں جن کے معنی معلوم نہیں ہیں اور یہ نہیں جاسکتا کہ وہ جلالِ الہی کے لائق ہیں یا نہیں (دخراؤن العرفان)

## رسالت و نبوت

کسی چیز کا اچھایا برا ہونا اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز بذات خود اچھی یا بُری ہے بلکہ کوئی چیز اس وجہ سے اچھی ہوتی ہے کہ اس کو خدا نے اچھا بتایا ہے اور کوئی چیز بُری اس وجہ سے کسلائی جاتی ہے کہ اس کو خدا نے بُرا بتایا ہے۔ مثلاً نماز پڑھنا اس لئے داخل عبادت ہے کہ اس کا حکم خدا نے ہم کو دیا ہے حالانکہ اہل ہنود مندروں میں بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور یہود و نصاریٰ اپنے گرجاؤں اور کنیساؤں میں اور مجوس وغیرہ اپنی عبادت گا ہوں میں اپنے طور پر عبادت کرتے ہیں لیکن وہ بُری ہے اس واسطے کہ خدا نے اس کی مذمت کی ہے۔ اب ان میں بعض امور ایسے ہیں جن کی اچھائی ہماری عقل بھی پہچان لیتی ہے اور برے کاموں کی برائی کی تمیز بھی ہو جاتی ہے۔ مثلاً شراب پینا، قتل و غارتگری کرنا، کسی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا، ناحق

کسی پر ظلم و زیادتی کرنا، یہ وہ امور ہیں جن کی برائی ہر عقل سلیم پر روشن ہے لیکن بعض امور ایسے بھی ہیں جن کے کرنے کی ہمیں ممانعت کر دی گئی ہے لیکن ان کی کوئی ظاہری برائی، ہماری عقل پہچاننے سے قاصر ہے۔ یوں بہت سے وہ امور ہیں جن کی بظاہر کوئی خوبی ہم کو بادی النظر میں نہیں معلوم ہوتی۔ اسی لئے نیک و بد کو بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے کسی ایک کو جسے وہ اہل سمجھتا ہے نبوت کے لئے منتخب فرماتا ہے اور اپنے احکام ان کی معرفت بندوں تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ نیکی اور بدی کو کما حقہ پہچان کر مرضی خداوندی کے مطابق عمل کریں ان منتخب اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو نبی یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ انبیاء و مرسلین کے مبعوث فرمانے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت اور اپنے بندوں پر بڑی رحمت ہے۔ اس نے اپنے ان رسولوں کے ذریعے، اپنی رضامندی اور ناراضی کے کاموں سے آگاہ کر دیا۔ اس لئے کہ جب ہم لوگ باوجود ہم جنس ہونے کے کسی دوسرے شخص کی صحیح رائے بغیر اس کے ظاہر کئے ہوئے نہیں معلوم کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی و نامرضی کو بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کیونکر جان سکتے ہیں نہ کسی کو عذاب و ثواب کی اطلاع ہو سکتی تھی نہ عالم آخرت کے احوال معلوم ہو سکتے تھے۔ نہ عبادتوں کے صحیح طریقے معلوم ہو سکتے تھے کہ اس کے ارکان و فرائض کتنے ہیں اور شرائط و آداب کیا ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات تک رسائی تو خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے ازراہ فضل و کرم اپنی مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لئے، انسانوں ہی میں سے کچھ ایسے برگزیدہ، عالی ذات، اعلیٰ صفات بندے پیدا کئے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں۔ یہ برگزیدہ بندے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا تے ہیں۔ تاکہ ان پیغمبروں کے آنے اور ان کی تبلیغ ہدایت کے بعد، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہنے کی کوئی حجت باقی نہ رہے کہ اگر ہمارے پاس نبی یا رسول آتے تو ہم ضرور ان کی بات مانتے۔ غرض ان انبیاء و مرسلین کی اطاعت کرنے والا مقبول، اور ان کا مخالف، مردود ہے "نبوت، نبأ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں "خبر دینا" اور رسالت کے معنی ہیں "پیغام" اور اسلام کی اصطلاح میں نبوت و رسالت خدا کی جانب سے ایک منصب ہے جو مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے

کسی مخصوص اور برگزیدہ انسان کو عطا ہوتا ہے۔ اور اس کے لئے جوئے پیغام کو سوجی، کتے ہیں اور چونکہ یہ پیغام خدائے برتر کا فرمان ہوتا ہے جس میں قصور و کوتاہی اور سہو و سببان کی مطلق گنجائش نہیں ہوتی اس لئے تمام انسانوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک اور خدائے برتر کے فرمان اور "وحی الہی" کے سامنے بلاچوں و چرا سر تسلیم خم کر دیں اور نبی کے پیغام کو پیغام حق سمجھ کر قبول کر لیں، بہر حال کسی نبی یا رسول کے مبعوث ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی مخلوق، اپنی روحانی سعادت اور دنیاوی جسمانی راحت و برکت کے لئے اپنی عقل و دانش اور فہم و فراست پر اعتماد کی بجائے پیغام حق کو اپنا رہنما بنائیں اور انسانوں کے نہیں بلکہ انسانوں کے پیدا کرنے والے خدائے قدوس کے بتائے ہوئے قانون پر عمل پیرا ہوں۔

یہاں اتنی بات اور ذہن نشین کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا ہماری عقلوں پر چھوڑ دیتا کہ خود ہی عقل کی رہنمائی میں راہ ہدایت تلاش کریں تو ہم کبھی بھی پورے طور پر سعادت و نجات کا راستہ نہیں معلوم کر سکتے تھے۔ دنیا کے عقلاء اور دانش وروں کا حال ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ رات دن مشاہدے اور تجربہ میں آنے والی چیزوں میں بھی کسی ایک بات پر متفق نہیں ہیں۔ بلکہ اتفاق رائے درکنار، ایک ہی شخص کبھی کچھ اور کبھی کچھ رائے قائم کر لیتا ہے تو روحانیت اور عالم غیب و عالم آخرت کے بارے میں وہ کیونکر صحیح بات معلوم کر سکتے تھے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ بغیر واسطہ پیغمبر، تنہا عقل انسانی سعادت و نجات کا صحیح اور صاف راستہ معلوم نہیں کر سکتی۔

اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں چند باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی ذات تمام طبقہ انسانی میں خاص طور پر ممتاز ہوتی ہے اور یہی باتیں اس کی رسالت کی دلیل اور اور برہان ہوتی ہیں اور اسی بنا پر اس کی پیروی امت پر واجب ہوتی ہے مثلاً اس کے اخلاق میں کمال پایا جاتا ہے۔ سلامت فطرت اور کمال اخلاق کے باعث اس میں ایک ایسی قوت قدسیہ پائی جاتی ہے جس کا دوسروں میں پایا جانا محال ہے۔ رحمت الہی ہر وقت اس کے شامل حال اور تائید الہی ہمیشہ اس پر سایہ افکن رہتی ہے وغیرہ۔ نبی کے لئے کیا جائز ہے اور کیا واجب اور کیا محال۔ ہر مسلمان پر یہ بھی جاننا ضروری ہے ورنہ بہت ممکن ہے کہ آدمی اپنی ناقصیت میں ہلاک ہو جائے۔ اس لئے نبوت سے متعلق عقائد بھی بیان کئے جاتے ہیں۔

## عقائد متعلقہ نبوت

عقیدہ اللہ عزوجل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو ہدایت کے لئے نبی بھیجے۔ انبیاء سب بشر تھے اور مرد تھے۔ نہ کوئی جن نبی ہو نہ عورت۔ نئے سے بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لئے وحی بھیجی ہو۔ یہ وحی خواہ فرشتہ کی معرفت ہو یا بلا واسطہ۔

**تشریح** اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بڑی حکمت اور رحمت ہے کہ وہ اپنی نبی اور نبی آدم کے لئے اپنا رسول، نوع بشر سے منتخب فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے یا کسی دوسری مخلوق سے ہمارے لئے رسول بھیجتا تو وہ ہماری عادات و خصائل سے واقف نہ ہوتا نہ اس کو ہم پر وہ شفقت ہوتی جو ایک ہم جنس کو دوسرے ہم جنس سے ہوتی ہے۔ دوسرے اس کی طرف ہمارا میلان لمبی بھی نہ ہوتا نہ اس کی باتوں میں ہم اس کی پیروی کر سکتے اور نہ ہماری کمزوریوں کا اسے احساس ہوتا۔ پیغمبر کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آکر پیغام سنا دیا کرے بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح کرے۔ اسے خود اپنی زندگی میں ان اصول و قوانین کا عملی مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اسے ان بے شمار مختلف انسانوں کے ذہن کی گتھیاں سلجھانی پڑتی ہیں جو اس کا پیغام سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے ملنے والوں کی تنظیم اور ترتیب کرنی ہوتی ہے اور یہ سارے کام جبکہ انسانوں ہی میں کرنے کے ہیں تو ان کے لئے نبی نوع انسان ہی کے افراد ہی موزوں ہو سکتے ہیں جو انسانوں میں انسان کی طرح رہ کر، انسان ہی کے سے کام کریں اور انسانی زندگی میں منشاء الہی کے مطابق، اصلاح کر کے دکھائیں

عقیدہ وحی نبوت انبیاء کے لئے خاص ہے جو اسے کسی غیر نبی کے لئے مانے کافر ہے۔ اور ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے ہیں، کوئی بات القاء ہوتی ہے اس کو ابہام کہتے ہیں اور وحی شیطانی کہ من جانب شیطان دل میں ڈالی جاتی ہے یہ کاہن ساحر اور دیگر کفار و فساق کے لئے ہوتی ہے۔

عقیدہ نبوت کسی نہیں کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعہ سے حاصل کر سکے بلکہ

محض عطائے الہی ہے یعنی شرافت رسالت کا اہل ہر کس و ناکس نہیں ہو سکتا۔ مرتبہ رسالت کے طرف اور اہلیت کا فیصلہ تمام تر اللہ واحد قدوس ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں یہ سرفرازی اور فضل و شرف دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب جلیل کے قابل بناتا ہے جو حصول نبوت سے قبل تمام اخلاق رذیلہ (بری خصلتوں) سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ و حسنہ سے مزین ہو کر قرب و ولایت کے تمام مدارج (مرتبے) طے کر چکتا ہے اور اپنے جسم و نسب و قول و فعل و حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منترہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہا زائد ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھوں حصے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور جو اسے کسی مانے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک نبوت تک پہنچ سکتا ہے کافر ہے۔ قرآن کریم کا حکم ناطق ہے **اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ** یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہ نبوت کی اہلیت اور اس کا استحقاق کسے ہے کسے نہیں۔

**فائدہ :-** انبیاء کرام میں جو ایک خاص قوت قدسیہ پائی جاتی ہے اس کے باعث، وحی الہی کا اثر ان پر بے انتہاء ہوتا ہے۔ معاصی اور خدا کی نافرمانی کے خیال سے بھی نبی کا نپ اٹھتا ہے۔ جو باتیں خدا کو ناپسند ہوتی ہیں ان سے وہ ہمیشہ متنفر (دور و نفور) رہتا ہے۔ اگر کوئی موقع پیغمبر کو ایسا پیش آجاتا ہے جو عام آدمیوں کی لغزش کا مقام ہوتا ہے تو وہاں تا ئید الہی، کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہو کر پیغمبر کو اس لغزش سے بچا لیتی ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں ہے۔ تو چونکہ برہان الہی یعنی عصمت نبوت یا نبی کی معصومیت ہر وقت پیغمبر کے پیش نظر اور اس پر سایہ گتر رہتی ہے اس لئے پیغمبر سے صدور گناہ ناممکن و محال ہے۔

**عقیدہ کا نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔** اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بددینی ہے۔

عصمت انبیاء یعنی نبیوں کے معصوم ہونے کے یہ معنی ہیں کہ ان کے لئے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا۔ جس کے سبب ان سے صدور گناہ ممکن ہی نہیں۔ شرعاً محال ہے۔ بخلاف امہ و اکابر اولیاء کہ اللہ عزوجل انہیں گناہ و نافرمانی سے محفوظ رکھتا ہے ان سے گناہ ہوتا نہیں مگر ہو، تو شرعاً محال بھی نہیں۔

عقیدہ انبیاء کرام علیہم السلام شرک اور کفر اور ہر ایسے امر سے جو مخلوق کے لیے عیبت  
ت ہو جیسے کذب و خیانت و جہل و غیر حاصنات ذمیمہ، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت  
وقت کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں اور کبائر (گناہ کبیرہ)  
ی مطلقاً معصوم ہیں اور حق یہ ہے کہ قصد و ارادۃ، صغائر (گناہ صغیرہ) سے بھی معصوم  
وظو و مامون ہیں۔ قبل نبوت بھی اور بعد نبوت بھی۔

عقیدہ انبیائے کرام کے اجسام کا برص و جذام وغیرہ ایسے امراض سے جو مخلوق  
لئے باعث تنفر اور نفرت و دوری کا سبب بن سکے پاک ہونا ضروری ہے اسی لئے علمائے  
فرماتے ہیں کہ چھ باتیں کسی نبی میں نہیں پائی جاتیں۔ ولد الزنا ہونا۔ بدسورتی۔ بے عقلی۔ بزدلی  
بستی۔ اور نامردی۔

عقیدہ احکام تبلیغہ میں انبیاء سے سو و نسیان محال ہے۔ جبکہ دنیا کے کسی اور معلم  
میں یہ بات کہیں نہیں پائی جاسکتی۔

عقیدہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام پر بندوں کے لئے جتنے احکام نازل فرمائے  
نے وہ سب پہنچا دیئے۔ اور حقیقت یہ ہے بھی مرتبہ رسالت سے بہت ہی گہری ہونی  
پہنچیر جیسا عبد کامل بھی کوئی حکم شریعت کسی مروت یا کسی خوف سے چھپا جائے۔ تو یہ  
کہ کسی نبی نے کسی حکم کو لوگوں سے چھپا رکھا **ثَبْتِیَّة** یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے  
بادہ کافر ہے۔

**تشریح:** حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کامل و مکمل عبد اللہ ہیں ان کی طرف  
کر کے یہ کہنا کہ آپ نے نعوذ باللہ کسی خوف یا مصلحت سے قرآن کریم ہم تک پورے کا  
بلکہ کسی ناقص صورت میں پہنچایا ہے۔ بڑی قسوتِ قلبی، سنگدلی اور دیدہ دل کی بینائی  
وہی کی واضح دلیل ہے۔ ہم اہلسنت و جماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ نوع انسانی کے عوام  
س یا خاص الخواص (مثلاً حضرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم) ان میں سے جو  
طبقة کے لائق اور جس کی استعداد کے مطابق تھی یقیناً قطعاً، آپ نے بلا کم و کاست  
خوف و خطر پہنچا کر خدا کی حجت بندوں پر تمام کر دی۔



حجۃ الوداع کے موقع پر کہ ہر درجہ اور ہر طبقہ کی، انبؤہ در انبؤہ خلقت جمع تھی۔ تمام میدان  
 عرفات سر تا سر، لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر شخص تکبیر و تہلیل، تجمید و تقدیس میں مصروف تھا  
 اس وقت چوالیس ہزار (یا چوبیس ہزار) کا مجمع احکام الہی کی تعمیل کے لئے ہمہ تن حاضر تھا نبی  
 کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اسے غور سے پڑھیں ذرا تفکر  
 و تدبیر سے پڑھیں اور ان الفاظ مبارکہ پر غور کریں کہ لوگو! قیامت کے دن تم سے میری بابت  
 بھی دریافت کیا جائے گا مجھے ذرا بتادو کہ تم کیا جواب دو گے: "سب نے کہا ہم اس کی شہادت  
 دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے احکام ہم کو پہنچا دیئے۔ آپ نے رسالت و نبوت کا حق ادا کر  
 دیا۔ آپ نے ہم کو کھڑے کھوٹے کی بابت اچھی طرح بتا دیا۔"

اور اس وقت نبی کریم علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیم نے اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا  
 آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے تھے اور پھر لوگوں کی طرف جھکاتے تھے (اور فرماتے تھے) اے  
 خدا سن لے دیتے بندے کیا کہہ رہے ہیں) اے خدا گواہ رہنا کہ یہ لوگ کیا گواہی دے رہے  
 ہیں) اے خدا شاہد رہ (کہ یہ سب کیا صاف اقرار کر رہے ہیں)

مسلمان دیکھیں کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکر اپنی ذات مبارک کے  
 متعلق، اپنے عمر بھر کے کارناموں کے متعلق ہمارے باپ داداؤں کی گویا مہریں کرائی ہیں۔  
 ﷲ الصاف کہ ان ایک لاکھ اور کم و بیش چوبیس ہزار کی شہادت و گواہی اور وہ بھی خود اس  
 ذات گرامی کے روبرو، معتبر و مقبول اور بارگاہ خداوندی میں مرضی و پسندیدہ ہے یا ہوا ہوا  
 کے پرستاروں اور اپنی خواہشات نفسانی کے پجاریوں کے ادہام تراشیدہ اور خیالات باطلہ۔  
 واللہ المستعان علی ما تصفون سچ ہے اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاَصْنَعْ مَا شِئْتَ !

ع بے حیا باش و ہرچہ خواہی کن

عقیدہ اللہ عزوجل نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی۔ زمین و آسمان  
 کا ہر ذرہ، ہر نبی کے پیش نظر ہے۔ مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ کے دیئے سے ہے، اللہ کا  
 عطائے سے لہذا ان کا علم عطائی ہوا۔ اور علم عطائی اللہ عزوجل کے لئے محال ہے کہ اس کی  
 معرفت کون کس کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ذاتی ہے اور بلاشبہ غیر خدا کے لئے ایک ذرہ

کا علم بھی ذاتی نہیں۔ اس قدر ضروریات دین سے ہے اور اس کا منکر کافر۔ اور اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ عزوجل کے دیئے سے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو کثیر در کثیر اور وافر غیبوں کا علم ہے۔ یہ بھی ضروریات دین سے ہے۔ جو اس کا منکر ہے کافر ہے سرے سے نبوت ہی کا منکر ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام غیب کی خبریں دینے کے لئے آتے ہی ہیں۔ جنت۔ دوزخ۔ حشر۔ نشر۔ عذاب ثواب، غیب نہیں تو اور کیا ہیں۔ ان کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں اور اسی کا نام غیب ہے بلکہ نبی کے معنی ہی ہیں غیب کی خبر دینے والا۔

**فائدہ:** اس پر اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تمام انبیاء تمام جہاں سے اتم و اعظم ہے۔ اللہ عزوجل کی عطا سے حبیب اکرم عالم اعلم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غیبوں کا علم ہے جن کا شمار اللہ ہی جانتا ہے۔ مسلمانوں کا یہاں تک اجماع تھا۔ مگر وہابیہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کس طرح گوارا ہو۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ (۱) حضور کو دیوار پیچھے کی بھی خبر نہیں مولوی عبدالرشید (۲) وہ اور تو اور، خود اپنے خاتمہ کا بھی حال نہ جانتے تھے (مولوی اسماعیل دہلوی (۳) ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ خدا کے بتائے سے بھی اگر بعض مغیبات کا علم ان کے لئے مانے جب بھی مشرک ہے (امام وہابیہ دہلوی) (۴) اس پر قہر یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیوار پیچھے کی بھی خبر نہ مانیں اور ابلیس لعین کے لئے تمام زمین کا علم محیط حاصل جائیں (۵) اس پر عذر یہ کہ ابلیس کی وسعت علم نص سے ثابت ہے۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے (۶) پھر تم قریہ کہ جو کچھ ابلیس کے لئے خود ثابت مانا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کے ماننے پر جھٹ حکم شرک جڑ دیا۔ یعنی خدا کی خاص صفت ابلیس کے لئے تو ثابت ہے وہ تو خدا کا شریک ہے۔ مگر حضور کے لئے ثابت کر دو مشرک ہو مولوی عبدالرشید گنگوہی (۷) اس پر بعض غالی اور بڑے اور صاف کہہ دیا کہ جیسا علم غیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر پاگل ہر چوپائے کو ہوتا ہے (مولوی اشرف علی تھانوی) انا للہ وانا الیہ راجعون۔ واللہ المستعان علی ما تصفون اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب انہیں یا ان کے متبعین کو وہ ناپاک عبارتیں دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو

کیسوں کو امام و مقتدا مانتے ہو تو کاوا کاٹ کر اس سے بچتے اور علم کے خاص و غیر خاص ہونے کی بحث محض بے علاقہ لے دوڑتے ہیں کہ علم غیب کو آیات و احادیث نے خاص بنجا بتایا ہے فقہانے دوسروں کے لئے اس کے اثبات کو کفر کہلے۔

خیر عوام الناس ان سے کیوں الجھیں اور کیوں ان کی تلبیسات کا شکار بنیں۔ مسلمان تو یہ یاد رکھیں۔ کہ جو لوگ انبیاء بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم وسلم سے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق ہیں **أَفَتَوَكَّفِرُونَ بَعْضَ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ** یعنی قرآن عظیم کی بعض آیتیں ملتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں کہ آیت نفی دیکھتے ہیں اور ان آیتوں سے جن میں انبیاء علیہم السلام کو علوم غیب عطا کیا جانا۔ بیان کیا گیا ہے انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ نفی و اثبات دونوں حق ہیں۔ کہ نفی علم ذاتی کہے کہ یہ خاصہ الوہیت ہے اور اثبات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء ہی کی شایان شان ہے اور الوہیت کے منافی ہے۔ علم عطائی کہ دوسرے کا دیا ہوا ہو یا ایسا علم کہ محیط نہ ہو یعنی بعض اشیاء پر مطلع اور بعض سے ناواقف ہو اللہ عزوجل کے لئے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے مخصوص ہونا تو دوسرا درجہ ہے۔

اور یہ کہنا کہ ہر ذرہ کا علم نبی کے لئے مانا جائے تو خالق و مخلوق کی مساوات لازم آئے گی باطل محض ہے کہ مساوات توجب لازم آئے کہ اللہ عزوجل کے لئے اتنا ہی علم ثابت کیا جائے اور یہ نہ کہے گا مگر کافر۔

بیشک ہم مانتے ہیں کہ عیلم وخبیر جل جلالہ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اولین و آخرین کا علم کا علم عطا فرمایا۔ شرق تا غرب، عرش تا فرش، سب انیس رکھایا **مَدَّكُنُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** کا شاہد بنایا۔ روز اول سے روز آخر تک کا سب ماکان و مایکون (جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا) انیس بتایا۔ اشیائے مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا۔ بلکہ یہ جو کچھ بیان ہوا، ہرگز ہرگز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا علم نہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و علی آلہ و صحبہ اجمعین و کرم۔ بلکہ علم حضور سے ایک چھوٹا حصہ ہے ہوز احاطہ علم محمدی میں، وہ ہزار ہزار بے حد و بے کفار سمندر لہرا رہے ہیں جن کی حقیقت وہ جانے یا ان کا عطا کرنے والا مالک و مولیٰ جل و علا۔

لیکن تمام اہلسنت وجماعت کا یہ اجماعی ایقانی قطعی عقیدہ ہے کہ بلاشبہ غیر خدا کا علم، معلومات الہیہ کے مساوی نہیں ہو سکتا۔ معاذ اللہ مساوی درکنار، تمام اولیٰ و آخرین و انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین سب کے علوم مل کر، علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کروڑ ہا کروڑ سمندروں سے، ایک ذرا سی بوند کے کروڑوں حصے کو کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ دونوں متناہی ہیں اور متناہی کو متناہی سے کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہے۔ بخلاف علوم الہیہ کے غیر متناہی در غیر متناہی ہیں۔ اور مخلوق کے علوم اگرچہ عرش و فرش، شرف و غرب و جملہ کائنات از روز اول تا روز آخر، کو محیط ہو جائیں آخر متناہی ہیں کہ عرش و فرش دو حدیں ہیں۔ شرق و غرب دو حدیں ہیں۔ روز اول و روز آخر دو حدیں ہیں۔ اور جو کچھ دو حدوں کے اندر ہو سب متناہی ہے تو جملہ علوم خلق کو علم الہی سے اصلاً نسبت ہونی ہی محال ہے نہ کہ معاذ اللہ مساوات کا وہم۔

افسوس ان شرک پسندوں کو اتنا نہیں سوچتا کہ علم الہی ذاتی ہے اور مخلوق کا علم عطائی۔ وہ واجب ہے یہ ممکن۔ وہ قدیم ہے یہ حادث، وہ نامخلوق ہے۔ اور یہ مخلوق۔ وہ نامقدور ہے اور یہ مقدور۔ اس کی بقا ضروری ہے اور اس کی فنا جائز۔ اس میں تغیر ممتنع ہے اور اس میں ممکن وہ لامتناہی ہے اور یہ کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو متناہی ان عظیم تفرقوں کے بعد احتمال شرک نہ ہوگا۔ مگر کسی مجنون کو۔ غرض موٹی سی بات یہ ہے کہ ذاتی و عطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دنیا صراحتاً ایمان و اسلام کے خلاف ہے کہ اس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات کا الزام دنیا صراحتاً ایمان اور اسلام کے خلاف ہے کہ اسکے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لازم کہ ممکن و واجب، وجود میں معاذ اللہ مساوی ہو جائیں کہ ممکن بھی موجود ہے اور واجب بھی موجود۔ اور وجود میں مساوی کہنا صریح کفر، کھلا شرک ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ

**عقیدہ انبیائے کرام تمام مخلوق۔ یہاں تک کہ رسول ملائکہ (فرشتوں کے رسولوں) سے افضل ہیں۔ ولی کتنے ہی بڑے مرتبہ والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر ہے۔**

فائدہ :- مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے جو مشاہیر علمائے دیوبند میں شمار ہیں مولوی رشید احمد گنگوہی کے مرثیے میں لکھا کہ "عبید سود کا ان کے لقب ہے یوسف ثانی" یعنی مولوی رشید احمد گنگوہی کے کالے کلرٹے حبشی غلام کا بھی وہ مقام ہے کہ اس کا لقب ہے یوسف ثانی۔ (دوسرا یوسف)

اور مسلمان خوب جانتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں، بنی نوع انسان میں، سب سے ذلیل تر غلام ہے وہ بھی کالا حبشی۔ آزاد شخص کیسا ہی پاچی سے پاچی ہو غلام ہونے کو اپنی توہین سمجھے گا، تو اس انتہاء درجہ کے پاچی پن کو اس مرثیہ گو نے کہاں جا کر ملایا۔ یہ نبی اللہ یوسف علیہ السلام کی توہین ہے اور کفر

عقیدہ نبی کی تعظیم، فرض عین ہے۔ ہر مرد عورت پر یکساں فرض۔ بلکہ اصل تمام فرائض ہے یعنی تمام فرائض شریعت کی اساس و بنیاد اور ہر فرض پر مقدم۔ کسی نبی کی ادنیٰ توہین یا تکذیب۔ ان کی جناب میں گستاخی یا ان کی طرف فحش اور بے حیائی کی باتیں، منسوب کرنا سب کفر ہے مثلاً معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف نسبت کرنا۔

عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے بعض کا صریح ذکر قرآن مجید میں ہے اور بعض کا نہیں۔ جن کے اسمائے طیبہ بالقرآن مجید میں ہیں وہ یہ ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام	حضرت آدم علیہ السلام
حضرت ابراہیم علیہ السلام	حضرت ابراہیم علیہ السلام
حضرت اسحاق علیہ السلام	حضرت اسحاق علیہ السلام
حضرت یوسف علیہ السلام	حضرت یوسف علیہ السلام
حضرت ہارون علیہ السلام	حضرت ہارون علیہ السلام
حضرت لوط علیہ السلام	حضرت لوط علیہ السلام
حضرت داؤد علیہ السلام	حضرت داؤد علیہ السلام
حضرت ایوب علیہ السلام	حضرت ایوب علیہ السلام
حضرت نوح علیہ السلام	
حضرت اسمعیل علیہ السلام	
حضرت یعقوب علیہ السلام	
حضرت موسیٰ علیہ السلام	
حضرت شعیب علیہ السلام	
حضرت ہود علیہ السلام	
حضرت سلیمان علیہ السلام	
حضرت ایاس علیہ السلام	

حضرت الیسع علیہ السلام  
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام  
 حضرت ادریس علیہ السلام  
 حضرت صالح علیہ السلام  
 حضرت یحییٰ علیہ السلام  
 حضرت یونس علیہ السلام  
 حضرت ذوالکفل علیہ السلام  
 اور

حضرت سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم  
 عقیدت انبیاء علیہم السلام کی کوئی تعداد مقرر کرنا جائز نہیں کہ خبریں اس باب میں  
 مختلف ہیں اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں، نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو، نبی  
 جلنے کا احتمال ہے اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں لہذا اجمالاً یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ کے برہنہ  
 پر ہمارا ایمان ہے۔ خواہ وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوں یا کم و بیش۔ غرض اللہ در رسول نے جنہیں تفصیلاً  
 نبی بتایا اور قرآن و حدیث میں ان کا تذکرہ آیا ہم ان پر نام بنام ایمان لائے اور باقی تمام انبیاء پر  
 ہم اجمالاً ایمان لائے ہیں کہ ورسو سلیمہ

تشریح خدا و رسول نے ہم پر یہ لازم نہیں کیا کہ ہر رسول کو ہم جانیں یا نہ جانیں تو خواہی  
 نحوہی اندھے کی لاشی سے ٹھولیں کہ شاید یہ ہو شاید یہ ہو۔ کاہے کے لئے ٹھولنا اور کاہے کے  
 لئے شاید۔ ہزاروں امتوں کا ہمیں نام و مقام تک معلوم نہیں۔ نہ قطعی طور پر انبیاء کی صحیح تعداد  
 معلوم ہے کہ قرآن عظیم یا حدیث کریم میں مثلاً رام و کرشن کا ذکر تک نہیں جنہیں ہندو مانتے ہیں  
 بلکہ ان کے وجود پر بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ واقعی کچھ اشخاص تھے بھی یا محض  
 ہندوؤں کے تراشیدہ خیالات ہیں۔

اور ہندوؤں کی کتابوں میں جہاں ان کا ذکر آتا ہے وہیں ان کے فسق و فجور، بد اعمالیوں  
 بد اخلاقیوں اور بد چلنیوں کی داستانیں ملتی ہیں اور ان کی بد کرداریوں کا پتہ چلتا ہے۔ اب اگر  
 ہندوؤں کی کتابیں درست مانی جائیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ رام و کرشن، فاسق و فاجر  
 اور بد کردار بھی تھے اور جو ایسا ہو وہ ہرگز نبی نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کے کرام معصوم ہوتے ہیں  
 ان کی تربیت و نگرانی، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تو محال و ناممکن ہے کہ ان سے یہ گناہ سرزد  
 ہوں یا وہ جان بوجہ کذب کبیرہ تو کبیرہ، گناہ صغیرہ میں بھی ملوث ہوں۔

غرض یہ کہ سوائے ان نبیوں کے بن کے نام قرآن مجید اور حدیث شریف میں بصرحت مذکور ہیں کسی شخص کے متعلق تعین سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ نبی یا رسول تھے۔

عقیدہ کا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنایا اور تمام اسماء و سمیات کا علم دیا۔ ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر شیطان بانکار پیش آیا اور ہمیشہ کے لئے مردود ہوا۔

## فوائد شتی

۱ حضرت آدم علیہ السلام دنیائے انسانی میں پہلے انسان اور کائنات بشری کے پہلے ابو البشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت خاک لی اس کو پانی میں خمیر کیا اور اسے ایسی مٹی میں گوندھا گیا جو نئی تبدیلیاں قبول کر لینے والی تھی۔ جب وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی تو اس میں صورت انسانی بنائی پھر جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھانے لگی کہ جب ہوا اس میں جاتی اس میں آواز پیدا ہوتی اور آفتاب کی تمازت و تپش سے وہ پختلا پختہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بیک گوشت پوست ہڈی۔ پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ و شعور، حس و عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سز سجدو ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی اور بطور اظہارِ عجز و نیاز و تسلیم و اطاعت سرنگوں ہو گئے۔

لیکن یہ حکم جب فرشتوں کو مل رہا تھا تو جنات وغیرہ جو ان سے پست و فرود تر اور نسبتاً ادنیٰ مخلوق تھے وہ اس حکم کے مخاطب بدرجہ اولیٰ ٹھہرے۔ بلا تشبیہ بادشاہ کا حکم جب وزیر یا نائب السلطنت کو ملتا ہے تو ادنیٰ عمدیدار بدرجہ اولیٰ اس کے مخاطب ہوتے ہیں۔ عزازیل جس کا لقب بعد کو ابلیس پڑا فرشتہ نہ تھا از قسم جن تھا مگر بہت بڑا عابد زاہد تھا یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار ہوتا تھا مگر جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا حکم فرمایا تو اس وقت وہ اس مجلس میں موجود بھی تھا اور غیر معلوم مدت تک فرشتوں کے ساتھ تسبیح و تسبیح میں مشغول رہنے کی وجہ سے وہ بھی اس حکم کا مخاطب تھا اور وہ بھی نود کو مخاطب سمجھتا تھا۔ اگلے جب خدائے تعالیٰ نے

اس سے دریافت کیا کہ "تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا"، تو اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں اس لئے اس حکم کا مخاطب ہی نہیں تھا کہ سجدہ کرتا، بلکہ ازراہ غرور کہا تو یہ کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اسی رد و انکار کے باعث جو محض اپنی برتری کے زعم اور پندار تفوق کی بنا پر تھا، اسے مردود مقہور بنا دیا گیا ابلیس لعین اپنی تمکنت اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی و پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہو بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے ان کے اندر ودیعت کی ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا اور آپ پر تمام اشیاء و جملہ مسمیات پیش فرما کر آپ کو ان کے اسماء و صفات و افعال و خواص، بلکہ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والے تھیں، ان کی بنیاد و نساد اور اصول و اساس، غرض تمام اشیاء کی جملہ جزئیات و تفصیلات کا علم دیا یا بالفاظ دیگر آپ کو ہر چیز کا نام اور اس کی پیدائش کی حکمت و حقیقت بتادی اور کسی لغت کی کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہ رکھی۔ اور ملائکہ کے لئے حصول کمالات کا وسیلہ کیا اور فرشتوں کے لئے بھی ان کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا اور انہیں یہ ماننا پڑا کہ یہ منصب صرف انسان ہی کے لئے موزوں ہے کہ وہ زمین پر خدا کا خلیفہ بنے اور ان تمام حقائق و معارف اور علوم و فنون سے واقف ہو کر نیابت الہی کا صحیح حق ادا کرے اور جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی وسعت علم اور اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو پروردگار عالم نے انہیں حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں کیونکہ اس میں شکر گزاری اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کے اعتراف اور اپنے مقولہ کی معذرت کی شان پائی جاتی ہے۔

(۳) سجدہ کے لغوی معنی ہیں فروتنی اور خضوع اور شریعت میں اس کے معنی ہیں پیشانی کا زمین پر رکھنا۔ یہ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک سجدہ عبادت جو بقصد پرستش کیا جاتا ہے اور سجدہ کرنے والا یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جس کے سامنے میں سجدہ کر رہا ہوں وہ خدا ہے۔ دوسرا سجدہ تحییت جس سے مسجود کی تعظیم مقصود ہوتی ہے نہ کہ عبادت۔ یعنی جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ اس کی عزت و احترام اور توقیر و تنظیم کے لئے ہے عبادت کے لئے نہیں۔



سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے کسی اور کے لئے نہیں ہو سکتا۔ نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا۔ یہاں جو مفسرین سجدہ عبادت مراد لیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سجدہ خاص اللہ تعالیٰ کے لئے تھا اور حضرت آدم علیہ السلام قبلہ بنائے گئے تھے تو وہ مسجود الیہ تھے نہ کہ مسجود لہ۔ مگر یہ قول ضعیف ہے کیونکہ اس سجدہ سے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا فضل و شرف ظاہر فرمانا مقصود تھا اور مسجود الیہ کا ساجد سے افضل ہونا کچھ ضرور نہیں جیسا کہ کعبہ معظمہ، حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ و مسجود الیہ ہے باوجودیکہ حضور اس سے افضل ہیں۔

دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں سجدہ عبادت نہ تھا سجدہ تحیت تھا اور خاص آدم علیہ السلام کے لئے تھا۔ زمین پر پیشانی رکھ کر تھا نہ کہ صرف جھکنا ہی۔ یہی قول صحیح ہے اور اسی پر جمہور ہیں۔ (۴) سجدہ تحیت پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ ہماری شریعت میں منسوخ کیا گیا اب کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضور نے فرمایا کہ مخلوق کو نہ چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرے (مدارک)

(۵) ملائکہ میں سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل ہیں پھر میکائیل پھر اسرافیل پھر عزرائیل پھر اور ملائکہ مقربین۔

(۶) یہ سجدہ جمعہ کے روز وقت زوال سے عصر تک کیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ملائکہ مقربین سو برس اور ایک قول میں پانچ سو برس سجدہ میں رہے۔

عقیدہ ۱۱۔ انبیاء علیہم السلام کو ظالم کہنا اہانت و کفر ہے۔ جو کہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک و مولیٰ ہے جو چاہے فرمائے اس میں ان کی عزت ہے دوسرے کی کیا مجال کہ خلاف ادب، کوئی کلمہ زبان پر لائے اور خطاب حضرت حق کو اپنی جرات کے لئے سندنائے، ہمیں تعظیم و توقیر اور ادب و طاعت کا حکم فرمایا۔ ہم پر یہی لازم ہے۔

عقیدہ ۱۲۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا بلکہ سب انسان انیس کی اولاد ہیں اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں یعنی اولاد آدم۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں یعنی سب انسانوں کے باپ۔

عقیدہ ۱۰ حضرت آدم علیہ السلام دنیاۓ انسانی کے باپ اور بشر ہیں اور نسل انسانی کی دنیاوی سعادت و فلاح کے رہنما اور ہادی۔ اسی طرح بلاشبہ وہ سعادت اخروی اور فلاح آخرت کے پیغامبر تھے اور سب میں پہلے نبی۔ اور سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے اور جدید شریعت انہیں دی گئی حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے ساڑھے نو سو برس ہدایت فرمائی۔ ان کے زمانے کے کفار بہت سخت تھے ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے استہزاء کرتے اتنے عرصہ میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے۔ باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں ہٹ دھرمی اور کفر سے باز نہ آئیں گے۔ مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کے ہلاک کی دعا کی۔ اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو اور زمین کے چشموں کو امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں تاکہ طوفان آیا اور تمام منکرین و معاندین غرق آب ہو گئے اور عدلے تعالیٰ کے قانون "جزا اعمال" کے مطابق اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ ساری زمین ڈوب گئی صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لیا گیا تھا بچ رہا۔

عقیدہ ۱۱: انبیاء علیہم السلام کے مراتب جداگانہ اور مرتبے مختلف ہیں اور ایسے اوصاف میں جن سے انسان دنیا میں مدح و ستائش کا مستحق ہو اور آخرت میں اجر سے سرفراز، بعض حضرات سے بعض افضل ہیں اور بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ اگرچہ نبوت میں کوئی تفرقہ نہیں۔ وصف نبوت میں سب شریک یکدگر ہیں مگر خصائص و کمالات میں درجے متفاوت ہیں۔ یہ تفصیل یا باہمی فضیلت و انفضلیت جو کچھ ہے محض عند اللہ ہے۔ خالق کے یہاں قربت کے درجات و مراتب کے لحاظ سے ہے۔ خلق کے لئے بحیثیت مطاع و مقتدا و مخدوم سب یکساں ہیں اطاعت و تعظیم سب کی، عام مخلوق پر یکساں واجب ہے۔ ان کے مرتبوں کے تفاوت میں عوام الناس کو بحث و گفتگو جائز نہیں۔ ان کا تقابل (باہمی مقابلہ) عوام کے منصب سے باہر ہے۔ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر یوں فضیلت نہ دو کہ اس سے دوسرے کی تحقیر لازم آئے۔

عقیدہ ۱۲: انبیاء کرام میں فضائل و کمالات، مراتب و مقامات، معجزات و کرامات میں سب سے افضل ذات پاک مصطفیٰ ہمارے آقا و مولیٰ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضور کے

بعد سب سے بڑا مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو مرسلین اور اولوالعزم کہتے ہیں اور یہ پانچوں حضرات، باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و فلک و جن، اور جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔ اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں بلا تشبیہ حضور کے صدقہ میں حضور کی امت تمام امتوں سے افضل ہیں۔

عقیدہ تمام انبیائے کرام، اللہ عزوجل کے حضور، عظیم و جاہت و عزت والے ہیں ہر نبی کی شخصیت، منصب نبوت و رسالت میں بھی خاص امتیازی شان رکھتی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ، چوڑے چمار کی مثل کہنا یا ذرہ ناچیز سے کم بتانا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔

فائدہ ۱۔ امام الوہابیہ مولوی اسماعیل دہلوی، جسے وہابیہ نے شہید و ذبیحہ کا لقب دیا ہے اپنی ناپاک کتاب تقویت الایمان میں جا بجا لکھا کہ جس نے اللہ کا حق، مخلوق کو دیا تو بڑے سے بڑے کا حق، ذلیل سے ذلیل کو دے دیا جیسے بادشاہ کا تاج، ایک چمار کے سر پر رکھ دیجئے اور یقین جانئے کہ اسی میں جگہ جگہ صاف الفاظ میں لکھا کہ سب انبیاء اس کے روبرو ذرہ ناچیز سے کم تر ہیں۔

مسلمانو! اس نابکار نے اللہ کو بڑے سے بڑا کہا اور تمام مخلوقات کو ذلیل سے ذلیل تو کم سے کم بیچ میں ایک اور چلے جو اللہ سے چھوٹا اور مخلوقات سے بڑا ہو۔ اس سے ذلیل اور ان سے معزز ہو۔ اور یہ کفر ہے کہ ذات باری کے سوا ایک اور کو مانا کہ اللہ کا مخلوق نہیں، مخلوق سے بڑا ہے۔

پھر وہاں چمار سے بھی ذلیل کہا۔ یہاں ذرہ ناچیز سے بھی کم تر یعنی چوڑے چمار سے بھی بدتر کہ وہ پھر انسان ہیں اور انسان کو عزت بخشی گئی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَرَآءِهَا كَالْحَمَلِ الْكَبِيرِ۔ اور اللہ کی شان کے روبرو کلمہ ہے۔

مسلمانو! مَا قَدَّرُوا لِلَّهِ حَتَّىٰ قَدَرِجَ ظَالِمُونَ نے اللہ ہی کی شان کی قدر نہ کی۔ اللہ عزوجل ایک قوم کا حال بیان فرماتا ہے يُرِيدُ وَفَا ان يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ اللہ اور اس کے رسولوں میں جدان ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور فرماتا ہے اُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا۔ یہی قسم ہے

کافر ہے۔

مسلمانو! اللہ اور اس کے رسولوں میں یہ جدائی ڈالنا یہ ہے کہ ان کی عزت ان کی عظمت اللہ کی عزت و عظمت سے جدا ہے حَاشَ لِلّٰہِ، انبیاء کی شان، اللہ ہی کی شان ہے انبیاء کی عزت اللہ ہی کی عزت ہے۔ انبیاء کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے۔

دیکھو! ائمہ دین نے فرمایا ہے کہ غیر خدا کے لئے تواضع حرام ہے۔ پھر علماء و غیر علم معظمان دین کے لئے تواضع کا حکم دیا ہے، اگر ان کی عزت، اللہ کی عزت نہ ہوتی تو ان کے لئے تواضع حرام ہوتی۔ قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰہِ جَمِیْعًا۔ ساری عزت اللہ کے لئے ہے۔ اور فرماتا ہے۔ وَ لِلّٰہِ الْعِزَّةُ وَاِلٰہِ سِوٰہِہٖ لَا یُعٰبَدُ اِلَّا ہُوَ۔ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لئے ہے۔

اگر ان کی عزت، عزت الہی سے جدا ہوتی تو عزت کے حصے ہو جاتے۔ ساری عزت اللہ کے لئے نہ ہوتی تو اس نے اللہ ہی کی شان کو چار سے بدتر اور ذرہ ناچیز سے کمتر کہا۔ تو ساری عظمت وہی فرق ڈالتا ہے کہ اس نے انبیاء اولیاء کو خدا کے مقابل ایک مستقل ہستی سمجھا ہے۔ وہاں کہا اللہ کی شان کے آگے یہاں کہا اس کے روبرو اور روبرو مقابل ہی کو کہتے ہیں۔ تو اس نے دو مستقل عزتیں رکھیں۔ ایک اللہ کی۔ دوسری انبیاء اولیاء کی اور ان کا باہم یوں موازنہ کیا اور باہم ناپ تول کرایا کہ اس کے مقابل یہ چار اور ذرہ سے بھی بدتر اور کمتر ہیں۔ حالانکہ یہ اسی کے ظل ہیں اسی کی عزت ان میں تجلی فرما ہے پھر ناپ تول کیسی؟ اگر بلا تشبیہ آئینہ میں بادشاہ کے عکس کی، اس کے مقابل تذلیل کیجئے کہ یہ تو اس کے سامنے نہایت ہی ذلیل و ناپاک، سوڑے سے بھی بدتر ہے تو یہ بادشاہ کی توہین ہوگی کہ اس عکس میں، بادشاہ ہی کی خوبی جلوہ گر ہے۔ وہاں یہ اسی لئے انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا شرک بتاتے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک خدا سے جدا ہستی ہیں جیسے مشرکوں کے بت۔ حالانکہ ان سے مدد مانگنا بعینہ خدا سے مانگنا ہے کہ وہ منظر ہیں عون الہی اور مدد خداوندی کے۔ (الاتعداد)

عقیدہ، نبی کے دعویٰ نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا علانیہ دعویٰ فرما کر محالاتِ عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف

بلاتا ہے۔ اللہ عزوجل اس کے دعویٰ کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرمادیتا ہے اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ جسے قرآن کریم نے ناقۃ اللہ (خدا کی اونٹنی) فرمایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا۔ کہ فرعونی جادوگروں نے جب اپنی رسیاں۔ بان اور لٹھیاں زمین پر ڈالیں جو سانپ اور اڑدے کی شکل میں دوڑنے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لٹھی کو زمین پر ڈالا اور اس نے اڑدھا بن کر ساجروں کے تمام شعبدوں کو ننگل لیا اور تھوڑی سی دیر میں تمام میدان صاف ہو گیا۔ یوہیں یدبضیا کہ آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے تو وہ روشن چمکتا ہوا نظر آتا۔

یوہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جکم خداوندی مردوں کو جلا دینا اور مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینا اور پرندوں کی شکل کے کھلونے مٹی سے بنا کر ان میں پھونک مار کر پچ مچ کے پرندے بنا دینا اور پھرا نہیں ہوا میں اڑا دینا۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے تو بہت ہیں

تشریح: ناظرین یہ حقیقت کبھی ذہن سے فراموش نہ ہونے دیں کہ کافہ اہل اسلام کا یہ مسلمہ اعتقاد ہے کہ حضور ہی امام الانبیاء ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ان تمام صفات عالیہ کی جامع ہے جو فرداً اور انبیاء و مرسلین کی ذوات مقدسہ میں جلوہ گر ہیں۔ تو جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات لا انتہاء و بے شمار ہیں یونہی آپ کے معجزات کہ صحیح روایات سے ثابت ہیں ان کا شمار بھی بہت ہے اور ہر ایک نبی کے معجزات سے ان کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اور کیفیت کے لحاظ سے بھی تمام انبیائے سابقین سے افضل ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت میں تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان نظر آتی ہے اس لئے آپ کے معجزات میں وہ تمام معجزات آجاتے ہیں جو ان برگزیدہ ہستیوں سے ان کے زمانہ میں ظاہر ہوئے۔

ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانا۔ اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دینا۔ انگلیوں سے پانی جاری ہونا۔ تھوڑے سے طعام کا کثیر جماعت کے لئے کافی ہو جانا۔ دودھ کی معمولی مقدار سے کثیر افراد کا سیراب ہونا۔ کنکریوں کا تسبیح پڑھنا۔ لکڑی کے ستون میں ایسی صفت پیدا ہو جانا جو خاص انسانی صفات سے ہے یعنی نہ صرف تھر تھرا نا اور رونابنکہ فراق محبوب

کا اس میں احساس پیدا ہونا۔ اور اس پر اس کا رونا۔ درختوں اور پتھروں کا آپ کو سلام کرنا درختوں کو بلانا اور ان کا آپ کے حکم پر چل کر آنا۔ درندوں اور موذی جانوروں کا آپ کا نام سن کر رام ہو جانا اور ہزاروں پیشگوئیوں کا آفتاب کی طرح صادق ہونا۔ وغیرہ وغیرہ ہزاروں معجزات ہیں جو نہ صرف آیات و صحیح احادیث سے ثابت ہیں بلکہ بہت سے غیر مسلم بھی اس کا اقرار کرتے ہیں اور ان کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر پایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کا یہ بھی ایک عظیم الشان معجزہ ہے کہ آپ نے دلوں کو بدل دیا۔ روجوں کو پاکیزہ بنا دیا اور جانی دشمنوں کو جہاں نثار دوست بنا دیا۔ پھر ایک فرق اور بھی ہے پہلے انبیائے کرام کے معجزات جو حسی و مادی تھے وہ صرف ان کی مقدس ہستیوں تک محدود تھے اور ان معجزات کا ظہور ایک خاص وقت میں ہوتا تھا اور خود انہیں کے عہد مبارک میں اس معجزہ کا وجود و نمونہ پایا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عصا کا اڑدھا بن جانا۔ پھر اس کا اپنی پہلی حالت پر آ جانا ایک ایسا نظارہ تھا جو کوہ طور کے بعد فرعون ہی کے دربار میں دیکھا گیا۔ یہی عصا بنی اسرائیل کے لئے بارہ چشموں کے جاری ہو جانے کا آلہ بنا۔ ضرورت جاتی رہی تو وہی عصا کا عصا رہ گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کریم، زندہ معجزہ ہے۔ دائمی معجزہ ہے۔ ابدی معجزہ ہے۔ اس کا اعجاز ہر وقت ہر آن موجود ہے اور مشہور بھی۔ یہ معجزہ آج بھی ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہے۔ حفاظ کے سینوں میں ہے اور بچہ بچہ کی زبان پر۔ جس کے مقابلہ میں دنیا کی ساری قوتیں جن و انسان عاجز رہے۔ عاجز ہیں اور تا قیامت عاجز رہیں گے۔ فصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ قدر جاہم و جلالہ و حسہ و جمالہ و بارک و سلم۔

عقیدہ: جو شخص نبی نہ ہو، وہ نبوت کا دعویٰ کر کے، کوئی محال عادی، اپنے دعویٰ کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا۔ ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے گا۔

عقیدہ: انبیائے کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ کھاتے پیتے ہیں جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہی کے لئے کہ **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ**۔ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے (ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات، حیات شہدار سے بہت

ارفع و اعلیٰ ہے۔ فلہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا۔ اس کی بی بی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے۔  
تخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں۔

تشریح:۔ موت صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں چلا جاتا ہے۔ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ موت کے یہ معنی نہیں کہ آدمی محض نیست و نالود ہو جائے بلکہ وہ تو یہی روح و بدن کے تعلق چھوٹنے اور ان میں حجاب و جدائی ہو جانے اور ایک طرح کی حالت بدلنے اور ایک گھر سے دوسرے گھر چلے جانے کا نام ہے۔ تعلق چھوٹنے کے یہ معنی کہ وہ علاقہ و تعلق جو عالم حیات میں، روح و بدن میں تھا جاتا رہا۔ اور اسی طرح حجاب و جدائی ہو جانے سے یہ مراد کہ ویسا اتصال تام جو پہلے تھا باقی نہیں ورنہ مذہب اہل سنت میں روح کو بعد موت بھی بدن سے ایک تعلق و اتصال باقی رہتا ہے یہاں تک کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مردہ پہچانتا ہے اسے جو اس کو غسل دے اور جو اٹھائے اور جو کفن پہنکائے اور جو قبر میں اتارے۔ بلکہ قبر کا حجاب اس کے لئے حجاب نہیں رہتا۔ قبر میں دفن ہو جانے کے بعد وہ آنے جانے والوں کے جوتوں کی پھیل اور ہاتھ بھاڑنے کی آواز سنتا اور انہیں پہچانتا ہے ان کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ غرض اس کے ادراکات و افعال جیسے دیکھنا، بولنا، سننا، سمجھنا، آنا، جانا، چلنا پھرنا، سب بدستور رہتے ہیں بلکہ اس کی قوتیں بعد مرگ اور صاف و تیز ہو جاتی ہیں کہ جس چیز پر مٹی وغیرہ کے حائل و حجاب ہیں وہ جسم خاکی ہے۔ نہ کہ روح پاک۔ اور دیکھنا سننا جانا پہچاننا جس کے اوصاف ہیں وہ جان پاک ہے نہ کہ یہ تودہ خاک۔

پھر یہ احوال تو عوام الناس کے ہیں۔ ان سے بڑھ کر خواص، اور ان میں بھی اولیائے کرام اور شہدائے عظام۔ جن کے متعلق قرآن کی تعلیم ہے کہ شہداء کی زندگی، صرف روحانی نہیں بلکہ روح و بدن دونوں سے ہے اگر آیت کریمہ بل احياءواکفروا لا یتلذذون میں حیات شہید سے صرف روحانی زندگی مراد ہوتی تو اس میں اس کی کیا خصوصیت تھی۔ یہ بات تو ہر مردے کو حاصل ہے اور تمام مسلمان جانتے ہیں کہ سب کی روحیں بعد موت زندہ رہتی ہیں حالانکہ حیات شہداء کی نسبت آیت میں فرمایا کہ تمہیں خبر نہیں: "ورحیات شہداء سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات طیبہ۔ حدیث شریف میں ہے

کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیائے کرام کے جسموں کو خراب کرے۔ تو اللہ کے نبی زندہ ہیں روزی دیئے جلتے ہیں۔ ان پر ایک آن کو محض قرآنی وعدہ کی تصدیق کے لئے موت طاری ہوتی ہے اس کے بعد پھر ان کو حقیقی دنیاوی زندگی عطا ہوتی ہے۔

فائدہ :- وہابیہ کی مت ایسی اندھی اندھی ہے کہ ان کے پیشوا اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں صاف لکھا کہ ”فرمایا (نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے) جو تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں“

یہ کفر بکا اور یعنی کہہ کر حضور پر اس کا انفرادی کیا۔

مسلمانو! مر کر مٹی میں ملنے کا مطلب یہی تو ہوتا ہے کہ جسم گل کر خاک ہوا اور خاک ہو کر خاک میں مل گیا کہ اس کے ذرے دوسرے ذرات میں مخلوط ہو گئے اور کوئی امتیاز باقی نہ رہا۔ اور یہ صریح توہین و کلمہ کفر ہے۔

اور لطف یہ کہ مولوی اسماعیل دہلوی کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین درست کرنے کو مولوی رشید احمد گنگوہی نے اپنے فتاویٰ میں لکھا کہ ”مٹی میں ملنے کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ مٹی ہو کر مٹی زمین کے ساتھ خلط ہو جاوے دوسرے مٹی سے متصل ہونا۔ یہاں مراد دوسرے معنی میں الخ

مسلمانو! دیکھو جھوٹ گڑھا اور دانستہ گڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین درست کرنے کو گڑھا۔ کہاں مٹی سے ملنا اور کہاں مٹی میں ملنا۔ ہر اردو خواں جانتا ہے کہ مٹی میں ملنا اسی کو کہتے ہیں کہ اجزاء خاک میں ایسے مل جائیں کہ جدا کرنا دشوار ہو۔ مٹی سے متصل ہو جانے کو ”مٹی میں ملنا“ بتانا کیسی صریح بے ایمانی ہے۔ روپیہ زمین پر رکھئے تو کوئی نہ کہے گا کہ روپیہ مٹی میں مل گیا۔ اور چاندی کا برادہ خاک میں گر کر خلط ہو جائے اسے کہیں گے کہ چاندی مٹی میں مل گئی۔

گنگوہی صاحب جب زمین پر بیٹھے ہوں گے تو اس وقت ان کے نیچے مٹی سے ان کا جسم مع پاجامہ ملا ہوتا تھا مگر کوئی نہ کتنا کہ گنگوہی صاحب مٹی میں مل گئے۔ نہ مرنے کے بعد چند روز تک یہ کہا جاتا۔ ہاں اب کہ ایک جگ بیت گیا اور ان کا بدن گل کر مٹی میں خلط ملط ہو گیا



اب کہا جائے گا کہ گنگوہی صاحب مٹی میں مل گئے۔ پھر مٹی سے ملنا اور مٹی میں ملنا، ان محاوروں میں سے اور میں میں فرق نہ کرنا مطلب کے لئے بھولا بن جانا ہے۔

وہابیہ کے یہاں یہ وقعت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ ان کی شان میں گالی کو کیسے کیسے چھل تیغ سے ٹھیک کیا جاتا ہے اور پھر دعویٰ ایمان باقی ہے سبحان اللہ یہ منہ اور یہ دعویٰ۔

مولائے کریم و ہابیہ کے اغواء و تلبیس سے مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے آمین۔  
بجاء النبی الامی الامین علیہ اکرم الصلوٰۃ و اکمل التسلیم



## فائدہ عظیمہ

### معجزے کی حقیقت

معجزہ ہر لغت میں عاجز کر دینے اور تھکا دینے والی چیز کو کہتے ہیں اور اسلامی اصطلاح میں معجزہ ایسے واقعہ کے ظہور کا نام ہے جو عام اور متعارف و معلوم سلسلہ اسباب کے بغیر عالم وجود میں آجائے۔ اس کو عام بول چال میں خرق عادت بھی کہتے ہیں مگر معجزہ کی یہ تعبیر کہ وہ خارق عادت شے کا نام ہے غلط تعبیر ہے۔ اس لئے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا کرنے والا وہ خدا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے جس وقت چاہے اور جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ عادت اور خلاف عادت اس قادر مطلق کے لئے سب بالکل یکساں ہیں۔ ہاں اس نے اپنی حکمت کاملہ سے تمام کاموں اور تمام چیزوں کو کسی نہ کسی سبب سے متعلق کر دیا ہے انہیں سے بعض اسباب وہ ہیں جن کو ہم نے سمجھ لیا ہے اور جنہیں ہم عادت الہیہ سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ قدرت کے وہ قوانین ہیں جو باہم اسباب و مسببات کے سلسلہ میں جکڑے ہوئے ہیں۔ مثلاً آگ جلاتی ہے اور پانی خنکی پہنچاتا ہے۔ اور بعض اسباب ایسے ہیں جن کا سراغ لگانے سے ہماری عقل قاصر ہے۔ ایسے افعال کی ہم کوئی ظاہری توجیہ نہیں کر سکتے۔ اسے ہم عادت خاص سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور مطلب اس کا یہ ہے کہ اسباب و مسببات میں، علاقہ پیدا کرنے والا دست قدرت نے کسی خاص مقصد کے لئے، سبب اور مسبب کے درمیانی رشتہ کو کسی شے سے الگ کر دیا۔ یا بغیر سبب کے مسبب کو وجود بخش دیا۔ جیسا کہ جلنے کے اسباب موجود ہونے کے باوجود، کسی جسم کا آگ سے نہ جلنا۔ یا دو تین انسانوں کے قابل خوراک سے سو دو سواناؤں کا شکم سیر ہو جانا اور اپنی اصل مقدار کی حد تک پھر باقی بچ جانا۔ یا مثلاً عام قاعدہ بندوں کے مشاہدہ میں یہ آیا ہے کہ ہمارے ان بلاد و امصار میں جون کے مہینے میں تیز گرمی اور دسمبر میں تیز سردی پڑتی ہے۔ اب اگر کسی پیمبر کی دعا سے جون میں برف چھنے اور دسمبر میں لو، چلنے لگتی تو اسے اس پیمبر کا معجزہ کہا جاتا اور دست قدرت کی عادت خاص جس کا ظہور پیمبر

کی تائید غیبی اور نصرت الہی کے اظہار کے لئے کرایا گیا۔

- نیچر پرستوں یا معجزات کے منکروں کی پہلی غلطی یہ ہے کہ وہ بندوں کے مشاہدہ و تجربہ کو، خود قدرت کی طرف سے کسی مستقل قاعدہ یا قانون کا اعلان سمجھ بیٹھے اور دوسری غلطی یہ کہ قاعدوں اور عام قانون کو، قانون ساز قاعدہ گر کی مرضی و ارادہ سے بے نیاز، خود مستقل اور دوامی حقیقتیں سمجھ بیٹھے۔ پیغمبر کے سارے معجزات کی تہ میں، کار فرما، خالق کائنات ہی کا کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے۔

**مسلمانو! ایک ذرا گوش ہوش سے سنو کہ تمہیں تمہارے رب عزوجل نے ایک پاکیزہ یقینی قطعی قانون ایسا بتا دیا ہے جو کہیں نہیں ٹوٹتا اور نہ کبھی اس کے خلاف ہوتا ہے نہ کبھی اس میں تبدیلی ممکن ہے۔ اس قانون نے قدیم فلسفیوں جدید نیچریوں کی ناپاک گڑھنٹ کے قانونوں سے یکسر غنی کر دیا اور دربارہ قدرت الہی عزوجل کہ جن سخت خلفشاروں میں ابلیس لعین نے ان مسخروں کو ڈالا ان سب سے دفعہ نجات دے کر اپنے ظل حمایت میں لے لیا۔ تمام کائنات اول تا آخر ابد الابد تک، اور نہ صرف کائنات بلکہ جملہ ممکنات، اسی ایک سچے حقیقی قانون سے وابستہ ہیں۔ جس پر ایمان لانے والے کو، نہ کسی مشکل کا سامنا، نہ کسی اعجوبہ سے گھبرا کر توجیہ تاویل تحویل تبدیل کا دامن تھا مٹا۔ والحمد للہ رب العلمین**

ہاں جانتے ہو کہ وہ پاک مبارک قانون کیا ہے وہ یہ کہ **يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ اللهُ** اللہ جو چاہے کرتا ہے **إِنَّ اللَّهَ يَخْكُمُ مَا يَرِيدُ** بے شک اللہ جو چاہے حکم فرماتا ہے۔ **وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ**۔ تیرا رب جو چاہے بناتا اور اختیار فرماتا ہے ان کا کچھ اختیار نہیں۔

اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ کیوں کیا۔ اور سب سے سوال ہوگا **وَلَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا**۔ وہ اپنے حکم میں کسی کو دخل نہیں دیتا ان اللہ علی کل شیء قدير بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو وہ نہ کسی قانون کا پابند نہ کسی عادت کا محکوم۔ نہ کوئی ممکن اسے دشوار۔ نہ کسی شے کا اس پر وجوب و لزوم۔ اسی مقدس منور عقیدے کو اہلسنت نے اپنے متون عقائد میں ان دو لفظوں سے ادا کیا ہے کہ **لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ**۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں۔

نہجریوں نے اپنے معبود کے گلے میں، اپنے ساختہ نہجری کی رسی ڈالی اور سخت زنجیروں میں جکڑا کہ دم نہیں لے سکتا تعالیٰ اللہ عما یصفون غرض اسباب و مسببات کے درمیانی رشتہ کے برخلاف، ظہور پذیر ہونے والی باتیں چونکہ عام نگاہوں میں قانون قدرت کے خلاف ہیں اس لئے جب اس طرح کی کوئی شے رونما ہوتی یا اس کے وجود پذیر ہو جائے۔ کی اطلاع دی جاتی ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے قانون یا عادت جاریہ کے خلاف ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ قوانین فطرت کی پہلی قسم یعنی عام عادت کے خلاف ہے ہے مگر عادت خاص کے خلاف نہیں ہوتا اور وہ بھی قانون قدرت ہی کی ایک کڑی ہوتی ہے جو عام حالات سے الگ کسی خاص مقصد کے پورا کرنے کے لئے ظاہر کی جاتی ہے۔ اور اس جگہ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح خدائے تعالیٰ اپنے سچے رسول اور پیغمبر کی صداقت و حقانیت کی تصدیق کرتا اور جھٹلانے والوں کو یہ باور کراتا ہے کہ اگر یہ مدعی نبوت اپنے دعویٰ میں صادق نہ ہوتا تو خدائے قادر کی تائید کبھی اس کے ساتھ نہ ہوتی۔ پس عام قانون قدرت سے جدا رسول و پیغمبر کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ درحقیقت یہ اس کا اپنا فعل نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا فعل ہے جو عادت خاص کی صورت میں نبی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا تاکہ اس کی صداقت کی دلیل بن سکے اور منکرین پر یہ ظاہر ہو جائے کہ دعویٰ نبوت کے ساتھ، نبی کا یہ عمل بلاشبہ خدا کی دی ہوئی ایسی طاقت ہے جس کا مقابلہ انسانی طاقت سے یا لاتر ہے اس لئے یہ جو کچھ کہتا ہے خدا کی جانب سے کہتا ہے تو اس کا اقرار کئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔

اور جب حقیقت یہ ہے کہ معجزہ دراصل براہ راست خدائے تعالیٰ کا فعل ہے جو بغیر اسباب ظاہرہ کے، ایک صادق کی صداقت کے لئے وجود میں آتا ہے تو ہر خاص و عام کے لئے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ انبیاء و رسل سے جو معجزات، ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ثابت ہو چکے ہیں ان پر ایمان لائے اور ان کے وجود اور ان کی حقیقت کا اعتراف کرے۔ اس لئے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار، درحقیقت اسلام سے انکار ہے اور اس کے برخلاف قرآن کریم یا قطعی الدلالت احادیث سے ثابت شدہ معجزوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا یا ان کی ایسی تاویلیں کرنا جن سے ان کی اصل حقیقت ہی

مسح ہو جائے الحاد و زندقہ کے سوا کچھ اور نہیں۔ مولائے کریم ایمان اور ایمان پر استقامت  
میں دوام عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامی الامین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم۔

(۲) نبی سے جو بات خلاف عادت، قبیل نبوت ظاہر ہو اس کو ارباب اس کہتے ہیں اور ولی  
سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں اور عام مومنین سے جو صادر ہو اس سے  
معونت کہتے ہیں۔ اور بے باک فجار یا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدراج  
کہتے ہیں اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو ابانت ہے۔



## خَصَائِصُ مُصْطَفَى ﷺ

یہاں تک جو عقائد بیان ہوئے ان میں تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام شریک ہیں۔ اب بعض وہ امور بیان کئے جاتے ہیں جو

### محمد رسول اللہ الصادق الوعد الامین

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وشرّف وکرم

کے خصائص میں ہیں

اجمالاً اتنا ہمیشہ ہمیش کے لئے نقش کا الججر کی طرح ذہن نشین کر لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل نامقصور، اور خصائص، نامحصور ہیں کہ حقیقت ہر کمال ہر فضل ہر خوبی میں عموماً اطلاقاً انہیں تمام انبیاء و مرسلین و خلق اللہ جمعین پر تفضیل نام و عام و مطلق ہے کہ جو کسی کو ملا وہ سب انہیں سے ملا اور جو انہیں ملا وہ کسی کو نہ ملا

انچہ خوبیاں ہمہ دارند تو تنہا داری

بلکہ انصافاً جو کسی کو ملا آخر کس سے ملا؟ کس کے ہاتھ سے ملا؟ کس کے طفیل میں ملا؟ کس کے ہر توت سے ملا؟ اسی اصل ہر فضل و منبع ہر جود و سیرا ایجاد و تخم و جود سے ملا بلکہ کمال اس لئے کمال ہوا کہ اوہ حضور کی صفت ہے اور حضور کا کمال کسی وصف سے نہیں بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کمال و کامل و مکمل ہو گیا کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم وسلم۔

تو جس طرح مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو احد صمد و وحدہ لا شریک لہ جاننا فرض اول و مدار ایمان ہے یوہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمیع مخلوقات یہاں تک کہ ملائکہ مقربین و انبیاء مرسلین سے افضل جاننا کہ حضور اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل اور اپنے تمام صفات کمالیہ میں تمام عالم سے منفرد و بے مثال ہیں، فرض اجل و جزاء ایقان ہے۔

خلاصہ اعتقاد شان رسالت میں یہ ہے کہ مرتبہ وجود میں صرف اللہ عزوجل ہے  
باقی سب ظلال۔ اور مرتبہ ایجاد میں صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں باقی سب  
عکس و پرتو۔

یک چراغیت درین خانہ کہ از پرتو آں

ہر کجای نگری، انجمنے ساختہ اند

توحیدیں دو ہیں ایک توحید الہی کہ اللہ ایک ہے کسی بات میں اس کا کوئی شریک نہیں  
نہ ذات میں نہ صفات میں۔ نہ افعال میں نہ احکام میں۔ اور دوسری توحید رسول کہ حضور اپنے  
جمع صفات کمالیہ میں بے مثل و متمتع النظیر ہیں۔ محال ہے کہ کوئی حضور کا مثل ہو۔ قصیدہ بردہ  
شریف میں فرمایا۔

مُنْزَلَةٌ عَنْ شَرِيكَ فِي مَحَاسِنِهِ

فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ بَيْنَهُ غَيْرُ مُنْقَسِبٍ

خلاصہ ایمان، باپ رسالت میں یہ ہے جو محقق دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

مگوا اور اخلا، از بہر حفظ شرع و پاس دیں

دگر بہر وصف کش می خواہی، اند مدحش املا کن

اور ان سے پہلے حضرت امام بو میری قدس اللہ سرہ الشریف فرما گئے ہ

دَعَا مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارَىٰ فِي بَيْتِهِمْ

وَاحْكُم بِمَا شِئْتُمْ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمُوا

فَانْسُبْ اِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتُمْ مِنْ شَرَفٍ

وَالنُّسْبُ اِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتُمْ مِنْ عَظَمٍ

فَاِنْ فَضَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ

فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ

اتنی بات تو چھوڑ دے جو نصراہوں نے اپنے نبی کے بارے میں ادعا کیا یعنی خدا اور  
خدا کا بیٹا، اسے چھوڑ کر باقی حضور کی مدح میں جو کچھ تیرے جم میں آئے کہہ اور مضبوطی سے حکم

لگا۔ تو ان کی ذات پاک کی طرف جتنا شرف چاہے منسوب کر اور ان کے مرتبہ کریمہ کی طرف جتنی عظمت چاہے ثابت کر۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کی کوئی انتہا ہی نہیں کہ بیان کرنے والا کیسا ہی گویا ہوا سے بیان کر سکے۔

بفرض محال اگر عالم ناسوت میں کوئی صورت الوہیت فرض کی جاتی تو وہ نہ ہوتی مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

الوہیت ہی وہ کمال ہے جو زیر قدرت ربانی نہیں۔ باقی تمام کمالات تحت قدرت الہی ہیں۔ تو الوہیت کے نیچے جتنے فضائل، جس قدر کمالات، جتنی نعمتیں، جس قدر برکات ہیں، مولیٰ عزوجل نے سب اعلیٰ وجہ کمال پر حضور کو عطا فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ع ہر نعمتیکہ داشت خدا شد برو تمام

حضور پر نور سید عالم، عالم اعلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا افضل المرسلین و سید الاوائلین والآخرین ہونا، قطعی ایمانی یقینی اذعانی اجماعی مسئلہ ہے جس میں خلافت نہ کرے گا مگر گمراہ بددین۔ بندہ شیاطین۔ والعیاذ باللہ رب العلمین کلمہ پڑھ کر اس میں شک عجیب ہے۔ آج نہ کھلا تو کل قریب ہے۔ جس دن تمام مخلوق کو جمع فرمائیں گے۔ سارے مجمع کا دولہا، حضور کو بنا لیں گے۔ انبیائے جلیل تا حضرت خلیل، سب حضور ہی کے نیاز مند ہوں گے۔ موافق و مخالف کی حاجتوں کے ہاتھ انہیں کی جانب بلند ہوں گے انہیں کا کلمہ پڑھا جاتا ہوگا۔ انہیں کی حمد کا ڈنکا بجتا ہوگا۔ جو آج بیاں ہے کل عیاں ہے۔ اس دن جو مومن و مقربین ہیں، نور بارہ عشرتوں سے شادیاں رچائیں گے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا — اور جو مبطل و منکرین ہیں دلفکار حسرتوں سے ہاتھ چبائیں گے۔ يَا بَيْتَنَا اطْمَنَا اللّٰهُ وَاَطْمَنَا الرَّسُوْلَ .

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُهْتَبِيْنَ وَلَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ .

ایکہ در ذات خویش منفردی

بصفات کمال مستحدی

بس فروماندہ ام بچاہ بدی

یا حبیب الاخذ بیدی

ما بعجزی سواک مستندی



صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأَقْبَى وَآلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَواتٌ  
سَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ

## اسمِ پاکِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کسی مُسْمًی کے لئے نام کی ضرورت، عموماً اس لئے پیش آتی ہے کہ دوسری چیزوں سے اسے امتیاز حاصل رہے۔ ورنہ یہ ضروری نہیں کہ اس کے نام اور اوصاف میں باہمی کوئی نہ کوئی مناسبت ملحوظ ہی رہے۔

ع برعکس نہند، نام زنگی، کافور

ہاں شاذ و نادر اتفاقی حیثیت سے ایسا تناسب مل بھی جاتا ہے اور ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کسی انسان کا وہ نام تجویز کیا گیا ہو جو اپنے مُسْمًی کے صفات و خواص و حالات اور اس کی تمام زندگی کا آئینہ ہو اور اس کے شعبہ ہائے حیات کی تفصیل ہو۔ انبیائے کرام علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے اسمائے گرامی ہی کو لیجئے۔ ان میں سے کسی کا نام بھی ایسا نہیں پایا جاتا کہ وہ نام ہی اپنے مُسْمًی کے کمالات نبوت کا شاہد عدل ہو۔ مثلاً۔

آدم ۱۔ کے معنی ہیں گندم گوں۔ ابوالبشر کا یہ نام ان کے جسمانی رنگ کو ظاہر کرتا ہے

لوح ۲۔ کے معنی ہیں آرام۔ باپ نے ان کو آرام و راحت کا موجب قرار دیا۔

اسحق ۳۔ کے معنی ضاحک یعنی ہنسنے والا ہے۔ ہشاش و بشاش چہرہ والے تھے۔

یعقوب ۴۔ پیچھے آنے والا۔ یہ اپنے بھائی عیسو کے ساتھ توام پیدا ہوئے تھے۔

موسیٰ ۵۔ پانی سے نکالا ہوا۔ جب ان کا صندوق پانی سے نکالا گیا تب یہ نام رکھا گیا۔

یحییٰ ۶۔ عمر دراز، بوڑھے ماں باپ کی بہترین آرزوؤں کا ترجمان ہے۔

عیسیٰ ۷۔ سرخ رنگ۔ چہرہ گلگون کی وجہ سے یہ نام تجویز ہوا۔

مذکورہ بالا اسماء کو دیکھئے اور ان کے معانی پر غور کیجئے کہ وہ کسی طرح ان حضرات علیہ

کی عظمت روحانی اور شان نبوت کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے۔

مگر اسمِ پاکِ محمد کی شان خاص ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام نامی آپ کے دادا عبدالمطلب نے رکھا گیا۔  
 رَجَاءً اَنَّ يُحْمَدَ اس امید و توقع پر کہ مستقبل میں یہ مولود سعید مجموعہ محامد اور مرجع خلائق  
 بنے۔ یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ نام عام طور سے عرب میں شائع نہ تھا بلکہ اس کا  
 رواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بہت کم تھا۔ بعض مورخین نے کل مات آدمی  
 اس نام کے گنائے ہیں۔ اس حالت کو تسلیم کرتے ہوئے دیکھا جائے تو اتفاقی طور سے۔  
 ”نام مبارک“ کا حضرت عبدالمطلب کے ذہن میں آنا عین منشا خداوندی کے مطابق ہوتا ہے  
 کہ جب اس نام کا محل کامل، دنیا کو اپنے وجود گرامی سے مشرف فرما چکا تو پھر اسم بھی فطری  
 طور سے نام رکھنے والے کے ذہن میں وارد ہوا۔ اور اس خاص نام کے رکھنے کے متعلق کہنا  
 چاہیے کہ انہیں ایک غیبی تحریک ہوئی۔ اب غور کیا جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
 کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ کا خلاصہ، اس کے سوا کچھ اور انہیں کہ علم و عمل، ظاہر و باطن،  
 خلق و خلق، ہر حیثیت سے آپ مجموعہ حسنات ہیں۔

ع

اسے کہ مجموعہ خوبی، بچہ نامت خوانم

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد بھی ہے اور احمد بھی۔ مُحَمَّدٌ کے  
 صیغہ سے مبالغہ کے لئے ہے یعنی وہ جس کی بار بار مدح و تعریف کی جائے جس کی تعریف کا  
 سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، تعریف کے بعد تعریف، اور توصیف کے بعد توصیف ہوتی رہے اور  
 بلا شک و شبہ ہم کہتے ہیں کہ زمانہ جوں جوں بڑھتا جاتا ہے اور انسان اپنی سعی و کوشش کے  
 مطابق جس درجہ ترقی کرتا جاتا ہے، محض اعتقاداً اور عقیدہً نہیں بلکہ واقعہً حضور اقدس  
 سرور عالم، عالم اعلم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے پردہ اٹھتا جاتا ہے اور کائنات انسانی  
 روز بروز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے تا آنکہ تمام دنیا میں ایک دین ہو  
 گا دین اسلام اور یہ دنیا کا صرف واحد معجزہ ہے کہ نام نامی اسم گرامی چودہ سو سال پہلے  
 سے اس آنے والی حالت کا پتہ دے رہا ہے۔ مستقبل میں دنیا کی عمر جس قدر دلازہ ہوگی اسے  
 کمالات نبوت محمدیہ کا اعتراف ناگزیر ہوگا۔ اس حیثیت سے نام مبارک کا ترجمہ یہ ہوا کہ وہ  
 ذات جس کے محامد و محسن اور اوصاف جلیلہ و صفات جمیلہ کا سلسلہ روز افزوں ہو۔

ہاں ہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بیاں بھی محمد ہیں ملائکہ مقررین میں بھی محمد ہیں۔ انبیاء و مرسلین میں بھی محمد ہیں۔ آسمان والوں میں بھی محمد ہیں۔ زمین والوں میں بھی محمد ہیں۔

ہاں حضور ہی مقام محمود والے ہیں۔ اور لواء الحمد حضور ہی کے علم شاہی کا نام ہے اور حضور کی امت کا نام بھی انہیں مناسبات سے خادون ہے۔  
تو محمد وہ ہیں جن کی مدح و نعت، جملہ اہل الارض و السماء، تمام ساکنان زمین و آسمان نے سب سے بڑھ کر کی ہو اور حمد وہ ہیں۔ جنہوں نے رب السموات و الارض کی حمد و ثنا جملہ اہل السموات و الارض سے بڑھ کر کی ہو۔

دَشَقَّ لَهُ مِنْ إِسْمِهِ لِيَجْلَهُ  
فَذَا الْعَرْشِ مُحَمَّدٌ وَ هَذَا مُحَمَّدٌ

یہ وہ خصوصیت ہے جس سے دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اسماء مبارکہ ساکت و خاموش ہیں۔

پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے نبی کریم حبیب رؤف و رحیم کا ایسا مبارک نام رکھا اور پاکیزہ ہے وہ نبی جسے اس کے معبود نے ایسی فضیلتوں سے آراستہ کیا۔

(منتخب و ماخوذ)

اب ذرا چشم حق میں سے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مراعات الہیہ کے الطاف خفیہ دیکھئے۔

(۱) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک ہے عبداللہ کہ افضل اسمائے امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "تمہارے ناموں سے سب سے زیادہ پیارے نام اللہ تعالیٰ کو عبداللہ و عبدالرحمن ہیں۔"

(۲) والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ام مبارک آمنہ ہے کہ امن و امان سے مشتق اور ایمان سے ہم اشتقاق ہے۔

(۳) جد امجد حضرت عبدالمطلب شہینۃ الحمد کہ اس پاک ستودہ مصدر سے، الطیب و الطہر مشتق

- محمد و احمد و حامد و محمود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا اشارہ تھا۔
- (۴) جدہ ماجدہ فاطمہ بنت عمرو بن عائذ۔ اس نام پاک کی خوبی اظہر من الشمس ہے۔
- (۵) حضور کے جد مادری یعنی نانا وہب۔ جس کے معنی عطاء و بخشش۔
- (۶) ان کا قبیلہ بنی زہرا۔ جس کا حاصل چمک و تابش۔
- (۷) جدہ مادری یعنی نانی صاحبہ برہ یعنی نکو کار۔ کما ذکر ابن ہشام فی سیرتہ۔
- بھلایہ تو خاص اصول ہیں۔ دودھ پلانے والیوں کو دیکھئے :-
- (۱) پہلی مرضعہ ثویبہ۔ کہ ثواب سے ہم اشتقاق اور اس فضل الہی سے پوری بہرہ ور۔
- (۲) حضرت حلیمہ بنت عبداللہ بن حارث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبدالقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تجھ میں دو خصلتیں ہیں خدا و رسول کو پیاری۔ الْجِلْمُ وَالْإِنَارَةُ درنگ و بردباری (اور علم سے حلیمہ مشتق)
- (۳) ان کا قبیلہ بنی سعد۔ کہ سعادت و نیک طالعی ہے۔ (یہ حضرت حلیمہ) شرف اسلام و صحابیت سے مشرف ہوئیں۔
- (۴) ان (حضرت حلیمہ) کے شوہر جن کا شیر، حضور نے نوش فرمایا۔ حارث سعدی یہ بھی شرف اسلام و صحبت سے مشرف ہوئے۔ حدیث میں ہے، سب ناموں میں زیادہ سچے نام حارث و ہمام ہیں۔
- (۵) حضور کے رضاعی بھائی جو پستاناں شریک تھے جن کے لئے حضور سید العادلین صلی اللہ علیہ وسلم پستان چپ چھوڑ دیتے۔ عبداللہ سعدی۔ یہ بھی مشرف باسلام و صحبت ہوئے۔
- (۶) حضور کی رضاعی بڑی بہن کہ حضور کو گود میں کھلاتیں سینے پر لٹا کر، دعائیہ اشعار عرض کرتیں سلاتیں اسی لئے وہ بھی ماں کھلاتیں سیما سعدیہ یعنی نشانی والی علامت والی، جو دور سے چلے۔ یہ بھی مشرف باسلام و صحابیت ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔
- (۷) حضرت حلیمہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لئے راہ میں جاتی تھیں۔ تین نوجوان کو آری لڑکیوں نے، وہ خدا بھاتی صورت دیکھی۔ جوش محبت سے اپنی پستانیں ذہن اقدس میں رکھیں۔ تینوں کے دودھ اتر آیا۔ تینوں پاکیزہ بیبیوں کا نام عاتکہ تھا۔ عاتکہ کے معنی زرنہ

شرفیہ رضیہ کریمہ سراپا عطر آلودہ۔

(۱) تینوں نبی سلیم سے تھیں کہ سلامت سے مشتق اور اسلام سے ہم اشتقاق ہے۔ امام ابو بکر ابن العربی فرماتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بیبیوں نے دودھ پلایا سب اسلام لائیں۔ بھلا یہ تو دودھ پلانا تھا کہ اس میں بھی جزئیات ہے اور دیکھئے۔

(۲) مرضعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک برکت اور امین کنیت۔ کہ یہ بھی یمن و برکت و راستی و قوت۔ یہ اجلہ صحابیات سے ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے "تم میری ماں کے بعد میری ماں ہو۔ راہ ہجرت میں انہیں پیاس لگی۔ آسمان سے نورانی رسی میں ایک ڈول اترا۔ پی کر سیراب ہوئیں۔ پھر کبھی پیاس نہ معلوم ہوئی سخت گرمی میں روزے رکھتیں اور پیاس نہ ہوتی۔

(۳) پیدا ہوتے وقت جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پر لیا ان کا نام پاک تو دیکھئے۔ شفا۔ یہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ و صحابیہ جلیلہ ہیں۔

(۴) اور ایک بی بی کہ وقت ولادت اقدس حاضر تھیں۔ فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ یہ بھی صحابیہ ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

اے چشم انصاف! کیا ہر تعلق، ہر علاقہ میں ان پاک مبارک ناموں کا اجتماع محض بطور جزاف (و اتفاقی) تھا۔ کلا واللہ۔ بلکہ عنایت ازلی ہے جان جان کر یہ نام رکھے۔ دیکھ دیکھ کر یہ لوگ چنے۔ پھر محل غور ہے جو اس نور پاک کو، برے نام والوں سے بچائے وہ اسے (اس کے نور پاک کو) برے کام والوں میں رکھے گا۔ اور برا کام بھی کون سا۔ معاذ اللہ شرک و کفر۔ حاشا تم حاشا۔ اللہ دائیاں مسلمان، کھلائیاں مسلمان۔ مگر خاص جنے مبارک پیٹوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پھیلائے، جن طیب مطیب خونوں سے اس نورانی جسم میں ٹکڑے آئے وہ معاذ اللہ چنیں و چنناں۔ حاشا اللہ کیونکر گوارا ہو۔

ع مابندہ عشقیم دگر بیچ ندائیم

توضوہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابوین کریمین والد ماجد و

والدہ ماجدہ) اور آبائے کرام طاہرین اور اہمات کرام طاہرات۔ سب اہل ایمان و توحید ہوں۔ یہی اعظم علمائے نامدار کا مذہب مختار ہے۔ (شمول الاسلام ملخصاً)

## محمد و احمد ناموں کے فضائل میں چند احادیث

- (۱) جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت، اور میرے نام پاک سے تبرک کے لئے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا لڑکا دونوں بہشت میں جائیں گے۔
- (۲) رب عزوجل نے مجھ سے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، جس کا نام تمہارے نام پر ہوگا اسے دوزخ کا عذاب نہ دوں گا۔
- (۳) روز قیامت دو شخص حضرت عزت کے حضور کھڑے کئے جائیں گے۔ حکم ہوگا۔ انہیں جنت میں لے جاؤ۔ عرض کریں گے الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے۔ ہم نے تو کوئی کام جنت کا نہ کیا۔ رب عزوجل فرمائے گا جنت میں جاؤ کہ میں نے حلف فرمایا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا یعنی جبکہ مومن ہو اور مومن عرف قرآن و حدیث و صحابہ میں اسی کو کہتے ہیں جو سنی صحیح العقیدہ ہو۔ ورنہ بد مذہبوں کے لئے تو حدیثیں یہ ارشاد فرمائی ہیں کہ وہ جہنم کے کتے ہیں ان کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ تو محمد بن عبد الوہاب نجدی وغیرہ گمراہوں کے لئے ان حدیثوں میں اصلاً بشارت نہیں)
- (۴) جس دسترخوان پر بیٹھ کر لوگ کھانا کھائیں اور ان میں کوئی محمد نام کا ہو وہ لوگ ہر روز دو بار، مقدس کئے جائیں۔ حاصل یہ کہ جس گھر میں ان پاک ناموں کا کوئی شخص ہو، دن میں دو بار اس مکان میں رحمت الہی کا نزول ہو۔
- (۵) جب کوئی قوم مشورے کے لئے جمع ہو اور ان میں کوئی شخص محمد نام ہو اور اسے اپنے مشورہ میں شریک نہ کریں ان کے لئے اس مشورہ میں برکت نہ رکھی جائے۔
- (۶) جس کے تین بیٹے ہوں اور وہ ان میں کسی کا نام محمد نہ رکھے ضرور جاہل ہے۔
- (۷) جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لئے جگہ کشادہ کرو اور اسے برائی کی طرف نسبت نہ کرو اس پر برائی کی دعا نہ کرو۔ (احکام شریعت ۷)

## خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم

عقیدہ ۵ :- اور انبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی، نبی جس بستی کی طرف مبعوث ہوتا اس کے آگے تجاوز نہ کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق، انسان و جن بلکہ ملائکہ، حیوانات جمادات، سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ جس طرح انسان کے ذمہ حضور کی اطاعت فرض ہے یوں ہر مخلوق پر حضور کی فرماں برداری ضروری۔

تشریح :- علماء کرام فرماتے ہیں، رسالت والا کا تمام جن و انس کو شامل ہونا اجماعی ہے اور محققین کے نزدیک ملائکہ کو بھی شامل۔ بلکہ تحقیق یہ ہے کہ حجر و شجر، ارض و سما زمین و آسمان، جبال و بحار، پہاڑ اور سمند بہ تمام ماسوی اللہ، آپ کی رسالت کے احاطہ عامہ و دائرہ تامہ میں داخل ہے مسلم شریف کی حدیث شریف کہ اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً (میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا) میں لفظ خلق اور وہ بھی کلمہ کافہ سے مؤکد اور خود قرآن عظیم میں لفظ عالمین اس مطلب پر بہتر دلیل ہے اور طبرانی میں مروی ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "کوئی چیز نہیں جو مجھے رسول اللہ نہ جانتی ہو مگر بے ایمان جن و آدمی" غرض انبیائے سابقین علیہم السلام ایک ایک شہر کے ناظم تھے اور حضور پر نور سید المرسلین صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین سلطان ہفت کشور بلکہ بادشاہ زمین و آسمان ہیں۔ ان کی رسالت نے انس و جن و شرق و غرب کو گھیر لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل الاصول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے رسول ہیں۔ اور سب انبیاء کے نبی۔ امتیوں کو جو نسبت انبیاء و رسل سے ہے وہ نسبت انبیاء و رسل کو اس سید الکل سے ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں سب حضور کے امتی۔ امتیوں پر فرض کرتے ہیں رسولوں پر ایمان لاؤ اور رسولوں سے عہد و پیمانہ لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گرویدگی فرماؤ۔ غرض صاف صاف جتا رہے ہیں کہ مقصود اصل ایک وہی ہیں باقی تم سب تابع و طفیل۔

مقصود ذات اوست دگر جملگی طفیل

عقیدہ ۶ :- حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ و انس و جن و حور و غلمان و

حیوانات و جمادات، غرض تمام عالم کے لئے رحمت ہیں اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان۔  
 تشریح: رحمت کے معنی ہیں۔ پیار۔ ترس۔ ہمدردی۔ غم گساری۔ محبت اور خبر گیری  
 کے۔ اور لفظ عالم کا استعمال ساری مخلوق کے لئے ہوتا ہے۔ عالم دو ہیں۔ عالم امر و عالم خلق  
 اللہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ عالم امر وہ جو صرف امر کن سے بنا۔ اس کے  
 لئے کوئی مادہ نہیں جیسے ملائکہ و ارواح و عرش و لوح و قلم اور جنت و نار وغیرہ۔ اور عالم خلق  
 وہ چیزیں جو مادہ سے پیدا ہوتی ہیں جیسے جمادات نباتات حیوانات۔ زمین و آسمان وغیرہ کہ  
 نطفہ و تخم و عناصر سے بنے۔ غرض لفظ عالم کا استعمال خدا کی ساری مخلوق کے لئے ہوتا ہے  
 یعنی وہ ہر ایک شے، جس میں نمودار ہونے، ظہور پکڑنے اپنی ہستی کو نمایاں کرنے اور اپنے  
 وجود کی نمود رکھنے کی قابلیت ہے وہ لفظ عالم سے موسوم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔  
 عالمین صیغہ جمع ہے اور عالم امر و عالم خلق دونوں پر اس کا احاطہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے خود کو رب العالمین فرمایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین  
 جس کا صاف صریح مطلب یہ ہے کہ جس طرح پروردگار عالم کی الوہیت عام ہے اور اس کی  
 ربوبیت سے کوئی ایک چیز بھی لاپرواہ نہیں رہ سکتی اسی طرح کوئی چیز بھی حضور کی رحمت سے  
 خود کو مستغنی دے بے نیاز ثابت نہیں کر سکتی۔

شاید کسی بے فکرے کو یہ کہہ دینا آسان ہو کہ اسے سورج کی روشنی اور گرمی کی احتیاج  
 نہیں لیکن صاحب بصیرت اور سلیم الفطرت کے لئے یہ کہنا دشوار اور سخت دشوار ہے کہ  
 اسے فیضان رسالت محمدی اور تعلیمات محمدیہ کی مطلقاً حاجت نہیں۔

دنیا اور دنیا کی قومیں غور کریں کہ نبوت محمدیہ کے بعد کیونکر انہوں نے حضور کے  
 تعلیمات کا اقتباس بالواسطہ یا بلا واسطہ کیا ہے اور کیا کیا بھیس بدل کر اس حرم حیات  
 سے خوشہ چینی کی ہے۔

اب اندازہ کرو اس مقدس ہستی کا جس کا سب سے پیار ہے۔ جو سب پر ترس کھاتا  
 ہے۔ جو ہر ایک کا ہمدرد و غمگسار ہے۔ جس کی محبت عام ہے اور جس کی رحمتوں کے فیضان  
 سے تمام عالم سیراب ہے۔



علمائے کرام فرماتے ہیں کہ ملک خواہ انس خواہ جن، حتیٰ کہ تمام جمادات تمام نباتات تمام حیوانات حتیٰ کہ انبیاء و رسل کو جو نعمت ملی، حضور ہی کے کرم، حضور ہی کے طفیل، حضور ہی کے واسطے سے ملی۔ جس کو جو ملا یہیں سے ملا۔ جس نے جو پایا یہیں سے پایا۔ تمام ماسوی اللہ میں جس کو جو نعمت ملی یا ملتی ہے یا ملے گی انہیں کے ہاتھوں بیٹی، بیٹی ہے اور بٹے گی۔ یہی اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ یہی ولی نعمت عالم ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ مُعْطِيٌّ (دینے والا تو اللہ ہے اور تقسیم کرنے والا میں ہوں) غرض خدائی نعمتوں کی تقسیم انہیں کے مبارک ہاتھوں سے ہوتی ہے اور بارگاہ الہی سے جسے جو ملتا ہے انہیں کے واسطے سے ملتا ہے۔

یہی معنی ہیں رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ اور رحمت عالم کے۔

**تنبیہ ضروری:** مولوی رشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا کہ ”لفظ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ“ مخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں ”اس کا جواب دیا گیا کہ ”لفظ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ دیگر اولیاء و انبیاء اور علمائے ربانیین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں اعلیٰ ہیں لہذا اگر دوسرے پر اس لفظ کو بتاویل بول دیوے تو جائز ہے ”فقط“

مسلمانو! مسلمانوں کے نزدیک رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ہونا قطعاً خاص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے جس میں اور انبیاء بھی شریک نہیں۔ لیکن وہابیہ دیوبندیہ میں اس کی یہ بے قدری ہے کہ دیوبند کا ہر ملّا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شریک ہے۔

مسلمانو! علم حقائق تو اہل حقائق کو دیتے ہیں اور ان کے طفیل میں ان کے غلام اس سے حصہ لیتے ہیں۔ اس کا بیان ہو تو سب پر عیاں ہو کہ اپنے ہر ملا کو اس عظیم خلاصہ جلیلہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وسلم میں شریک کرنا وہی تفویت الایمان والی بات ہے کہ بادشاہ کا تاج ایک چمار کے سر پر۔ مگر باطن کی پھوٹ جانے والے، کیا اول دن سے ظاہر کی بھی پھوٹی ہی لائے تھے۔ انہیں دن کی روشنی میں اتنا بھی نہ سوچا کہ یہ رحمت بذریعہ رسالت ہے کہ دَعَا رَسُلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ۔ ہم نے تمہاری رسالت نہ کی مگر سارے

جہاں کے لئے رحمت تو رحمتہ للعالمین نہ ہوگا مگر وہ کہ رسول الی العالمین ہو یعنی تمام عالمین کی طرف مبعوث کہ تمام جہاں کو اس کی رسالت عام ہو۔ اور وہ نہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اور انبیاء بھی اس وصف کریم میں حضور کے شریک نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ ابھی اوپر اس کا مجمل بیان گذرا۔ ائمہ کرام نے اس وصف کریم سے حضور کی تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین پر تفصیل مطلق اور آپ کی افضلیت مطلقہ ثابت فرمائی ہے۔ مگر وہ بابیہ کے یہاں تو حضور میں رسالت سے اوپر کچھ نہیں وہ کیونکر اسے حضور کی صفت خاصہ مانیں۔ اور پھر فقط رسولوں ہی کے لئے تعیم و عموم نہیں بلکہ ہر بلا شریک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرا دیا یہ شان اقدس میں کتنا بھاری شرک ہے۔ غرض انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل مٹانے سے کام ہے خواہ یوں کہ سرسے انکار کر دیں یا یوں کہ ان کو گلی گلی متبذل و ذلیل کر کے فضل نہ رکھیں اور پھر اسلام کا دعویٰ باقی۔ وَاللّٰهُ عَدِیْمٌ بِالظّٰلِمِیْنَ لکھنے مسلمان یاد رکھیں کہ محال ہے کہ کوئی حضور کا مثل ہو جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور کا مثل بتائے مگر اہل کفر۔ (الاستمداد)

عقیدہ: حضور خاتم النبیین ہیں یعنی اللہ عزوجل نے سلسلہ نبوت حضور پر ختم کر دیا کہ حضور کے زمانہ میں یا بعد، کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جلنے وہ کافر مرتد خارج از اسلام اور اسلامی برادری سے قطعاً باہر ہے۔

تشریح: ہر مسلمان جانتا اور مانتا ہے کہ آیت کریمہ مَا كَانَ مُحَمَّدًا ابًا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَسُوْلًا لِّلّٰهِ وَخَاتَمًا لِّلنَّبِیِّیْنَ میں خاتم النبیین کے صرف اور صرف یہی معنی ہیں جو اس کے ظاہر سے سمجھ میں آرہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پھلے نبی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود باوجود پر نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس معنی میں نہ کوئی تاویل ہے نہ تخصیص یہی معنی تمام صحابہ کرام اور امت مرحومہ کے تمام مفسرین اسلام و محدثین اعلام اور متکلمین عظام و فقہائے کرام غرض تمام امت نے سمجھے اور آج تک

یہی معنی بتائے سمجھائے مانے جارہے ہیں۔ اور یہی معنی خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متواتر حدیثوں میں بتائے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پچھلے اور آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی تو قطعاً یقیناً یہی معنی آیہ کریمہ میں اس لفظ سے مراد ہیں۔ اس میں کوئی تاویل کوئی تخصیص نہیں۔ حق تعالیٰ کی جانب سے خاتم النبیین کا جو منصب جلیل ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے عقل و نقل دونوں اعتبار سے ایک اور صرف ایک ہی معنی رکھتا ہے اور وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر انبیاء و رسل ہیں اور نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ پر پہنچ کر ختم ہو گیا۔ اب نہ کسی جدید پیغام کی ضرورت ہے نہ کسی نئے پیغمبر کی۔ رہتی دنیا تک یہی کامل پیغمبر انسانی دنیا کے لئے کافی ہے اور بس۔ اس کے خلاف جو کچھ ہے باطل ہے۔

لیکن یا اللعجب! دیوبند کے ایک بھاری بھر کم ملاً۔ قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں ختم نبوت کی بحث کے دوران، اس لفظ خاتم النبیین کے معنی ”سب میں پچھلے نبی“ ہونے کو بتایا ”یہ جاہلوں کا خیال ہے اہل فہم کا نہیں۔ اسے فضیلت میں کچھ دخل نہیں ایسے ویسوں کے اوصاف کی طرح ہے۔ یہ معنی ہوں تو اللہ فضول گو ہو۔ قرآن بے ربط ہو“ وغیرہ وغیرہ تو دیوبندی ملاً قاسم نانوتوی کے نزدیک تمام امت و صحابہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جاہل و ناقہم ہوئے اور اللہ فضول گو اور قرآن بے ربط۔ یہ کفر و کفر صدہا کفر ہے۔ نانوتوی صاحب نے اسے عوام کا خیال بتایا یعنی یہ معنی جاہلوں کا خیال ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آج تک کے تمام مسلمانوں کو جاہل ٹھہرایا۔ یہ کفر ہے یا نہیں۔ بلکہ یہ جاہل اور ناقہم وغیرہ کے بھاری خطاب صرف صحابہ کرام و جمیع امت ہی کو نہیں خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ہوئے کہ حضور نے بھی صدہا احادیث میں یہی معنی سمجھے ہی بتائے یہ کفر ہوا یا نہیں۔ کہو ہے اور ضرور ہے بلکہ کفر و کفر صدہا کفر ہے۔ پھر بھی مشاہیر دیوبند اس باطل و مردود اور تفسیر بالرائے کی تاویلیں کرتے اور مسلمانوں کو بہکانے سے باز نہیں آتے اور نانوتوی دھرم کو صحیح ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگانے میں مصروف رہتے ہیں توبہ کی توفیق ملے تو کیونکر۔ آنکھوں پر توبہ بے جا طرفداری کی گھٹا ٹوپ ہے۔ والعیاذ باللہ۔

حقیقہاً: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ عزوجل نے محبوبیت کبریٰ کے مرتبہ جلیلہ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق جو برائے رضائے مولیٰ ہے اور اللہ عزوجل طالب رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم

خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

تشریح: قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (اور بے

شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے) مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کریمہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ کو دنیا میں عطا فرمائیں۔ کمال نفس اور علوم اولین و آخرین اور ظہور امر اور اعلائے دین اور وہ فتوحات جو عہد مبارک میں ہوئیں اور عہد صحابی میں ہوئیں اور تاقیامت مسلمانوں کو ہوتی رہیں گی۔ اور دعوت کا عام ہونا اور اسلام کا مشارق و مغارب میں پھیل جانا اور آپ کی امت کا بہترین اُمم ہونا۔ اور آپ کے وہ کرامات و کمالات جن کا اللہ ہی عالم ہے۔ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دنیا میں دیا اور آخرت میں جو کچھ دے گا اس کی عظمت اور عزت و تکریم کا کما حقہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ شفاعت عامہ و خاصہ اور مقام محمود وغیرہ جیسی جلیل نعمتیں بھی اسی میں داخل ہیں۔ فصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وصحبہ وبارک و سلم۔

مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں دست مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو کر دعا مانگی اور عرض کیا اللَّهُمَّ اُمَّتِي اُمَّتِي اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں جا کر دریافت کرو ”روئے کا کیا سبب ہے؟“ باوجودیکہ اللہ تعالیٰ دانا ہے۔ جبریل امین نے حسب حکم حاضر ہو کر دریافت کیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار فرمایا۔ جبریل امین نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں باوجودیکہ وہ خوب جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے حبیب (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عنقریب راضی کریں گے اور آپ کو گراں خاطر نہ ہونے دیں گے۔ حدیث شریفین میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ ولسون یعطیک ربک فخرصتی نازل ہوئی تو اس ارشاد الہی پر اس نازنین حق، محبوب اجل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نازاٹھانے والے رب بے نیاز کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایسا ہے تو جب تک ایک امتی بھی دوزخ میں رہے میں راضی نہ ہوں گا۔

آیت کریمہ صاف دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہوں اور احادیث شفاعت سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہگار ان امت بخش دیئے جائیں۔ تو آیات و احادیث سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقبول ہے اور حسب مرضی مبارک گناہگار ان امت بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ کیا رتبہ علیا ہے کہ جس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے تمام مقربین تکلیفیں برداشت کرتے اور محنتیں اٹھاتے ہیں وہ اس حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لئے عطلے عام کرتا ہے۔ اور عام اعلان فرماتا ہے کَلِمًا يَطْلُبُونَ رِضَايَ وَاَنَا أَطْلُبُ بِرِضَاكَ يَا مُحَمَّدًا اس کا اندازہ اس امر سے بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح جذبہ دینی کے ماتحت اس کا یقین تھا کہ اب جبکہ امامت بنی اسرائیل سے چھن چکی ہے تو ان کا قبلہ بھی قبلہ امت نہیں رہ سکتا۔ تحویل قبلہ کا حکم اب آکر رہے گا۔ نیز کعبہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ تھا اور اہل عرب کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا ایک موثر ذریعہ تھا اس لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اس لئے چشم امید، در رحمت کی طرف اٹھتی رہتی تھی اور فرشتہ وحی کے انتظار میں آپ بار بار آسمان کی طرف نظر فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ادا تہی پیاری اور ان کی خوشنودی خاطر اس درجہ مطلوب تھی کہ آیت کریمہ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ اِذَا تُدْعَىٰ اِلَيْهِمْ قَالْ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْوَدَانَ حَيْثُ تَكُونُونَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ تمہیں پسند وہی ہمیں پسندہ اور ہم اسی کو آپ کا قبلہ قرار دے دیں گے جسے آپ خود قبلہ

بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں براہ راست یہ ارشاد فرمانے کی بجائے کہ ہم کعبہ کی طرف آپ کو پھیر دیں گے ارشاد یہ ہوا کہ ہم اسے آپ کا قبلہ قرار دیں گے جسے آپ خود قبلہ بنانا چاہتے ہیں۔ آیت کریمہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب کی بلندی و رفعت اور درجہ فنا و قبولیت کا کامل ترین ہونا ظاہر ہے۔ کیا ٹھکانا ہے اس بلندی و مراتب اور درجات کی رفعت کا کہ ان کا مولیٰ خود ان کی رضا کا طالب ہے اس سے آگے کوئی مرتبہ، تصور میں بھی نہیں آسکتا۔ اور یہی مقام ہے محبوبیت کبریٰ کا۔ پھر ”قَدْ نَدَىٰ“ بصیغہ مضارع فرمایا جو حال و استقبال کو شامل ہے۔ صیغہ ماضی نہ فرمایا جیسا کہ ظاہر حال کا تقاضا ہے اس میں اس امر کی جانب اشارہ ہے اور بتانا یہ مقصود ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخ نور بار اور چہرہ پر انوار کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ایسی چیز نہیں جسے قصہ پارینہ یا ماضی کا واقعہ بنا کر بیان کیا جائے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ چشم قدرت اس منظر نور گستر کا اب بھی یوں ہی مشاہدہ فرما رہی ہے۔ فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں تیرا بار بار آسمان کی طرف اپنے رخ جہاں افروز کا اٹھانا، سبحان اللہ کیا شان محبوبیت ہے۔

اللهم صل علی سیدنا محمد قد رجاہم و جلالہم و نورہم و جمالہم

و جودہم و نوالہم و کرہم و افضالہم و آلہم و بارک و سلم

عقیدہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصالوں سے اسراء و معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش تک، بلکہ بالا عرش، رات کے ایک خفیف حصہ میں، مع جسم تشریف لے گئے اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو بھی نہ حاصل ہوا اور نہ ہو۔ جمال الہی بچشم سر دیکھا اور کلام الہی بلا واسطہ سنا۔ اور تمام ملکوت السموات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا۔

تشریح: اسراء کے معنی شب میں لے جانے کے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بے نظیر شرف و مجد اور حیرت زا واقعہ جس میں خدائے برتر نے، جو ہر کمی و نقص سے پاک اور ہر عجز سے منترہ اور ہر قید و حد بندی سے بالاتر ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی مسجد سے، قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی

مسجد تک، جو شرمکہ سے بہت دور ہے اور پھر وہاں سے ملاز اعلیٰ تک، جسم عنصری کے ساتھ، اپنی نشانیاں دکھانے کے لئے سیر کرائی، چونکہ شب کے ایک تھوڑے سے حصہ میں آیا تھا اس لئے اسرا دکھلاتا ہے۔

معراج: عروج سے مشتق ہے جس کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں اور اسی لئے معراج، زینہ کو بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ اس شب میں ملاز اعلیٰ تک عروج فرما کر، ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہیٰ اور اس سے بھی بلند ہو کر آیات الہیہ کا مشاہدہ فرمایا اور ان واقعات کے ذکر میں زبان وحی ترجمان نے عُرْجِ بِنِی کا جملہ استعمال فرمایا، اس لئے اس باجبروت اور پر عظمت واقعہ کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

قرآن کریم میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم ترین معجزہ معراج کو جس مخصوص اسلوب سے بیان کیا گیا ہے اس میں غور کرنے کے بعد عقل سلیم کو بلاچوں و چرا ماننا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ جس طرح آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ میں مذکور ہے وہ سچ ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

معراج سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ نبوت کے بارہویں سال ۵۲ھ ولادت نبوی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نوازے گئے۔ مہینے میں اختلاف ہے لیکن علمائے محققین نے ستائیس رجب کو جملہ اقوال پر ترجیح دی ہے۔ یہی مشہور ہے اور ہمیشہ سے عملاً اسی تاریخ پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ستائیسویں رجب کی شب کے بعد طالع ہونے والا دن چہارہ شنبہ تھا۔

مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک (کہ اتنا بڑا صد ہا میل کی مسافت کا سفر جو عادیہ کئی کئی ہفتہ میں یا ۴۰ دن کی مدت میں ممکن تھا) ایک ہرات کے تھوڑے سے وقت میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اس کا منکر کافر ہے۔ اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا، احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تو اتر کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ اس کا منکر گمراہ ہے۔ معراج شریف بحالت بیداری،

جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی۔ یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور کے اجداد اصحاب اسما کے معتقد ہیں یہی نصوص آیات و احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تیرہ دماغان فلسفہ کے ادہام فاسدہ محض باطل ہیں۔ قدرت، الہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہیں۔

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی سے بیان کی ابتداء کرنا خود بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا، حیرت انگیز خارقِ عادت، عجوبہ روزگار واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا۔

ظاہر ہے کہ خواب میں کسی شخص کا اس طرح کی چیزیں دیکھ لینا یا کشف کے طور پر دیکھنا یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ اسے بیان کرنے کے لئے اس تمہید کی ضرورت ہو کہ تمام کمزوریوں اور نقائص سے پاک اور ہر عیب و نقص سے منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات یہ سیر کرائی۔ یعنی جس نے اپنے بندے کو یہ خواب دکھایا یا کشف میں یہ سب کچھ دکھایا۔ عقل دشمنی کی بھی کچھ حد ہونی چاہیے۔

پھر یہ الفاظ بھی کہ ”راتوں رات اپنے بندے کو سیر کرائی“ جسمانی سفر پر صراحتاً دلالت کرتے ہیں۔ خواب کے سفر یا کشفی سفر کے لئے یہ الفاظ کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہمارے لئے یہ مانے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ یہ محض ایک روحانی یا کشفی تجربہ نہ تھا بلکہ ایک جسمانی سفر، اور بحالت بیداری عینی مشاہدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔

حضرت جبریل علیہ السلام کا براق لے کر حاضر ہونا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غایت اکرام و احترام کے ساتھ سوار کر کے لے جانا۔ بیت المقدس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر انبیائے کرام کی امامت فرمانا۔ پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہونا۔ جبریل امین کا ہر آسمان کے دروازہ کھلوانا۔ ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام انبیاء علیہم السلام کا شرف زیارت سے مشرف ہونا۔ اور حضور کی تکریم کرنا۔ احترام بجالانا۔ تشریف آوری سے مبارکبادیں دینا۔ حضور کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا۔ وہاں کے عجائب دیکھنا۔ تمام مقربین کی نہایت منازل سدرۃ المنتہیٰ کو پہنچنا جہاں سے آگے



بڑھنے کی کسی ملک مقرب کو بھی مجال نہیں ہے۔ جبریل امین کا وہاں معذرت کر کے وہ جانا۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور کا ترقیاں فرمانا۔ اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچنا کہ جس کے تصور تک خلق کے اوہام و افکار بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں مورد رحمت و کرم ہونا اور انعامات الہیہ اور خصائص نعم (مخصوص ترین نعمتوں) سے سرفراز فرمایا جانا۔ اور ملکوت السموات والارض اور ان سے برتر و افضل علوم پانا۔ اور اس حضوری کے موقع پر دوسری اہم ہدایات کے علاوہ، امت کے لئے نمازیں فرض ہونا۔ حضور کا شفاعت فرمانا۔ جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرایا جانا۔ اس کے بعد آپ کا بیت المقدس کی طرف پلٹنا۔ اور وہاں سے مسجد حرام شریف اور پھر اپنی جگہ واپس تشریف لانا۔ اور اس واقعہ کی خبریں دینا اس پر کفار کا شور شیں مچانا۔ واقعہ معراج کا مذاق اڑانا۔ اور بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمانا حضور کا سب کچھ بتا دینا۔ اور قافلوں کے جو احوال حضور نے بتائے، قافلوں کے آتے پر ان کی تصدیق ہونا۔ یہ تمام باتیں صحاح کی معتبر احادیث سے ثابت ہیں اور بکثرت احادیث ان تمام امور کے بیان اور ان کی تفصیل سے مملو ہیں۔ علمائے محققین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر مبارک میں دیدار الہی سے مشرف فرما گئے اور آپ نے رب عزوجل کو حقیقہً چشم مبارک سے دیکھا۔ مسلم شریف کی حدیث مرفوعہ سے بھی یہی ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بحر الامۃ ہیں وہ بھی اسی پر ہیں۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھ اور اپنے دل سے دیکھا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قائل ہوں۔ حضور نے اپنے رب کو دیکھا اس کو دیکھا اس کو دیکھا۔ امام صاحب یہ فرماتے ہی رہے یہاں تک کہ سانس ختم ہو گیا اس سلسلہ میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ انبیائے کرام علیہم السلام میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصب کی مناسبت سے ملکوت سموات وارض کا مشاہدہ کرایا ہے اور مادی حجابات زیچ میں سے ہٹا کر، آنکھوں سے وہ حقیقتیں دکھائی ہیں۔ جن پر ایمان بالغیب لانے کی دعوت دینے پر وہ مامور کئے گئے تھے تاکہ ان کا مقام ایک

فلسفی کے مقام سے بالکل مُتمیز و ممتاز ہو جائے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے قیاس اور گمان سے کہتا ہے مگر انبیائے کرام جو کچھ کہتے ہیں وہ براہِ راست علم اور مشاہدے کی بنا پر کہتے ہیں اور وہ خلق کے سامنے یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں اور یہ ہماری آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں۔

عقیدۃ قیامت کے دن مرتبہ شفاعتِ کبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ جب تک حضور دروازہ شفاعت نہ کھولیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور کے دربار میں شفاعت لائیں گے اور اللہ عزوجل کے دربار میں، صرف حضور ہی شفاعت فرمائیں گے اور یہ شفاعتِ کبریٰ مومن کافر مطیعِ عاصی فرمانبردار و نافرمان سب کے لئے ہے کہ وہ انتظارِ حساب جو سخت جاں گزا ہوگا، اس سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور ہی کی بدولت ملے گا۔ جس پر اولین آخرین، موافقین۔ مخالفین مومنین و کافرین سب حضور کی حمد کریں گے۔ اسی کا نام مقامِ محمود ہے۔ شفاعت کے اقسام بھی ہیں مثلاً بہتوں کو بلا حساب، جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جن میں ستر ہزار در ستر ہزار یعنی چار ارب نوے کروڑ کی تعداد معلوم ہے۔ اس سے بہت زیادہ اور ہیں جو اللہ و رسول کے علم میں ہیں بہترے وہ ہوں گے جس کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے ہیں۔ ان کو جہنم سے بچائیں گے۔ اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے۔

تشریح: شفاعت کے معنی ہیں "کسی شخص کو اپنے بڑے کے حضور میں اپنے چھوٹے کے لئے سفارش کرنا"۔ شفاعت دہمکی اور دباؤ سے کسی بات کے منوانے کو نہیں کہتے اور نہ شفاعت ڈر کر یاد بکرمانی جاتی ہے۔ اتنی بات تو عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ کسی سے ڈر کر یا کسی کے دباؤ میں آکر، بات مان لینا، قبول سفارش نہیں بلکہ نامردی و بزدلی اور مجبوری و ناچار ہی ہے اور دباؤ سے کام نکلنے کو دہمکی اور دھونس کہتے ہیں نہ کہ شفاعت و سفارش۔

الغرض خاصانِ خدا کی شفاعت حق ہے۔ اس پر تمام امتِ مرحومہ کا اجماع ہے اور بکثرت آیات قرآن کریم اس کی شاہد ہے۔ احادیثِ کریمہ اس باب میں درجہ شہرت بلکہ تواتر معنوی تک

پہنچی ہیں۔ کتب دینیہ اس سے مالا مال ہیں۔

**خلاصہ:** اس عقیدہ کا یہ ہے کہ اللہ واحد قہار جل جلالہ خالق و مالک و شہنشاہ حقیقی ہے۔ اس کو کسی سے کسی قسم کا نہ لالچ ہے نہ ڈر۔ وہ تمام عالم سے غنی و بے نیاز ہے اور سب اسی کے محتاج و نیاز مند۔ اسی نے اپنی قدرت کاملہ و حکمت بالغہ سے، اپنے بندوں میں سے اپنے محبوبوں کو چن لیا اور اپنے محبوبوں کا سردار، مدنی تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ وہ بکمال بے نیازی، اپنے کرم سے اپنے محبوبان کرام کی ناز برداری فرماتا ہے۔ اس نے اپنے محبوبوں کی عظمت و جلالت اور شان محبوبیت ظاہر فرمانے، ان کی شوکت و وجاہت دکھانے کے لئے ان کو اپنے بندوں کا شفیع بنایا۔ اسی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اولیائے کرام کو یہ مرتبہ دیا کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو رب کریم جل جلالہ ان کی قسم کو سچا کر دے۔ اسی نے ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا خلیفہ اعظم و حبیب اکرم بنایا اور ارشاد فرمایا کہ ”اے محبوب تم کو تمہارا رب ضرور اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے“

**اللہ اکبر!** کیا شان محبوبیت ہے۔ قرآن پاک نے کس اہتمام و شکوہ کے ساتھ حضور کی شفاعت کا اثبات فرمایا ہے۔ کریم بندہ نواز نے اپنے حبیب سے کیسے کیسے وعدے فرمائے ہیں۔ اپنی شان کرم سے انہیں راضی رکھنے کا ذمہ لیا ہے اور حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شان ناز سے فرمایا کہ جب یہ کرم ہے تو ہم اپنا ایک امتی بھی دوزخ میں نہ چھوڑیں گے۔

فصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دبارک و کرم۔

شفاعت بہ اجماع امت ثابت ہے بکثرت آیات اور بے شمار احادیث اس میں وارد ہیں۔ اس کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے اور قرآن کریم میں جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ بتوں اور کافروں کی شفاعت ہے۔

مسئلہ شفاعت تو کافروں اور بت پرستوں میں بھی مسلم تھا۔ اور ان کا گمان تھا کہ بت شفاعت کریں گے اور یہود و نصاریٰ میں بھی تسلیم کیا جاتا تھا جن کا عقیدہ تھا کہ شفیع کو وہ ذات اقدار و اختیار حاصل ہے کہ جسے چاہے اسے عذاب سے چھڑا سکتا ہے وہ جس بات پر راہ

جائیں وہ خدا سے منوا کر چھوڑتے ہیں اور جو کام چاہیں اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں یہاں تک کہ کفر کے مجرم کو بھی نجات دلا سکتے ہیں اور دنیا کی لمبی رشتہ داریوں اور خانگی ذاتی دوستیوں سے وہاں بھی کام چل سکتا ہے بالخصوص عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا اور ہے کہ ابن اللہ (معاذ اللہ) کی حیثیت شافع مطلق کی ہے۔ انسان کے قالب میں انہوں نے اسی لئے تو جنم لیا کہ اپنی جان کا فدیہ سب گناہگاروں کی طرف سے دیکر، اور سب کی طرف سے (معاذ اللہ) اپنے خون کا چڑھاوا چڑھا کر قیامت میں شافع مطلق کی حیثیت سے ظاہر و نمودار ہوں اور ان کی شفاعت سب کے حق میں نجات کا حکم قطعی رکھے گی۔

قرآن کریم نے یہودیوں اور نصراہنیوں کے عقیدہ کی اصلاح کی اور کافروں کے عقیدہ کا ابطال فرمایا جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیوی دیوتا یعنی ان کے من گھڑت، ان کے ہاتھوں تراشے ہوئے یہ بت بھی ان کی شفاعت کریں گے۔

قرآن کریم نے ان کے رد و ابطال کے لئے کلام کے مختلف اسلوب اختیار فرمائے اور پھر شفاعت کبریٰ کا اثبات فرمایا۔ اور اس اثبات کو دو اصول پر منحصر رکھا۔  
 (۱) اِلَّا بِاِذْنِهِ یعنی ہر شخص کو بارگاہ ذوالجلال میں کب کثانی اور شفاعت کی طاقت نہ ہوگی اللہ کے حضور مازونین کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا شفاعت صرف وہی کرے گا جسے پروردگار عالم نے اذن دیا۔

۲) وَقَالَ صَوَابًا جس نے ٹھیک بات کہی یعنی شفاعت صرف اسی کی ہوگی جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر ثابت قدم رہا تو کفار کے لئے شفاعت نہیں۔ یوہیں شفاعت اسی کی مقبول ہوگی جو ٹھیک ٹھیک بات کہے یعنی شفیع نہایت صادق۔ راست باز اور پوری پوری بات کہنے والا ہو۔

اور یہ نہیں مگر محبوب و مقبول بندگان خدا۔ انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین جن کو ان کے رب نے اجازت فرمائی اور قیامت میں عطا فرمائے گا۔ اور یہ بندگان خدا، بارگاہِ الہی میں قرب و منزلت رکھنے کے باوجود شفاعت صرف اسی کی کریں گے جس کے لئے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو یعنی مومن موحّد کے لئے۔ تو بتوں سے شفاعت کی امید رکھنا باطل محض ہے کہ

انہیں نہ بارگاہِ حق میں قرب حاصل نہ کفار شفاعت کے اہل قرآن کریم نے بتایا کہ یہ کفار و مشرکین جن لوگوں کو اللہ عزوجل کے سراپو جتے ہیں ان میں کوئی شفاعت کا مالک نہیں کیونکہ شفاعت مقربین کی ہو سکتی ہے نہ کہ منضربین کی کہ یہ تو خود عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے۔

الغرض قرآن کریم میں جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ بتوں اور کافروں کی شفاعت ہے تو جو آیتیں بتوں اور کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہیں، انبیاء و اولیاء کو ان کا مصداق ٹھہرانا، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام کافروں اور بتوں پر صادر فرمائے ہیں وہ اس کے محبوبوں اور مقبول بندوں پر لگا دینا اور یہ کہہ دینا کہ کوئی اس کا وکیل و سفارشی نہیں جیسا کہ وہابیہ کا مذہب ہے، قرآن و حدیث کی صریح مخالفت بلکہ خدا و رسول پر بہتان اٹھانا اور نئی شریعت گڑھنا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا بتوں اور کافروں کی شفاعت کے انکار کے ساتھ، مومنین و محبین کی شفاعت کا اثبات کیا گیا ہے اور مقبولان بارگاہ کا استنار فرمایا گیا ہے۔

فائدہ:۔ امام الروبابیہ مولوی اسماعیل دہلوی نے تفہیم الایمان میں لکھا اور چھاپا کہ ”پیغمبر نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ اللہ کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ میں آپ ہی تو ڈرتا ہوں دوسرے کو کیا بچا سکوں۔ مسلمانو! لیا تمہارا بھی یہی اعتقاد ہے کہ حضور قیامت میں اپنی صاحبزادی کو بھی نہیں بچا سکتے وہ آپ ہی تو ڈرتے ہیں اور کو کیا بچا سکیں؟ کہو ہرگز نہیں۔ امام الروبابیہ نے یہاں دل کی کھول دی شفاعت کی پوری آخری بول دی۔ جب صاحبزادی تک کے کام نہ آئیں گے تو دوسرے کا کیا منہ ہے کہ ان سے کچھ امید رکھے۔ واقعی جب ”ناکارے لوگ“ کہہ دیا پھر کا آنا کیا معنی۔

مسلمانو! یہ اس کا اللہ و رسول پر افتراء ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں آپ کو ڈرتا ہوں۔ دوسرے کو کیا بچا سکوں اور اللہ نے اس فرمانے کا حضور کو حکم دیا۔ ہرگز نہ آیت میں ہے نہ حضور نے فرمایا۔ وہ عظیم الشان حدیثیں ہر مسلمان کے گوش زد ہیں کہ سب انبیاء نفسی نفسی فرمائیں گے اور حضور انالما۔ میں ہوں شفاعت کے لئے سل اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم وسلم۔

عتیدہ کا ہر قسم کی شفاعت حضور کے لئے ثابت ہے۔ شفاعت بالوجاہۃ شفاعت

بِالْحُبَّةِ اور شفاعت بِالْإِذْنِ۔ ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔  
 قشیریؒ پر تفویض الایمان میں ہے ”امیر کی وجاہت کے سبب اس کی سفارش قبول  
 کی اس قسم کی سفارش اللہ کی جناب میں ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی جو کسی نبی کو اس قسم کا شفیع سمجھے وہ  
 اصل مشرک ہے“

اسی میں ہے ”محبت کے سبب سفارش قبول کر لی۔ اس قسم کی شفاعت بھی اس دربار میں  
 کسی طرح ممکن نہیں۔ جو کسی کو اس قسم کا شفیع سمجھے ویسا ہی مشرک ہے“  
 مسلمانوں! کیا تم اپنے نبی کو اللہ کے یہاں اتنا وجاہت والا نہیں جانتے کہ ان کی وجاہت  
 وجہ قبول شفاعت ہو سکے۔ کیا تمہارے نبی اللہ کے محبوب نہیں۔ کیا ان کی محبوبیت وجہ قبول  
 شفاعت نہیں۔

کہو اور ضرور کہو کہ ہم مسلمانوں کے ایمان میں انبیاء و حضور سید الانبیاء علیہم وعلیہم افضل الصلوٰۃ  
 والتنا ضرور شفیع ہیں اور ضرور بارگاہ الہی میں ان کے لئے عظیم وجاہت ہے اور ضرور ان کی  
 وجاہت کے سبب ان کی سفارش قبول ہے۔ جو وہاں وجاہت نہیں رکھتا اس کا کیا منہ کہ کسی  
 کی سفارش کر سکے۔ ان کی وجاہت کا انکار کفر اور اس کے سبب ان کی شفاعت کا قبول نہ ماننا  
 ضرور ضلال۔ باقی دھوکہ دینے کو وجاہت کے معنی میں ”دباؤ“ کی پتھر لگانی کہ ”امیر سے دیکر  
 سفارش مان لیتا ہے“ محض عیاری ہے۔ وجاہت کے معنی میں لغت عرفا شرعاً کہیں اس کا پتہ  
 نہیں۔ اللہ عزوجل عینی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرماتا ہے رَجِيهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ دُنْيَا و  
 آخِرَتِ دُونِوْنَ مِیْنَ وَجَاهَتِ وَاللّٰہِ۔ مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ کُو فَرَمَاتُہِ سَ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰہِ وَجِيہًا اللّٰہِ  
 كَی یَا وَجَاهَتِ وَاللّٰہِ بِضَاوِی وَبِدَارِکِ التَّنَزِیْلِ وَغَیْرہَا مِیْنَ ہِیَ التَّوَجَّہَاتُ فِی الدُّنْيَا  
 اَلنَّبِیَّۃُ ذِی الْآخِرَةِ الشَّفَاعَةُ دُنْيَا مِیْنَ وَجَاهَتِ یَہِ کہ نبی ہیں اور آخِرَتِ مِیْنَ وَجَاهَتِ یَہِ کہ  
 شفاعت کریں گے۔ مگر امام الوہابیہ تو ان کو ”ناکارے لوگ“ چوہڑے چارے بھی ذلیل۔  
 ذرہ ناچیز سے کمتر کہتا ہے۔ یہ ان کے لئے وجاہت کیونکر مانے۔

یوہیں مسلمانوں کے ایمان میں انبیاء و حضور سید الانبیاء علیہم وعلیہم افضل الصلوٰۃ والتنا  
 ضرور محبوب میں ان کے غلام تک محبوب ہیں قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰہُ۔

اسے محبوب تم فرمادو کہ اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو میرے غلام ہو جاؤ اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔“ اور سزوران کی محبوبیت کے سبب ان کی سفارش قبول ہے۔ حدیث کا ارشاد دیکھئے کہ جب حضور شفاعت کا سجدہ کریں گے ارشاد ہوگا یا مُحَمَّدًا رَفَعَ رَأْسَكَ وَقُلْ نُطَاقًا۔ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہو کہو کہ تمہاری اطاعت کی جائے گی۔

آنکھوں کے اندھے، اطاعت کے لفظ کو دیکھیں۔ یہ کمال محبوبیت کے سبب قبول شفاعت کا قبول نہ ماننا ضلال۔ باقی دھوکہ دینے کو لاچارگی کی قید بڑھانی کہ ”محبت سے لاچار ہو کر تقصیر معاف کر دے“ وہی بے ایمانی ہے۔

اسی تفویت الایمان میں ہے ”جس کو چاہے گا اپنے حکم سے شفیع بنا دے گا“ مسلمانوں! اہل حق کے ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لئے متعین ہیں۔ انہیں کو چاہا اور انہیں کو چاہے گا اور سب نَفْسِي نَفْسِي کہیں گے اور یہ اُمَّتِي اُمَّتِي۔ بے ان کے کوئی یہ دروازہ نہیں کھول سکتا۔ بلکہ اوروں کی شفاعت حضور کے سامنے ہے اور بارگاہ عزت میں حضور شفیع۔ اَنَا صَاحِبُ شَفَاعَتِهِمْ وَلَا فَخْرَ۔ دہلوی نے جو مسلمانوں کا جی رکھنے دھوکا دینے کو جھوٹے ناشدنی شفاعت کا اقرار کیا، اس میں بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت نہ رکھی۔ حضور کا نام مبارک تک نہ لیا بلکہ ”جس کو چاہے گا بنا دے گا“۔ یہ ان متواتر حدیثوں کی تکذیب ہے جن میں بالخصوص حضور شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کے لئے متعین ہونا مذکور ہے۔ از الجملہ بخاری و مسلم کی یہ حدیث کہ ”مجھے پانچ چیزیں عطا ہوئیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے شفاعت کا منصب عطا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے شفاعت بالاذن کا ماننا ظاہر کیا شفاعت بالوجاہت و بالمجہت اس کے مقابل نہیں بلکہ وہی شفاعت بالاذن ہے مگر اس نے اس کے وہ معنی گڑھے کہ شفاعت کا خالی لفظ رہ گیا۔ حقیقت اڑ گئی تاکہ انکار تو منہ بھر کر ہو اور جاہلوں کے چھلنے کو ہو جائے کہ ہم شفاعت کے منکر نہیں۔

عقیدہ ۵: منصب شفاعت حضور کو دیا جا چکا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ (مجھے شفاعت کا منصب عطا کیا گیا) اور ان کا رب فرماتا ہے

وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مَغْفِرَةٌ لِمَنْ هُوَ بِهَا بِرٌّ وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَوْمَئِذٍ شَهِيدٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
عام مومنین و مومنات کے گناہوں کی "شفاعت اور کس کا نام ہے۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ جَبِيَّتِكَ الْكَرِيمِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ  
الْأَمِنُ آتَىٰ اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

عقیدہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت، مدارایمان، بلکہ ایمان  
اسی محبت کا نام ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ اولاد اور  
تمام جہاں سے زیادہ نہ ہو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔

تشریح، قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے قل ان كان آباءكم و ابناءكم كفرة الاية  
"تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور  
تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہاری  
پسند کا مکان۔ یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں  
تو راستہ دیکھو۔ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے"

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہاں میں کوئی معزز کوئی عزیز، کوئی مال کوئی  
چیز، اللہ و رسول سے زیادہ پیارا ہو وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے۔ اللہ اسے اپنی طرف راہ  
راہ نہ دے گا۔ اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ ماں باپ  
کی محبت اپنی اولاد سے، اولاد کی محبت اپنے ماں باپ سے۔ بھائی بہنوں کی باہمی محبت،  
میاں بیوی کے درمیان گہرا تعلق، خویش و اقارب سے قلبی رابطہ۔ تجارت اور مال و ایسب  
سے علاقہ قلبی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ محبت ہونا، انسانی فطرت میں داخل ہے  
اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لئے وہ انسان کے فطری تقاضوں پر ایسی بندشیں  
نہیں لگاتا کہ اس کی زندگی اجیرن بن جائے اس لئے یہ حکم نہیں دیا کہ ان چیزوں کی طرف  
کوئی مسلمان توجہ ہی نہ دے اور ان سے بالکل قطع تعلق رکھے۔

اسلام کے نزدیک ماں باپ اولاد بھائی بہن اور مال و متاع اور کسب و تجارت کی  
محبت بجلتے خود ممنوع نہیں صرف اس کی وہ صورت ممنوع ہے جب وہ خدا و رسول کی  
محبت اور احکام شریعت کی تعمیل میں سدا رہ بننے لگے یعنی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا



کہ مسلمان ان چیزوں کی محبت میں کھو جائے اور خدا و رسول کو بھول جائے۔  
 اسلام کہتا ہے کہ اگر کہیں ایسی صورت رونما ہو جائے کہ ان چیزوں سے رابطہ و  
 علاقتہ، خدا و رسول کی محبت پر غالب آنے لگے تو ان تمام علاقوں کو پھلانگتے ہوئے آگے  
 بڑھ جاؤ اور خدا و رسول کی محبت کو اپنے سینے سے لگا دو کہ یہی ایمان ہے۔ خدا و رسول  
 کے لئے عزیز و اقارب چھوڑتے ہیں تو چھوڑ دو۔ املاک و اموال تلف ہوتے ہیں تو ہونے دو  
 راحت و آسائش ختم ہوتی ہے تو ہونے دو۔ ایمان ہے تو یہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا  
 اور یہ سب کچھ ہو اور ایمان نہ رہے تو دنیا و آخرت دونوں میں خسران ہی خسران ہے۔ چنانچہ  
 حدیث شریف میں صاف صاف ارشاد فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز مسلمان نہیں ہو  
 سکتا، جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں۔  
 اس حدیث نے یہ بات صاف فرمادی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز  
 رکھے ہرگز مسلمان نہیں۔ غرض اللہ و رسول کی محبت ان تمام انواع محبت پر غالب تر ہے تب  
 تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اگر خدا منحواستہ، اللہ و رسول کی محبت سے ان اشخاص یا ان  
 اشیا کی محبت بڑھ گئی تو پھر عتاب الہی سے آدمی کو کوئی چیز بچا نہیں سکتی، دنیا میں ذلت و  
 خواری ہے اور آخرت میں بھی رو سیاہی اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔

عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، عین طاعت الہی ہے، طاعت الہی  
 بے طاعت حضور ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور اسے یاد  
 فرمائیں فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو۔ اور یہ شخص کتنی ہی دیر تک حضور سے کلام کرے  
 بدستور نماز میں ہے۔ اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔

تشریح: ارشاد خداوندی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ رُ  
 سُولَهُ أَمْرًا أَلَا يَتَّبِعُوهُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ یعنی نہیں پہنچتا کسی مسلمان مرد، نہ کسی مسلمان عورت کو کہ جب حکم کرے  
 اللہ و رسول کسی بات کا، کہ انہیں کچھ اختیار رہے اپنی جانوں کا اور جو حکم نہ مانے، اللہ  
 و رسول کا تو وہ صریح گمراہی میں بہکا۔

امہ مفسرین فرماتے ہیں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل طلوع آفتاب

آفتاب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مول لے کر آزاد فرمایا اور متبنی (منہ بولا بیٹا) بنایا تھا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیہ بنت عبدالمطلب کی بیٹی تھیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام دیا۔ اول تو راضی ہوئیں اس گمان سے کہ حضور اپنے لئے خواستگاری فرماتے ہیں۔ جب معلوم ہوا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے طلب ہے، انکار کیا اور عرض کر بھیجا کہ یا رسول اللہ میں حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہوں، ایسے شخص کے ساتھ اپنا نکاح پسند نہیں کرتی، اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی بنا پر انکار کیا اس پر یہ آیت کریمہ اتری اسے سن کر دونوں بہن بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تائب ہوئے اور نکاح ہو گیا۔

ظاہر ہے کہ کسی عورت پر اللہ عزوجل کی طرف سے فرض نہیں کہ فلان سے نکاح پر خواہی نخواستہ راضی ہو جائے خصوصاً جبکہ وہ اس کا کفو نہ ہو۔ خصوصاً جبکہ عورت کی شرافت خاندانہ کو اکب شریا سے بھی بلند و بالاتر ہو۔ باینہمہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیغام نہ ماننے پر رب العزت جل جلالہ نے بعینہ وہی الفاظ ارشاد فرمائے جو کسی فرض اللہ کے ترک پر فرمائے جلتے۔ اور رسول کے نام پاک کے ساتھ اپنا نام اقدس بھی شامل فرمایا۔ یعنی رسول جو بات تمہیں فرمائیں وہ اگر ہمارا فرض نہ تھی تو اب ان کے فرمانے سے فرض قطعی ہو گئی۔ مسلمانوں کو اس کے نہ ماننے کا اصلاً اختیار نہ رہا۔ چونہ مانے کا صریح گمراہ ہو جائے گا، دیکھو رسول کے حکم دینے سے کام فرض ہو جاتا ہے اگرچہ فی نفسہ خدا کا فرض نہ تھا ایک مباح و جائز امر تھا۔

ائمہ محققین تصریح فرماتے ہیں کہ احکام شریعت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سپرد ہیں۔ جو بات چاہیں واجب کر دیں جو چاہیں ناجائز فرمادیں۔ جس چیز یا جس شخص کو جس حکم سے چاہیں مستثنیٰ فرمادیں۔ لہذا قدیم سے عرف علمائے کرام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع کہتے ہیں کہ شریعت اسلامی حضور کی مقرر کی ہوئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وشریف وکریم۔

بخاری شریف میں ہے سعید بن معنی سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا۔ میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نماز پڑھ رہا تھا اب فارغ ہو کر حاضر بارگاہ ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ **اَسْتَجِیْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ اِلَیْهِ** اللہ ورسول کے پاس حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔

ایسا ہی دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھتے تھے حضور نے انہیں پکارا۔ انہوں نے جلدی نماز تمام کر کے سلام عرض کیا۔ حضور نے فرمایا تمہیں جواب دینے سے کیا چیز مانع ہوئی؟ عرض کیا، حضور میں نماز میں تھا۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن کریم میں یہ نہیں پایا کہ اللہ ورسول کے بلانے پر حاضر ہو، عرض کیا۔ بے شک۔ آئندہ ایسا نہ ہو گا۔  
ان احادیث سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور حضور اسے بلائے تو اسے بلا تاخیر حاضر خدمت ہو جانا چاہیے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ **اِجَابَةُ الرَّسُوْلِ كَمَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ** (منظری) اور یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ کا بلانا بھی، اللہ ہی کا بلانا ہے۔  
**جَلَّ وَعَلَا وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ اَبَدًا**

عقیدہ: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزو ایمان و رکن ایمان ہے اور فعل تعظیم پر ایمان ہر فرض سے مقدم ہے۔  
تشریح: رب عزوجل فرماتا ہے **اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ مُبَشِّرًا وَ نَذِیْرًا لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَ تَحْتَرِدُوْا ذُنُوْبَكُمْ وَ تَسْبِحُوْا بِحَمْدِ اللّٰهِ اَصْبٰیٰ** اے نبی بے شک ہم نے بھیجا تمہیں گواہ اور خوشخبری دیتا اور ڈر سنانا۔ تاکہ اے لوگو! تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح شام اللہ کی پاکی بولو۔  
مسلمانو! دیکھو۔ دین اسلام بھیجے، قرآن مجید اتارنے کا مقصود ہی تمہارا مولیٰ تبارک و تعالیٰ تین باتیں بتاتا ہے۔

اولیٰ: یہ کہ لوگ اللہ ورسول پر ایمان لائیں۔

دو کم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں۔  
سو کم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہیں۔

مسلمانو! ان تینوں جلیل باتوں کی جمیل ترتیب تو دیکھو۔ سب میں پہلے ایمان کو فرمایا اور سب میں تیچھے اپنی عبادت کو۔ اور بیچ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو۔ اس لئے کہ بغیر ایمان، تعظیم بکار آمد نہیں۔ بہتیرے نصاریٰ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور حضور پر سے، دفع اعتراضات کا فران لیٹم میں تصنیفیں کر چکے پکچر دے چکے مگر جبکہ ایمان نہ لائے کچھ مفید نہیں کہ یہ ظاہری تعظیم ہوئی۔ دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوتی تو ضرور ایمان لاتے۔

پھر جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو عمر بھر عبادت الہی میں گزارے سب بیکار و مردود ہے۔ بہتیرے جوگی اور راہب، ترک دنیا کر کے اپنے طور پر ذکر و عبادت الہی میں عمر کاٹ دیتے ہیں بلکہ ان میں بہت وہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے اور ضربیں لگاتے ہیں۔ مگر ازاں جا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں۔ کیا فائدہ۔ اصلا قابل قبولے بارگاہ الہی نہیں۔ اللہ عزوجل ایسوں ہی کو فرماتا ہے وَقَدْ مَنَّا اِلٰی مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا۔ جو کچھ اعمال انہوں نے کئے ہم نے سب برباد کر دیئے۔ ایسوں ہی کو فرماتا ہے عَٰجِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلٰی نَارًا اَحْمٰیْمَةً۔ عمل کریں مشقتیں بھریں اور بدلہ کیا ہوگا۔ یہ کہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ والعیاذ باللہ تو ضرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم مدارِ ایمان ہے۔ مدارِ نجات ہے اور مدارِ قبول اعمال ہے۔ بلکہ ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان صرف حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت و عظمت کا نام ہے تو جس کے دل میں تعظیم و محبت و عظمت زائد، اسی قدر اس کا ایمان اکمل۔ اور جس قدر کم، اتنا ہی ایمان ناقص اور جس کے دل میں بالکل نہیں وہ مطلقاً کافر ہے۔

اہل ادب و ایمان کے نزدیک، تعظیم و محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اصل کار و اہم فرائض اور جملہ اعمال حسنہ کی مقبولیت کی مناط ہے۔ اسلام کے فرائض میں سب سے اہم ارکان اسلام ہیں۔ اور ارکان اربعہ میں، نماز سب سے اہم و اقدم۔ اور تعظیم و محبت حضور پر نور صلی اللہ

علیہ وسلم قطعاً نماز سے اہم و اعظم ہے۔

اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں، منزل صیبا پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر، سیدنا امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے زانوئے مبارک پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا۔ مولیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الالہی نے اس نماز پڑھی تھی۔ آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے۔ جب وقت اور تنگ ہونے پر آیا مضطرب ہوئے کہ اگر اٹھتا ہوں یا زانو سر کاٹا ہوں تو محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب راحت میں خلل آتا ہے۔ معہذا کیا معلوم کہ حضور کو خواب میں کیا وحی ہورہی ہو۔ اور اگر بیٹھا رہتا ہوں تو نماز جاتی ہے۔ آخر وہی تعظیم و محبت کا پہلو غالب آیا اور اسد اللہ الغالب نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگادینے پر نماز جلتے کو گوارا کیا۔ زانو نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ اب کہ وقت مغرب ہوا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم حق میں کھلی۔ مولیٰ علی کو مضطرب پایا سبب دریافت کیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز پڑھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دست مشکل کشا بلند فرمائے۔ اور اپنے رب عزوجل سے عرض کی۔ اہلی علی تیرے رسول کے کام میں تھا۔ اور آفتاب کو حکم دیا کہ پلٹ آئے۔ فوراً ڈوبا ہوا آفتاب۔ افق غربی سے حکم کا بانڈھا ہوا کھینچا پھلا آیا۔ وقت عصر ہو گیا۔ امیر المؤمنین نے نماز عصر ادا فرمائی پھر ڈوب گیا۔ امام جیل ابو بکر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ ائمہ نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی۔

اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادت نماز، اور وہ بھی صلوة وسطیٰ نماز عصر، مولیٰ علی نے حضور کی نیند پر قربان کر دی کہ عبادتیں بھی ہمیں حضور ہی کے صدقہ میں ہیں اور حضور ہی کی عظمتوں کے طفیل قبول ہوں گی۔

اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جان کارکھنا، سب سے زیادہ اہم فرض ہے اگر دشمنوں کے ہجوم میں، نماز پڑھنے میں، معاذ اللہ، جان کی ہلاکت کا یقین ہو اس وقت ترک نماز کی اجازت ہوگی۔ لیکن امام الصدیقین، اکمل الاولیاء العارفين سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کو، حفظ جان پر مقدم رکھا۔

سفر ہجرت میں جب آفتاب رسالت و ماہتاب صدیقیت صلی اللہ علیہ وسلم، برج ثور، بیت الشرف قریم، اجتماع نیترین کی طرح غار ثور میں جلوہ فرما ہوئے۔ صدیق اکبر نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ حضور باہر توقف فرمائیے پہلے میں اندر جا کر غار کو صاف کر دوں کہ شاید کوئی چیز ہو۔

غار چند ہزار سال کا تھا۔ بہت سوراخ تھے۔ صدیق اکبر نے سنگریزوں سے، پھر کپڑے پھاڑ پھاڑا ان سے بند کئے۔ ایک سوراخ رہ گیا۔ اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا۔ حضور اندر تشریف لے گئے اور ان کے زانو پر سر انور رکھ کر آرام فرمایا۔ اس غار میں ایک سانپ مدت سے بہ تمنائے دیدار، فائض الانوار حضور پر نور سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہتا تھا کہ اس نے قرون سابقہ میں، علمائے اہم سابقہ کو باہم ذکر کرتے سنا تھا کہ حضور اقدس نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کو ہجرت اور غار ثور میں اقامت فرمائیں گے۔ سانپ نے اپنا سر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے پر رکھا۔ انہوں نے جانا کہ سانپ ہے مگر اس خیال سے کہ جان جلے مگر محبوب کی نیند میں خلل نہ آئے پاؤں نہ ہٹایا یہاں تک کہ اس نے کاٹا۔ صدیق اکبر نے بکمال ادب جنبش نہ کی مگر شدت ضبط کے باعث آنسو نکل کر، رخسارہ محبوب رب العلمین پر پڑے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشم جانفزا کھلتی حال پوچھا۔ عرض کیا لِدُعْتِ بَابِي اَنْتَ دَاعِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ حضور پر قربان مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعاب دہن اقدس لگا دیا فوراً آرام ہو گیا۔ ہر سال وہ زہر عود کرتا۔ بارہ سال بعد اسی سے شہادت پائی۔ (افادات رضویہ)

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے کیا خوب فرمایا:-

مولیٰ علی نے واری تری نیند پر نماز	اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے
صدیق بلکہ غار میں جاں اپنی دے چکے	اور حفظ جاں تو جانِ فروض غرر کی ہے
تو نے انہیں نماز انہیں پھیر دی حیات	پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے

ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، فسروع ہیں  
اصل الاصول بندگی، اس تاجور کی ہے

یہی وہ تعظیم و محبت ہے جس نے صدیق اکبر کو، انبیاء و مرسلین کے بعد تمام عالم  
تمام خلق اللہ، تمام اولیاء، تمام عرفاد سے افضل و اکرم و اکمل و اعظم بنا دیا۔ یہی وہ سر ہے جس  
کی نسبت حدیث میں آیا کہ ابو بکر کو کثرت صوم و صلوات کی وجہ سے تم پر فضیلت نہ ہوئی بلکہ  
اس کے سر کے سبب جو اس کے دل میں راسخ و متمکن ہے۔ یہاں وہ راز ہے جس کے باعث  
ارشاد ہوا "اگر ابو بکر کا ایمان میری تمام امت کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر  
کا ایمان غالب آئے"

فائدہ :- امام ابو ہاشم نے اپنی کتاب تفسیرت الایمان میں لکھا "جیسا ہر قوم کا  
چوردھری اور گاؤں کا زمیندار، اسی طرح ہمارے پیغمبر سارے جہاں کے سردار ہیں۔"  
مسلمانو! بادشاہ تو بادشاہ، ایک کلکٹر کے لئے یہی بات کہی جائے تو اس کی توہین ہے  
مگر وہابیہ کے ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس یہ قدر ہے۔

اسی میں لکھا اور لکھ کر چھپایا "ان کو اللہ نے بڑا ہی دی وہ بڑے بھائی ہوئے ہم چھوٹے  
پھر اسی میں لکھا سو بڑے بھائی کی تعظیم کیجئے"  
مسلمانو! یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی بڑی توہین ہے۔ باپ کے برابر بھی نہ  
رکھا۔ اس پر دعویٰ ہے کہ ہم حسنین و چنان ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان وہابیہ کے ہر کید و مکر سے ہر سنی مسلمان کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور لطف  
یہ کہ اسماعیل دہلوی نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی کہا۔ اس کی حمایت میں گنگوہی  
صاحب نے اپنے فتاویٰ حصہ میں لکھتے ہیں "خود آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہو  
اب تمام وہابیہ اور ان کے اعوان و انصار جلد بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں  
فرمایا ہے کہ مجھ کو بھائی کہو۔ ورنہ اقرار کریں کہ گنگوہی صاحب نے جھوٹے حدیث دل سے  
گڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت افتراء کیا اور اپنے منہ آپ ہی لعنت پائی۔ اور  
حدیث گڑھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء کر کے، حضور کے مقابلہ میں اس کی حمایت

کر کے، خود ہی فیصلہ کریں کہ یہاں پہنچے۔

عقیدہ ۵: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور انور اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آئے تو بکمال خشوع و حضور وانکسار یاد بنے۔ اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَالْهَيْكَلِ الْكَرِيمِ  
وَأَصْحَابِهِ الْعِظَامِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

عقیدہ ۶: محبت اس عالی جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی عین ایمان، بلکہ ایمان کی تویہ ہے

کہ ایمان کی بھی جان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ يَعْنِي حُبِّهِ كَيْفَ

مِنْ مَحَبَّتِ نَبِيِّهِ إِيمَانٌ نَحْنُ لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كَمَا حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ

مِنْ وَالِدِيهِ وَوَلَدِيهِ وَالنَّسَائِسِ أَجْمَعِينَ۔ یعنی تم میں سے کوئی مسلمان

نہیں ہوتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، اور سب آدمیوں سے زیادہ عزیز نہ ہوں

اور قاعدہ کی بات ہے جو جسے زیادہ عزیز رکھتا ہے اسی کا ذکر اس کا وظیفہ ہو جاتا ہے۔ مَنْ

أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذَكَرَهُ۔

تشریح: آفتاب نیم روز کی طرح روشن کہ آدمی ہمہ تن، اپنے محبوب کے فضائل و کمالات

اور محامد و محاسن کے ذکر اور اس کے پھیلانے میں مشغول رہتا ہے اور جو بات اس کی خوبی

و تعریف کی سنتا ہے کسی خوشی و طیب خاطر سے اظہار کرتا ہے۔ سچی فضیلتوں کا میٹنا اور شام

و سحر نفی اوصاف کی فکر میں رہنا، جیسا کہ وہابیہ کا عام وتیرہ ہے، کام دشمن کا ہے نہ کہ دوست کا

پھر محبوب بھی کیسا، جان ایمان و کان احسان جس کے جمال جہاں آرا کا نظیر کہیں نہ ملے

گا۔ اور خامہ قدرت نے اس کی تصویر بنا کر ہاتھ کھینچ لیا کہ پھر کبھی ایسا نہ لکھے گا۔ کیسا محبوب

جسے اس کے مالک نے تمام جہاں کے لئے رحمت بھیجا۔ کیسا محبوب جس نے اپنے تن پر

ایک عالم کا بار اٹھالیا۔ کیسا محبوب جس نے تمہارے غم میں، دن کا کھانا، رات کا سونا ترک

کر دیا۔ تم رات دن اس کی نافرمانیوں میں منہمک اور لہو و لعب میں مشغول ہو، اور وہ تمہاری



بخشش کے لئے شب و روز گریاں و طول ہے۔

صبح قریب ہے۔ ٹھنڈی نسیموں کا پنکھا چل رہا ہے۔ ہر ایک کا جی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے۔ بادشاہ اپنے گرم بستروں، نرم تکیوں میں مست خواب ناز ہے اور جو محتاج بے نوا ہے اس کے بھی پاؤں، دو گز کی کلی میں دراز ہے۔ ایسے سہانے وقت میں، وہ معصوم بے گناہ۔ پاک دامن، عصمت پناہ، اپنی راحت و آسائش کو چھوڑ، خواب و آرام سے منہ موڑ، جبین نیاز، آستانہ عزت پر رکھے کہ الہی میری اُمت سیہ کار ہے درگزر فرما۔ اور انیس آتش دوزخ سے بچا۔


روایات صحیحہ سے ثابت کہ جب وہ جان رحمت و کانِ رافت پیدا ہوا، دربارِ الہی میں سجدہ کیا اور دَبَّ هَبْلِي اُمِّي فرمایا۔ اور جب قبر شریف میں اتارا تو لبِ جاں بخش کو جنبش مٹی۔ بعض صحابہ نے کان لگا کر سنا تو آہستہ آہستہ اُمّی اُمّی فرما رہے تھے۔

بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انتقال کروں گا تو صور پھونکنے کے وقت تک قبر میں اُمّی اُمّی پکاروں گا۔ کان بچنے کا یہی سبب ہے کہ اکثر اوقات، بلکہ ہر آن، وہ آواز جاں گداز، اس معصوم عاصی نواز کی بلند ہے جو گاہے ہم جیسے کسی غافل و مدہوش کے گوش تک پہنچتی ہے اور روح اس کا ادراک کرتی ہے۔ اسی سبب سے اس وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہوا۔ کہ جو محبوب ہر آن ہماری یاد میں ہے کچھ دیر ہم حرمات سے نصیب بھی اس کی یاد میں صرف کریں۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ اَبَدًا

عَلَى نَبِيِّكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كَلِمَةً

غرض ایسے غم خوار کی مدح و ستائش میں منہمک رہنا اور ان کی یاد، ان کے ذکر، ان کے فضائل کے چرچوں سے آنکھوں کی روشنی اور دل کو ٹھنڈک پہنچانا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی علامتوں سے ایک بڑی علامت ہے۔ (تقی النبی وغیرہ)



## پہنچنے والی علامتِ محبتِ رسول

اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ درود شریف کی کثرت کرے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، تنہائی میں، مجمع میں، آہستہ یا آواز سے جیسے اور جہاں میسر ہو درود شریف کی قرأت میں مشغول رہے کہ بہترین وظیفہ اور قرب الہی کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ درود شریف کے لئے رب عزوجل کا حکم مطلق ہے۔ کسی زمان، کسی مکان، کسی وقت اور کسی حالت کا، اس میں استثناء نہیں کہ فلاں وقت، فلاں جگہ، فلاں حالت میں نہ پڑھو تو ہر وہ محل، ہر وہ موقع اور ہر وہ حال، کہ شرعاً ذکر و اذکار کی ممانعت وارد نہ ہو جب بھی درود شریف پڑھا جائے گا۔ اسی حکم الہی کی تعمیل میں ہوگا۔ اسی لئے ہر بار درود شریف پڑھنے میں ادائے فرض کا ثواب ملتا ہے کہ وہ سب اسی فرض مطلق کے تحت میں داخل ہے جس کا قرآن کریم حکم دیتا اور ایمان والوں کو ترغیب دلاتا ہے تو جتنا بھی پڑھیں گے فرض ہی میں شامل ہوگا۔ ادائے فرض ہی کا ثواب پائے گا۔ نظیر اس کی تلاوت قرآن کریم ہے کہ ویسے تو فرض، نماز میں ایک ہی آیت کا پڑھنا ہے اور اگر ایک رکعت میں سارا قرآن عظیم تلاوت کر لیا تو سب فرض ہی میں داخل ہوگا اور فرض ہی کا ثواب ملے گا۔ وہاں یہ کہ مسلمانوں کو اس سے خصوصاً قبل اذان پڑھنے سے روکتے اور اس کا پڑھنا بدعت و شرک بتاتے ہیں ان کی نہ سنئے کہ ان کا تو کام ہی قدم قدم پر شان رسالت کی توہین و تنقیص ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

**تنبیہ لکھنا:** نام اقدس لکھے تو درود شریف ضرور لکھے کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود شریف لکھنا واجب ہے۔ خواہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلوٰۃ والسلام یا کوئی اور صیغہ درود شریف۔

اکثر لوگ آج کل "صلی اللہ علیہ وسلم" کے بدلے صلعم۔ "علیہ السلام" کی بجائے۔ عم یا ص۔ عم لکھ دیتے ہیں یہ ناجائز و سخت حرام ہے۔ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے ایسا لکھا اس کے ہاتھ قلم کر دیئے گئے کہ ایسے مقدس نام کے لیے ذرا سے وقت

ذرا سے کاغذ، اور ذرا سی سیاہی میں اتنا نخل۔

یونہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جگہ رکھ لکھتے ہیں یہ بھی نہ چاہئے جن لوگوں کے نام محمد۔ احمد۔ علی۔ حسن۔ حسین وغیرہ ہوتے ہیں ان ناموں پر م۔ ع۔ بنتے ہیں یہ بھی ممنوع ہے کہ اس جگہ تو یہ شخص مراد ہے اس پر درود شریف یا دوسرے الفاظ کے اشاروں کی کیا مطلب۔

محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصحاب، ہماجرین و انصار، ازدواج مطہرات بنات طاہرات اور جمیع متعلقین و متوسلین سے محبت رکھے اور ان سب کے دشمنوں، بدگویوں، ان کی بارگاہ میں گستاخوں سے عداوت رکھے اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی یا کنبہ کے کیوں نہ ہوں۔

**تشریح:** قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْآيَةَ۔

یعنی تو نہ پائے گا انہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور قیامت پر کہ ان کے دلوں میں ایسوں کی محبت آنے پائے جنہوں نے خدا اور رسول سے مخالفت کی۔ چاہے وہ ان کے باپ بیٹے بھائی یا عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ہمیشہ رہیں گے ان میں اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہی لوگ اللہ والے ہیں۔ سنا ہے اللہ والے ہی مراد ہی کو پہنچے۔“

اس آیت کریمہ نے صاف فرمادیا کہ جو اللہ یا رسول کی جناب میں گستاخی کرے، مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا۔ جس کا صریح مفاد ہوا کہ جو ایسوں سے دوستی کرے وہ مسلمان نہ ہوگا۔ پھر اس حکم کا قطعاً عام ہونا بالتصریح ارشاد فرمایا کہ باپ بیٹے بھائی عزیز سب کو گنایا۔ یعنی کوئی کیسا ہی تمہارے زعم میں معظّم یا کیسا ہی تمہیں بالطبع محبوب ہو، ایمان ہے تو گستاخی کے بعد اس سے محبت نہیں رکھ سکتے اس کی وقعت نہیں مان سکتے ورنہ مسلمان نہ رہو گے۔

مُسلمانو! خدا لگتی کتنا اور ایمان کے دل پر ہاتھ لکھ کر، انصاف کی نگاہوں سے دیکھ کر فیصلہ کرنا کہ اگر کچھ لوگ تمہارے کسی معظّم دینی و دنیاوی کو برا بھلا کہنا ان کی شان میں گستاخیاں کرنا، ان کی خوبوں پر حاک اڑانا، ان پر جاوبے جا تنقید اور ان کی توہین و تنقیص کو اپنا شعار بنالیں۔ ان پر تمہیں تراشنا، ان پر لعن طعن کرنا اپنا پیشہ اور اپنا رات دن کا وطیرہ ٹھہرائیں تو کیا انہیں دیکھ کر اور ان کی سن کر تمہارے دماغ نہ کھول جائیں گے اور کیا تمہاری آنکھوں میں خون نہ اتر آئے گا۔ بالفرض اگر تمہارا ان پر قابو نہ چلے تم ان کے خلاف کچھ نہ کر سکو تو اتنا تو بالیقین ہے کہ تم ان کی طرف نگاہ اٹھانا بھی گوارا نہ کرو گے اور تنکا توڑ ان سے علیحدہ ہو جاؤ گے۔

بِاللّٰهِ اِنصاف! محمد رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات ان کے اہل بیت، ان کے اصحاب، ان کے دین کے اولیاء، ان کی شریعت کے علماء خلفائے راشدین، بالخصوص صدیق اکبر و فاروق اعظم، ان کی اولاد اجداد خصوصاً شہزادہ گلگول قبا، امام حسین شہید کربلا، رضوان اللّٰہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عزتیں عظمتیں و جاہتیں رفعتیں زائد یا تمہارے آباء و اجداد وغیر ہم کی عزتیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا زائد یا تمہاری ماں؟

اللّٰہ اللّٰہ وہ صدیقہ بنت الصدیق ام المومنین، جن کا محبوب سید المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آبیہا و علیہا وسلم ہونا، آفتاب نیم روز سے روشن تر۔ وہ صدیقہ جن کی تصویر، بہشتی حریر میں، روح القدس خدمت اقدس سید المرسلین صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر لائیں۔ وہ ام المومنین کہ جبریل امین یاں فضل مبین انہیں سلام کریں اور ان کے کاشانہ عزت میں بے اذن لئے حاضر نہ ہو سکیں۔ وہ صدیقہ کہ اللّٰہ عزوجل وحی نہ بھیجے ان کے سوا، ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے لحاف میں۔ وہ ام المومنین کہ مصطفیٰ صلی اللّٰہ علیہ وسلم اگر کسی سفر میں ان کے تشریف لے جائیں، ان کی یاد میں وَاَعْرُوسًاۙ فَرَمَائِسَ۔ وہ صدیقہ کہ یوسف صدیق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برادرت کی شہادت، اہل زلیخا سے ایک بچہ ادا کرے۔ بتول مریم کا تبریہ روح اللّٰہ و کلمۃ اللّٰہ فرمائے۔ مگر ان کی برادرت و



نیز علامت محبت یہ بھی ہے کہ شان اقدس میں جو الفاظ استعمال کئے جائیں ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ کوئی ایسا لفظ جس میں سو ادبی یعنی کم تعظیمی کی بو بھی ہو کبھی زبان پر نہ لائے۔

شفا شریف امام قاضی عیاض میں ہے کہ ایک جوان نیک مشہور سے کسی نے کہا چپ رہ کہ تو امی (ناخواندہ ناواقف) ہے اس کی زبان سے نکلا "کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی نہ تھے۔ فَكَفَرَهُ النَّاسُ اس پر علماء نے اسے کافر کہا۔ وہ ڈرا اور شیمان ہوا۔ امام ابوالحسن قالیسی نے فرمایا "کافر کہنا تو ٹھیک نہیں۔ ہاں یہ اس کی غلطی اس کا قصور ہے کہ اپنے امی ہونے کو حضور کے امی ہونے پر قیاس کر بیٹھا) كَوْنُ النَّبِيِّ اُمِّيًّا اِيَّةٌ لَهُ دَكُوْنُ هَذَا اِقْتِيًا نَقِيصَةً فِيهِ وَجِهَالًا۔ امی ہونا حضور کے لئے معجزہ ہے اور اس کا امی و ناخواندہ ہونا اس میں عیب و جمالت ہے۔ سزا کا مستحق تھا اب کہ نادم ہوا چھوڑ دیا جائے۔

قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔

"اے ایمان والو! راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں۔ اور پہلے ہی سے بغور سنو۔ اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔"

شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے یا تبلیغ کرتے ہوئے اور لوگ کوئی بات سن نہ پاتے تو وہ قدرۃ دوبارہ آپ کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتے اور عرض کرتے رَاعِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ اس کے معنی یہ تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائے یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجئے۔ لیکن یہود کی عبرانی زبان میں یہی لفظ ایسے معنی میں مستعمل ہوتا تھا جس میں گستاخی اور بے ادبی پائی جاتی تھی۔ یہود نے اسے موقع کے لئے ازراہ شرارت رَاعِنَا استعمال کرنا شروع کیا تھا اس کے اصل معنی تو صرف اس قدر ہیں کہ "ہماری رعایت کیجئے" لیکن "رَاعِنَا" کی عین کو ذرا کھینچ کر پڑھنے سے اس کے معنی میں ایک گستاخانہ مفہوم پیدا ہو جاتا تھا۔ عام مسلمان یہود کی اس شرارت سے غافل بنے خبر خالی الذہن خود بھی بعض اوقات یہ لفظ بولنے

لگتے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کی اس اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا "اے دشمنانِ خدا تم پر اللہ کی لعنت۔ اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن مار دوں گا۔" یہود نے کہا۔ ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔" اس پر آپ رنجیدہ ہو کر خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے یہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں راعنا کہنے کی ممانعت فرمادی گئی اور اس معنی کا دوسرا لفظ نظر نہ رکھنے کا حکم ہوا۔ اس کے معنی میں ہم پر بگاہِ التفات فرمائے۔ ہم پر نظر کیجئے "اور پہلوئے ذم سے خالی ہے۔ آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہے کہ مرتبہ رسالت کا ادب، صرف معنوی ہی حیثیت سے نہیں، لفظی حیثیت سے بھی ضروری ہے۔ اور انبیائے کرام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں کلماتِ ادب، عرض کرنا فرض ہے اور جن الفاظ سے احتمال بھی امانت کا نکلنا ہے ان سے احتیاط لازم ہے اور جس کلمہ میں ترکِ ادب کا شائبہ بھی ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں تو ایسے الفاظ پر حد واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام ظاہر ہے کہ سو ادب کے قصد و ارادہ سے یقیناً قطعاً بالکل بری تھے ممانعت جو کی گئی وہ یہود سے گستاخوں کی نیت پر حکم کر کے کی گئی۔ اور آیت کریمہ کے ان الفاظ میں کہ **ذَلِكُمْ فِي عَذَابٍ مُّبِينٍ** اس کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاءِ علیہم السلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔

پھر **وَاسْمَعُوا** کا حکم دے کر یہ بھی تنبیہ فرمادی کہ جب میرا رسول تیس کچھ سنا رہا ہو تو ہر بات ہمہ تن گوش ہو کر ان کے ارشاداتِ ادب و تعظیم کے ساتھ سنو تاکہ یہ عرض کرنے کے ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور توجہ فرمائیں۔ کیونکہ یہ بھی شانِ دربارِ نبوت کے مناسب نہیں کہ ایک ایک بات تم بار بار پوچھتے رہو۔ یہ کمالِ ادب اور انتہائی تعظیم ہے جس کی تعلیم عرش و فرش کے مالک نے غلامانِ مصطفیٰ علیہ السلام کو دی۔ اب جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بڑے جان کی حیثیت دیتے ہیں یا اپنا جیسا بشر ثابت کرنے میں اپنی ساری قابلیتیں صرف کر دیتے ہیں وہ وہ اپنے انجام پر خود ہی غور کر لیں۔ شعر

ادب کا ہیبت نیر آسماں از عرضِ نازک تر

نفسِ گم کردہ می آید جنید و یازید ای جا

عقیدہ: محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور اقدس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و احوال و افعال علماء کرام اور قابل اعتماد سنی مسلمانوں سے دریافت کرے اور چھوٹے سے چھوٹے معاملہ میں بھی ان کی پیروی کرے۔

تشریح: اسی قبیل سے ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و محاسن اور محامدہ کمالات کے بیان کرنے، سننے اور سنانے کے لئے محافل میلاد مبارک کا انعقاد جو سینکڑوں سال سے تمام اسلامی ممالک میں علماء فضلاء صلحاء اور عوام و خواص اہلسنت میں مروج و معمول ہے۔

مجلس میلاد آخر وہی شے ہے جس کا حکم رب العزت دے رہا ہے کہ **وَأَقْبَابِنَعْمَةً رَبِّكَ فَحَدِّثْ** اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ مجلس مبارک کی حقیقت، مجمع مسلمین کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری فضائل جلیلہ و کمالات جمیلہ کا ذکر سنانا ہے۔ طعام و شیرینی کی تقسیم اس کا جز حقیقت نہیں۔ نہ ان میں کچھ جرم۔ اول دعوت الی الخیر ہے اور وہ بے شک خیر۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے **وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اس سے زیادہ** کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے۔ اور ثانی یعنی اطعام طعام یا تقسیم شیرینی، بروصلہ و احسان و صدقہ ہے اور سب شرعاً محمود۔ ان مجالس کے لئے سنی مسلمان ہی نہیں ملائکہ بھی تداعی کرتے اور جہاں مجلس شریف ہوتے دیکھی ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آؤ یہاں تمہارا مطلوب ہے۔ پھر وہاں سے آسمان تک چھا جاتے ہیں تم دنیا کی سٹھائی بانٹتے ہو ادھر سے رحمت کی شیرینی تقسیم ہوتی ہے وہ بھی ایسی عام کہ ناستحی کو بھی حصہ دیتے ہیں **هُوَ الْقَوْمُ الْيَشْتَقِي جَلِيْسُهُمْ** ان لوگوں کے پاس بیٹھنے والا بھی بد بخت نہیں رہتا۔

یہ مجلس آج سے نہیں آدم علیہ السلام نے خود کی اور کرتے رہے اور ان کی اولاد میں برابر ہوتی رہی۔ جب زمانہ وصال شریف کا قریب آیا شیخ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد فرمایا **اے فرزند میرے بعد تو خلیفہ ہوگا۔ عَمَادُ تَقْوَى وَعُرْدَةُ دُنْقَى كَوْنَهُ جَهْرًا نَعْرُودَةً وَتَقَى** محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کو یاد کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے ہر وقت ہر گھڑی ان کی یاد میں مشغول ہیں۔



غرض میلاد شریف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال سننے اور سنانے کا اعلیٰ ذریعہ اور بہترین وسیلہ ہے۔

اور قرأت میلاد شریف میں ذکر ولادت شریف کے وقت جو قیام کیا جاتا ہے وہ بھی بے شک مستحب و مستحسن و مندوب ہے جس کے فاعل کو ثواب کثیر و فضل کبیر حاصل ہوگا کہ وہ تعظیم ہے ان نبی کریم صاحب خلق عظیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جن کی برکت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ظلمات کفر سے، نور ایمان کی طرف لایا اور ان کے سبب ہیں دوزخ جہنم سے بچا کر بہشت معرفت و یقین میں داخل فرمایا۔ فصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ و حذیبہ و بارک و سلم۔ (افادات رضویہ)

نیز علامت محبت یہ بھی ہے کہ حضور کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندانہ کرے۔ یعنی عام آدمیوں کو جس طرح ان کا نام لے کر پکارا جاتا ہے اور کسی خاص ادب و احترام کا اہتمام نہیں کیا جاتا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ندانہ کی جائے۔ اس باب میں ان کا انتہائی ادب و احترام ملحوظ رکھنا چاہیے کیونکہ ذرا سی بے ادبی بھی مواخذہ اخروی سے نہ بچ سکے گی۔ تشریح قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے۔

لَا تَجْحَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا اٰیۃ

مفسرین کرام فرماتے ہیں دُعَاءُ الرَّسُولِ میں مصدر کی اضافت فاعل کی طرف مانی جائے تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ رسول کا بلانا، عام لوگوں کا بلانا نہیں کہ جسے بلایا جائے جی چاہے آئے اور جی نہ چاہے نہ آئے بلکہ رسول کا بلانا ایک حاکمانہ حیثیت رکھتا ہے تو جو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں اس پر اجابت و تعمیل واجب ہو جاتی ہے اور ادب سے حاضر ہونا لازم ہو جاتا ہے۔ یہیں مجلس نبوی میں اور قریب حاضر ہونے کے لئے اجازت طلب کرے اور واپسی کا ارادہ ہو تو اجازت سے ہی واپس ہو۔ اور دُعَاءُ الرَّسُولِ میں مصدر کی اضافت مفعول کی جانب مانی جائے تو اس اعتبار سے معنی یہ ہوں گے کہ "اے لوگو رسول اللہ کو اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیا کرتے ہو مثلاً ان کا نام لے کر محض یا محمد کہہ کر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرو تو ادب و تکریم اور توقیر و تعظیم کے ساتھ

آپ کے معظم القاب سے 'نرم آواز اور متواضعانہ و منکسرانہ لہجہ میں یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر۔'

تورب عزوجل نے اس امت مرحومہ پر اس نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام پاک لے کر خطاب کرنا ہی حرام ٹھہرایا۔ ابو نعیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں راوی کہ پہلے حضور کو یا محمد یا ابوالقاسم کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعظیم کو اس سے نہی فرمائی جب سے صحابہ کرام یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہتے۔ اور واقعی محل انصاف ہے جسے اس کا مالک و مولیٰ تبارک و تعالیٰ نام لے کر نہ پکارے غلام کی کیا مجال کہ راہ ادب سے تجاوز کرے۔ بلکہ محققین نے فرمایا اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم فرمائی جیسے دعائے کلمہ اِنِّی تَوَجَّهْتُ بِکَ الِی رَبِّی تَاہِمُ اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے حالانکہ الفاظ دعا میں حتی الوسع تغیر نہیں کی جاتی۔ (تجلی الیقین وغیرہ)

نیز علامات محبت سے یہ بھی ہے کہ اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روضہ شریف کے سامنے چار ہاتھ کے فصلے سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہو کر، سر جھکائے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرے اور جہاں تک ممکن ہو اور زبان یاری دے اور مالک و کسل نہ ہو۔ صلوٰۃ و سلام کی کثرت کرے بہت قریب نہ جائے۔ یہ ان کی رحمت کیا کم ہے کہ تم کو اپنے حضور بلایا اپنے مواجہہ اقدس میں (روبرو) جگہ بخشے۔ ان کی نگاہ کریم اگرچہ ہر جگہ تمہاری طرف تھی اب خصوصیت اور اس درجہ قرب کے ساتھ ہے۔ ولید الحمد۔

اور خبردار خبردار جالی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو کہ خلاف ادب ہے اور نہ ادھر ادھر دیکھو۔ حیف کہ ان کی نظر کرم تم پر ہو اور تمہارا دھیان کہیں اور۔ اور خبردار خبردار آواز کبھی بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا اکارت جلے۔

تشریح: مولائے کریم ارشاد فرماتا ہے یَاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ الْاٰیۃ

یعنی اے ایمان والو! اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نبی کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت

نہ ہو جائیں۔

اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلال و اکرام اور ادب و احترام تعلیم فرمایا گیا۔  
 فتمائے کرام نے آیہ کریمہ کے ذیل میں بیان فرمایا کہ  
 (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اپنی آواز پست رکھیں۔ آپ کے حضور زور سے  
 گفتگو نہ کی جائے۔ نہ اپنی بات کو اس طرح بالا کیا جائے جس سے ارشاد والا کی تردید نکلتی ہو۔  
 (۲) دُرُشت، لڑائی جھگڑا اور ہر قسم کی بے ادبی آپ کے مواجہہ میں ناجائز و حرام ہے (۳) زیادہ  
 بک بک آپ کی موجودگی میں ممنوع ہے (۴) آپ کے حضور میں گستاخ، بیباک بن جانا یا خائف  
 و بادب نہ رہنا، ناجائز ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ قول و عمل جس کا وجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
 کے ادب و تعظیم و توصیف و تکریم کے برخلاف ہو یا آپ کے لئے طبعاً ناگواری و انقباض کا باعث  
 بن سکتا ہو اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا و سوراہی کا پہلو نکلتا ہے  
 تمام اعمال کے اکارت جانے کا باعث ہے اس لئے قاعدہ یہی ہے کہ عملاً ہر حال میں آداب  
 مجلس نبوی ملحوظ رکھیں۔

یہ وہ آداب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں اور آپ  
 کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو سکھائے گئے ان کا منشا یہ تھا کہ حضور کے ساتھ ملاقات  
 اور بات چیت میں اہل ایمان، آپ کا انتہائی احترام ملحوظ رکھیں۔ کسی شخص کی آواز آپ کی آواز سے  
 بلند تر نہ ہو۔ آپ سے خطاب کرنے ہوئے لوگ یہ بھول نہ جائیں کہ وہ کسی عام آدمی یا اپنے برابر  
 والے سے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول محبوب رب العالمین سے مخاطب ہیں۔ اس لئے عام آدمیوں  
 کے ساتھ گفتگو اور آپ کے حضور گفتگو میں نمایاں فرق ہونا چاہیے۔

یہ آداب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس کے لئے سکھائے گئے تھے اور  
 ان کے مخاطب وہ لوگ تھے جو زمانہ اقدس میں موجود تھے لیکن بعد کے لوگوں کو بھی ایسے تمام  
 مواقع پر یہی آداب ملحوظ رکھنے چاہئیں۔ جب آپ کا ذکر ہو رہا ہو یا آپ کا کوئی حکم سنایا جائے  
 یا آپ کی احادیث بیان کی جائیں تو ادب و احترام میں خلل انداز کوئی قول کوئی فعل کوئی حرکت  
 حاضرین سے سرزد نہ ہونی چاہیے۔

نیز علامت محبت سے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد امجاد سادات کرام کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ اپنے خاص مالوں سے بطور ہدیہ ان حضرات علیہ کی خدمت کریں اور اس خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں وہ وقت یاد کریں جب ان حضرات کے جد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ظاہری آنکھوں کو بھی کوئی بلجا و ماویٰ نہ ملے گا۔ کیا پسند نہیں آتا کہ وہ مال جو انہیں کے صدقے میں، انہیں کی سرکار سے عطا ہوا ہے اور جسے چھوڑ کر پھر ویسے ہی خالی ہاتھ، زیر زمین جانے ولے ہیں، ان کی خوشنودی کے لئے ان کے پاک مبارک بیٹوں پر، اس کا ایک حصہ صرف کر دیں کہ اس سخت حاجت کے دن، اس جواد کریم رؤف و رحیم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کے بھاری انعاموں، عظیم اکراموں سے مشرف ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”جو میری اہلبیت میں سے کسی کے ساتھ سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کا صلہ عطا فرماؤں گا۔“

اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قیامت کا دن وہ سخت ضرورت، سخت حاجت کا دن، ہم جیسے محتاج اور صلہ عطا فرمانے والے کون، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب التاج خدا جانے کیا کچھ دیں اور اور کیا کچھ نہال فرمادیں۔ ایک نگاہ لطف ان کی، جملہ مہمات دو جہاں کو بس بے دقتاوی رضویہ (مسئلہ ضروریہ: زکوٰۃ سادات کرام اور تمام نبی ہاشم پر، حرام قطعی ہے جس کی حرمت پر ائمہ مذاہب کا اجماع قائم ہے۔ نہ انہیں لینا جائز نہ دینا جائز۔ نہ ان کے دیئے زکوٰۃ ادا ہو۔ تو اس میں گناہ کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ زکوٰۃ مال کا میل ہے۔ ان پاک لطیف سحرے اہلبیت کے شان اس سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے کہ ایسی چیزوں سے آلودگی کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(دقتاوی رضویہ)

نیز علامت محبت یہ بھی ہے کہ جس چیز کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ علاقہ ہو۔ حضور کی طرف منسوب ہو۔ حضور نے اسے چھوا ہو یا حضور کے نام سے پہچانی جاتی ہو ان سب کی تعظیم کی جائے۔

تشریح: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آثار مبارکہ و تبرکات شریفہ کی تعظیم دین مسلمان کا فرض عظیم ہے۔ تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن عظیم میں ہے جس کی برکت سے نبی اسرائیل ہمیشہ کافروں پر فتح پاتے، اس میں کیا تھا؟ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ. موسیٰ

دہارون علیہم الصلوٰۃ والسلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات سے کچھ بقیہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی نعل مبارک اور ہارون علیہ السلام کا غمامہ وغیرہ تھا۔ ولذا تو اثر سے ثابت کہ جس چیز کو کسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی علاقہ بدن اقدس سے چھوڑنے کا ہوتا ہے صحابہ و تابعین و ائمہ دین ہمیشہ اس کی تعظیم و حرمت اور اس سے طلب برکت فرماتے آئے۔ اور دین حق کے معظّم اماموں نے تصریح فرمائی کہ اس کے لئے کسی سند کی بھی حاجت نہیں بلکہ جو چیز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک سے مشہور ہو اس کی تعظیم شعائر دین سے ہے۔ یہاں تک کہ برابر ائمہ دین و علمائے معتمدین نعل اقدس کی شبیہ و مثال یعنی نقشہ مبارک کی تعظیم فرماتے رہے اور اس سے صد ہا عجیب مددیں پائیں اور اس کے باب میں مستقل کتابیں تصنیف فرمائیں۔ جب نقشہ کی یہ برکت ہے تو خود نعل اقدس کی عظمت و برکت کو خیال کیجئے۔ پھر ردائے اقدس و عمامہ مبارک پر نظر کیجئے۔ پھر ان تمام آثار و تبرکات شریفہ سے ہزاروں درجے اعظم داعی و اکرم و ادنیٰ، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناخن پاک کا تراشہ ہے کہ یہ سب ملبوسات تھے اور وہ جزو بدن والا ہے۔ اور اس سے اجل و اعظم و ارفع و اکرم حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ریش مبارک کا موئے مطہر ہے۔ مسلمان کا ایمان گواہ ہے کہ مفت آسمان و زمین ہرگز اس ایک موئے مبارک کی عظمت کو نہیں پہنچتے۔

یوہیں روضہ منورہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نقل صحیح بلا شبہ معظّمات دینیہ سے ہے۔ اس کی تعظیم و تکریم بروجہ شرعی ہر مسلمان صحیح الایمان کا مقتضائے ایمان ہے

ع اے گل بتو خربندم تو بوئے کسے داری

اور جب حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آثار شریفہ کی برکت و حرمت مُسَلَّم اور پُر ظاہر کہ اولیاء و علماء حضور کے ورثاء ہیں تو ان کے آثار میں برکت کیوں نہ ہوگی۔ برکت آثار بزرگان دین سے انکار، آفتاب روشن کا انکار ہے۔ اور یہ کہنا کہ آج کل اکثر لوگ مصنوعی تبرکات لئے پھرتے ہیں بلا ثبوت شرعی ناجائز و گناہ و حرام ہے کہ اس کا منشا صرف بدگمانی ہے اور بدگمانی سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں۔ (شفاء الوالد)

نیز محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ جب مُؤَدَّنُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ كَيْ

تو سننے والا درود شریف پڑھے اور مستحب ہے کہ آنکھوں کو پورے دے کر آنکھوں سے لگائے اور کہے قُرَّةُ عَيْنِي بِكَ يَا حَبِيبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِالسَّمِيْعِ وَالْبَصِيْرِ

تشریح: حضور پر نور یوم النشور صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک اذان میں سنتے وقت آنکھوں سے یا انگشتان شہادت چوم کر آنکھوں سے لگانا قطعاً جائز ہے جس کے جواز پر دلائل کثیرہ قائم ہیں۔ اگر کوئی خاص دلیل نہ ہوتی تو ممانعت پر شرع سے دلیل نہ ہونا، جواز کے لئے کافی دلیل تھا۔ جو ناجائز بتائے ثبوت دینا اس کا ذمہ ہے۔ پھر یہاں تو حدیث وفقہ وارشاد علماء اور قدیم سے سلف صلحاء کا عمل سب کچھ موجود ہے۔ کتب فقہ میں اس فعل کے مستحب و مستحسن ہونے کی صاف تصریح آئی۔ مولانا علی قاری نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی اس فعل کا ثبوت عمل کو بس ہے۔ دلیلی نے مسند الفردوس میں حدیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب اس جناب نے موزن کو اشلہ ان محمد رسول اللہ کہتے سنا، دعا پڑھی اور دونوں کلمے کی انگلیوں کے پورے، جانب زیرین سے چوم کر آنکھوں سے لگائے اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا اس پر میری شفاعت حلال ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں ہے اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں۔ (منیر العینین)

عقیدہ ۱۰: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی قول و فعل و عمل و حالت کو جو بہ نظر حقارت دیکھے کافر ہے۔ اور اسی قبیل سے ہے حضور کو اپنا جیسا بشر کہنا۔

تشریح: علمائے کرام تصریح فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب منسوب کسی چیز کی توہین کرے یا عیب لگائے مثلاً آپ کے موئے مبارک کو تحقیر سے یاد کرے یا آپ کے لباس مبارک کو گندہ اور میلا بتائے یا حضور کے ناخن بڑے بڑے کہے یہ کفر ہے بلکہ اگر کسی کے اس کہنے پر کہ حضور کو کدو پسند تھا کوئی یہ کہے کہ مجھے پسند نہیں تو بعض علماء کے نزدیک کافر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس حیثیت سے اسے ناپسند ہے کہ حضور کو پسند تھا تو وہ کافر ہے۔ یونہی کسی نے کہا کہ "حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانا، تناول

فرمانے کے بعد، تین بار انگشت ہائے مبارک چاٹ لیا کرتے تھے "اس پر کسی نے کہا یہ ادب کے خلاف ہے تو یہ کہتا علماء کے نزدیک کفر ہے۔ یوں ان کی جناب پاک میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو دوسروں کی نگاہ میں آپ کی بسکی کے موجب ہوں یا ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وقعت کم ہو یا ان کے باعث حضور کی عزت و توقیر کی امتیازی شان میں فرق آئے مثلاً انہیں عرب کے ریگستان کا ایک گڈریا کہنا، جیسا کہ مغرب زدہ طبقہ بیباکی سے کہہ دیا کرتا ہے یہ بھی کفر ہے۔ یوں ایک گمراہ فرقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تحقیر کے لئے آپ کو خدا کا ایلچی کہتا ہے یہ سب گمراہیاں اور کفر و ضلالت کی باتیں ہیں۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ (شفاد شریف وغیرہ)

رہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بشریت تو اس سے کس مسلمان کو انکار ہو سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ بشر ہیں مگر عالم ملکوی سے لاکھوں درجہ اشرف۔ اور جسم انسانی رکھتے مگر ارواح ملائکہ سے لا انتہا لطف۔ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں لَسْتُ كَمِثْلِكُمْ فِي تَمَّارِي طَرِحَ نِيْسِي هُوں اور ایک روایت میں ہے لَسْتُ كَمِثْلِكُمْ فِي تَمَّارِي هَيْتِي پر نہیں ہوں اور ایک روایت ہے اَنْتُمْ مِثْلِي تَمَّ فِي كُوْنِ مَجْدٍ جِيْسَا هُو۔ تو وہ خاک بسر سر بسر بد نصیب ہے جو سید عالم و سرور اکرم کو اپنا جیسا بشر سمجھتا ہے۔ کیا وہ وجود جس کا بول و براز پاک، جس کے لعاب سے تشنہ لب سیراب، جس کا غسالہ، عشاق کے لئے رشک آب حیات وہ اسی قابل ہے کہ وہا بیت کا پروردہ اپنی ناپاک جان کو ان کے مقابل لائے اور ان سے مماثلت کے گیت گائے۔ نہیں اور یقیناً نہیں۔

### (افادات رضویہ)

اور ظاہری اور جسمانی مماثلت ہی پر نگاہ ہے تو فرعون و شداد اور فرد اور نہ ہی تو نیرید پلید کی مماثلت سے کیوں انحراف ہے آخر یہ بھی اس زمرہ میں آتے ہیں یا نہیں۔

اور خلاصہ تحقیق اس باب میں یہ ہے کہ درجات عقل مختلف ہیں اور انسانی مزاج بھی متفاوت۔ بعض ایسے بد دماغ ہوتے ہیں کہ واضح سے واضح تر حقیقت کو قبول کرنا ان کے لئے دشوار سے دشوار تر ہوتا ہے بلکہ اس سے بھاگنے اور نفرت کو اپنا مقصود بناتے ہیں ان کے برعکس بعض عقلیں ایسی اندھی اور ندھی ہوتی ہیں کہ ہر صاحب کمال کے سامنے سمر بسجود ہو کر اسے اپنا معبود بنا لیتی ہیں۔ دربارہ نبوت بھی یہ اصول کا فرما رہا کہ کفار و مشرکین کے معاندینہ

نے اس حقیقت کو تسلیم ہی نہ کیا جبکہ بعض پیروان مذہب نے انبیاء و مرسلین کو افراد انسانی سے جدا ایک حقیقت مان کر انہیں خدایا خدا کا بیٹا بنا لیا۔ جبکہ ہر نبی و رسول نے دعوت توحید دی تو بر ملا اس کا اظہار بھی فرمایا کہ ہر کمال و خوبی کے باوجود وہ خدا کے بندے ہیں۔ مخلوق ہیں اور خدائے بے نیاز کے محتاج تو وہ ذات اقدس جو جمال و جلال الہی کا مظہر اتم بن کر دنیا میں جلوہ گر ہوئی بعینہ تھا کہ ان کے متعلق بھی لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر انہیں خدایا خدا کا بیٹا بنا بیٹھیں اس لئے قرآن کریم نے انہیں تعلیم دی کہ قل انما انما بشر مثلکم الایہ علمائے کرام نے تحریر فرمایا ہے یہ اعلان اظہار تواضع کے لئے ہے تاکہ وہ فتنہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور کلمہ بھی ارشاد فرما دیا کہ لوجی الی تاکہ اندھی اندھی عقل والے ان کے کمالات ہی کا انکار نہ کر بیٹھیں کہ یہ ایمان کے معنائی ہے تو ظاہری صورت بشری کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں کہ آپ پر بشری اعراض و امراض طاری ہوتے ہیں۔ اور صورت خاصہ میں کوئی بھی آپ کا مثل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و صورت میں بھی سب سے اعلیٰ و بالا کیا اور حقیقت و روح و باطن کے اعتبار سے تو تمام انبیاء اوصاف بشر سے اعلیٰ ہیں جیسا کہ شفاء قاضی عیاض میں ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکوٰۃ میں فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے اجسام و ظواہر تو حد بشریت پر چھوڑے گئے اور ان کے ارواح و باطن بشریت سے بالا اور ملا اعلیٰ سے متعلق ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں فرمایا کہ آپ کی بشریت کا وجود اصلانہ رہے اور غلبہ انوار حق آپ پر علی الدوام حاصل ہوئے۔ ہر حال آپ کی ذات و کمالات میں آپ کا کوئی بھی مثل نہیں۔ اس آیت کریمہ میں آپ کو اتنی ظاہری صورت بشریہ کے بیان کا اظہار تواضع کے لئے حکم فرمایا گیا۔ یہی فرمایا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے (خازن) خلاصہ کلام یہ کہ کسی کو یہ جائز نہیں کہ حضور کو اپنے مثل بشر کہے کیونکہ جو کلمات اصحاب عزت و عظمت، یہ طریق تواضع فرماتے ہیں ان کا کہنا دوسروں کے لئے روانہ نہیں ہوتا۔ دوم یہ کہ میں کو اللہ تعالیٰ نے فضائل جلیلہ و مراتب رفیعہ عطا فرمائے ہوں اس کے ان فضائل و مراتب کا ذکر چھوڑ کر ایسے وصف عام سے ذکر کرنا جو ہر کہ دمہ میں پایا جائے ان کے کلمات نہ ماننے کا مشعر ہے۔ سوم یہ کہ قرآن مجید میں جا بجا کفار کا طریقہ بتایا گیا ہے۔



وہ انبیاء کو اپنے مثل بشر کہتے تھے اور اسی سے گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ پھر اس کے بعد آیت یوحیٰ الیٰ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخصوص بالعلم اور مکرم عند اللہ ہونے کا بیان ہے (تو کیا یہ نابینا ہیں کہ انہیں نظر نہیں آتا مگر کور باطنی کا کیا علاج)

(تفسیر خزائن العرفان وغیرہ)

**عقیدہ:** حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ عزوجل کے نائب مطلق ہیں۔ تمام جہاں حضور کے تحت تصرف کر دیا گیا۔ جو چاہیں کریں جسے جو چاہیں دیں جس سے جو چاہیں واپس لیں۔ تمام جہاں میں ان کے حکم کا کوئی پھیرنے والا نہیں۔ تمام جہاں ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں تمام آدمیوں کے مالک ہیں جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم ہے۔ تمام زمین ان کی ملک ہے اور تمام جنت ان کی جاگیر۔ ملکوت السموات والارض علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی خصوصیات سے یہ امر کہ آپ دوسروں کے ملک میں بلا اذن چاہیں تصرف فرمائیں۔

**تشریح:** طبرانی معجم کبیر میں بسند حسن سینا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آفتاب کو حکم دیا کہ کچھ دیر چلنے سے باز رہ۔ وہ فوراً ٹھہر گیا۔ علمائے کرام فرماتے ہیں اس حدیث حسن کا واقعہ، اس حدیث صحیح کے واقعہ عظیم سے جدا ہے جس میں ڈوبا ہوا سورج حضور کے لئے پلٹا ہے یہاں تک کہ مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے نماز عصر کی خدمت گزاروں کو محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم میں قضا ہوئی تھی ادا فرمائی۔ امام اجل طحاوی وغیرہ اکابر نے اس حدیث کی تصحیح کی۔

**الْحَمْدُ لِلَّهِ** اسے خلافت رب العزت کہتے ہیں کہ ملکوت السموات والارض میں ان کا حکم جاری ہے۔ تمام مخلوقات الٰہی کو ان کے لئے حکم اطاعت و فرمانبرداری ہے وہ خدا کے ہیں اور جو کچھ خدا کا ہے سب ان کا ہے۔ وہ محبوب اجل و اکرم و خلیفۃ اللہ الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیتے تھے گوارے میں چاندان کی غلامی بجالاتا۔ بعد صراشارہ فرماتے اس طرف جھک جاتا (بیہقی) جب دودھ پیتوں کی یہ حکومت قاہرہ ہے تو اب کہ خلافت اللہ اکبریٰ کا مہروز عین شباب پر ہے آفتاب کی کیا جان کہ ان کے حکم سے سر تابی کرے۔ آفتاب و

ماہتاب درکنار، واللہ العظیم ملائکہ مدبرات الامر کہ تمام نظم و نسق عالم جن کے ہاتھوں پر ہے وہ بھی محمد رسول اللہ خلیفۃ اللہ الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ حکم سے باہر نہیں نکل سکتے کہ وہ تمام مخلوق انہی تمام اہل عالم کی طرف رسول بھیجے گئے اور اہل عالم میں جمیع ملائکہ داخل ہیں۔

سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر گھوڑوں کے ملاحظہ میں قضا ہوئی تو آپ نے ملائکہ مولکین شمس کو حکم دیا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس لاؤ وہ حسب الحکم واپس لائے یہاں تک کہ مغرب ہو کر پھر عصر کا وقت ہو گیا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ (معالم التنزیل)

سیدنا سلیمان علیہ السلام نوابان بارگاہ رسالت علیہ افضل الصلوٰۃ والتحیۃ سے ایک جلیل القدر نائب ہیں۔ پھر حضور کا حکم تو حضور کا حکم ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ان کا حکم کا کوئی پھیرنے والا نہیں اور کیونکر کوئی ان کا حکم پھیر سکتا ہے کہ حکم الہی کسی کے پھیرنے نہیں بھرتا اور یہ جو کچھ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔

۲) سیدی امام اجل محمد بوسیری قدس سرہ، اپنے قصیدہ بردہ شریف میں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں:-

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَصَرَ تَرْتَهَا  
وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللُّوْحِ وَالْقَلَمِ

یا رسول اللہ! دنیا و آخرت دونوں، حضور کے خوانِ جود و کرم سے ایک حصہ ہیں۔ اور لوح و قلم کے تمام علوم جن میں ماکان و مایکون (جو کچھ ہوا اور جو کچھ قیام قیامت تک ہونے والا ہے) ذرہ ذرہ بالتفصیل مندرج ہے حضور کے علوم سے ایک پارہ ہیں۔

اور حضرت شیخ محقق، شیخ شیوخ علماء السند مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ القوی کے قصیدہ نعتیہ میں کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ہے۔

ایک شعریوں ہے:-

اگر خیریت دنیا و عقبی آرزو داری  
بدرگاہش بیا و ہر چہ میخوای، تمنا کن

ہاں ہاں اس مالک الملک شہنشاہ قدیر جل جلالہ نے اپنے نائب اکبر خلیفۃ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانوں کی کنجیاں، زمین کی کنجیاں، نفع کی کنجیاں، جنت کی کنجیاں، نار کی کنجیاں، برشے کی کنجیاں عطا فرما کر تمام جہاں حضور کے تحت تصرف کر دیا کہ جو چاہیں کریں جسے جو

چاہیں دیں اور جس سے جو چاہیں واپس لیں۔ شعر

منکر اپنا اور حامی ڈھونڈ لیں  
آپ ہی ہم پر تو رحمت کیجئے

فائدہ :- الحمد للہ یہ عقیدے ہیں ائمہ دین کے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب عالم نایب میں جن سے صفات ظاہر ہوتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے حضور کو مختار کل بنایا اور آپ کو عام قدرت بخشی ہے کہ خدا کے خزانوں سے جو کچھ چاہیں عطا فرمادیں۔ حضور ہر قسم کی حاجت روا فرما سکتے ہیں۔ دنیا و آخرت کی سب مرادیں حضور کے اختیار میں ہیں۔ یہ خلف اس سرکش طاغی کے جو ایمان کی آنکھ پر کفران کی ٹھیکری رکھ کر کہتا ہے کہ جس چیز کا نام محمد یا علی ہے وہ کس چیز کا مختار نہیں۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ (الامن والاعلیٰ)

مسلمانو! ایک دنیا کے حاکم کا نائب کیوں کا گورنر و صوبیدار، اس کی طرف سے قانونی طور پر سیاہ و سپید کا مالک ہوتا ہے۔ ہر پست و بلند پر اس کا اختیار ہوتا ہے۔ مگر وہ مجسب محشر آرا، وہ عرش اعظم کی آنکھ کا تارا، وہ دونوں جہاں کے سردار، وہ عرب و عجم کا مختار، جس کے باعث خلق نے خلعت وجود پایا۔ جس کے لئے قدرت نے کارخانہ عالم بنایا۔ جو تمام عالم کے لئے رحمت خدا بن کر آیا، معاذ اللہ اس کی اللہ کے یہاں یہ بے قدری کہ وہ کسی چیز کا اختیار میں رکھتا تو اللہ کا نائب مطلق خداوند قدوس کا خلیفہ اعظم کیا کسی پتھر کا نائب ہے و ماقداروا اللہ حق قدرہ بے دولتوں نے اللہ ہی کی قدر نہ جانی لا الہ الا اللہ، اللہ کا نائب اللہ کی طرف سے، اللہ کے ملک میں پورے تصرف کا اختیار رکھتا ہے جسی تو اللہ کا نائب کہلاتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔

(تجلی الیقین)

عقیدہ کا :- احکام تشریحیہ حضور کے قبضہ میں کر لئے گئے ہیں کہ جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لئے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف فرمادیں۔

تشریح مر امام احمد قسطلانی، مواہب لدنیہ شریف میں فرماتے ہیں من خصصا نفسه صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یخصص قریباً بما شاء من الاحکام۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کریمہ سے ہے کہ حضور شریعت کے عام احکام سے جسے چاہئے، جس حکم سے چاہئے مستثنیٰ فرما دیتے۔ علامہ زرقانی نے شرح میں فرمایا (من الاحکام) و غیر حدیث کہ احکام ہی کی خصوصیت نہیں

حضور جس چیز سے چاہیں، جسے چاہیں خاص فرمادیں صل اللہ علیہ وسلم۔ امام جلیل جلال الدریضی سیوطی نے خصائص کبریٰ شریف میں ایک باب دس فرمایا: باب اِخْتِصَامِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ يَخُصُّ مَنْ شَاءَ بِعَمَلِهِ مِنَ الْأَحْيَاءِ كَمَا هُوَ۔ باب اس بیان کا کہ خاص نبی ہی صل اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب حاصل ہے کہ جسے چاہیں جس حکم سے چاہیں خاص فرمادیں۔ امام قسطلانی نے اس کی نظیر میں پانچ واقعے ذکر کئے اور امام سیوطی نے دس۔ پانچ وہ اور پانچ اور۔ (الامن والاعلیٰ)

امام اہلسنت اعلم حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے فرمایا: "فقیر نے ان زیادات سے تین واقعے ترک کر دیئے اور پندرہ اور بڑھائے اور ان کی احادیث بتوفیق اللہ تعالیٰ جمع کیں کہ جملہ بائیس واقعے ہوئے و اللہ الحمد۔"

پھر ان کی تفصیل اور ہر واقعے پر سے دلیل بیان فرمائی۔ جن کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

- (۱) ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے شش ماہہ بجزی کی قربانی جائز فرمادی (بخاری مسلم)
- (۲) ایک بار عقبہ بن عامر کو اس کی اجازت عطا کی۔ (بخاری مسلم)
- (۳) ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک جگہ نوحہ کرنے کی رخصت بخش دی (مسلم)
- (۴) ایک بار خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کی اجازت فرمادی۔ (ابن مردویہ)
- (۵) یولہی اسمارت بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک دفعہ کی پروانگی عطا کی (ترمذی)
- (۶) اسمارت عمیس کو عدت و فوات کا سوگ معاف اور ان کو اس حکم عام سے مستثنیٰ فرمادیا کہ عورت کو شوہر کی موت پر چار مہینے دس دن سوگ واجب ہے (طبقات ابن سعد)
- (۷) ایک صاحب کو مہر کی جگہ صرف سورت قرآن سکھانا کافی کر دیا (ابن اسکن)
- (۸) حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی کو شہادت کی نصاب کامل کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ خزیمہ جس کسی کے نفع خواہ ضرر کی گواہی دیں ایک انیس کی شہادت میں ہے (مصنف ابن ابی شیبہ تاریخ بخاری) اس سے ثابت ہے کہ حضور نے قرآن عظیم کے حکم عام وَاَشْهَدُوا اِذَا دُعِيَ عَدِلٌ مِنْكُمْ (اور اپنے میں سے دو تہ کو گواہ کر لو) سے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستثنیٰ فرمادیا۔
- (۹) ایک صاحب کے لئے روزہ کا کفارہ خود ہی کھا لینا جائز فرمادیا اور ان سے فرمایا جلانے گھر والوں کو کھادے۔ نیچے کفارے سے کفایت کرے گا اور تیرے بعد اور کسی کو کافی نہ ہوگا

مسلمانوں! گناہ کا ایسا کفارہ کسی نے بھی سنا ہو گا کہ دو من خرے سرکار سے عطا ہوتے ہیں کہ آپ کھا لو کفارہ ہو گیا۔ واللہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت ہے کہ سزا کو انعام سے بدل رہے ہیں۔ ہاں ہاں یہ بارگاہ بکس پناہ اولئک الذین یبدل اللہ یتبایاتہم حسنات کی خلافت کبریٰ ہے ان کی ایک نگاہ کرم، کبائر کو حسنات کر دیتی ہے جب تو ارحم الراحمین جل جلالہ نے گناہگاروں کو خطا واروں تباہ کاروں کو ان کا دروازہ بتایا کہ **ذَلُّوا فَتَلَّوْا اَنْفُسَهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُ ذٰلِكَ الْاٰیٰةُ لِّلَّذٰلِمِْنَ اِنْ هُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ** دربار میں حاضر ہو کر معافی چاہیں اور توشفاعت فرمائے تو خدا کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ واللہ تبارک و تعالیٰ

(۱۰) ایک صاحب کو جوانی میں ایک بی بی کا دودھ پینے کی اجازت دی اور اس سے حرمت رضاعت ثابت فرمادی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (ابن ماجہ وغیرہا)

جوان آدمی کو اول تو عورت کا دودھ پینا ہی کب حلال ہے اور پٹے تو اس سے پھر رضاعی نہیں ہو سکتا مگر حضور نے ان حکموں سے سالم کو مستثنیٰ فرمادیا یہ سالم ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے اس وقت مرد جوان تھے اور جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے۔ صحیح مسلم و سنن نسائی و ابن ماجہ و مسند امام احمد میں زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا۔ ابو حذیفہ کی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نے عرض کی یا رسول اللہ (سالم) غلام آزاد کردہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) میرے سامنے آتا جاتا ہے اور وہ جوان ہے۔ ابو حذیفہ کو یہ ناگوار ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **اَرْضِعِيْهِ حَتّٰی یَدْخُلَ عَلَیْكَ** تم سے دودھ پلا دو کہ بے پردہ تمہارے پاس آنا جائز ہو جائے ام المؤمنین ام سلمہ وغیرہ باقی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے فرمایا "مَا نَزَىٰ هٰذِهِ الْاَرْحَصَةَ اَرْحَصَهَا" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا لہ خاصۃ ہمارا ہی اعتقاد ہے کہ یہ رخصت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص سالم کے لئے فرمادی تھی۔"

(آج اگر کوئی ایسا کرے تو اس سے حرمت رضاعت ہرگز ثابت نہ ہوگی)

(۱۱) حضرت عبدالرحمن بن عوف و زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بدن میں خشک خارش

تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت دے دی (صحیح مسلم) (۱۲) امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو بحالت جنابت، مسجد اقدس میں رہنا مباح فرمایا (ترمذی)

(۱۳) ازواج مطہرات و حضرت بتول زہراء کو بحالت عارضہ ماہانہ، مسجد مبارک میں آنا جائز فرمایا (طبرانی بیہقی)

(۱۴) برادر بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت فرمادی (بخاری مسلم)

(۱۵) سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کے کنگن حضور کی اجازت سے پہنائے گئے۔ دلائل النبوة بیہقی میں مروی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا "وہ وقت تیرا کیسا وقت ہو گا جب تجھے کسریٰ بادشاہ ایران کے کنگن پہنائے جائیں گے" یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے جو ظہور میں آیا اور حضور کی جانب سے سونے کے کنگن پہننے کی زہمت بھی۔

(۱۶) امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو اپنا نام و کنیت جمع کرنے کی اجازت دی اور فرمایا عنقریب میرے بعد تمہارے ایک لڑکا ہو گا۔ میں نے اسے اپنے نام و کنیت دونوں عطا فرمادیے اور اس کے بعد، میرے کسی اور امتی کو حلال نہیں۔

(طبقات بن سعد - ابوداؤد - ترمذی)

(۱۷) امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حاضری جہاد، سم غنیمت کا مستحق فرمایا اور انہیں ان کا حصہ دیا۔ حالانکہ جو حاضر جہاد نہ ہو غنیمت میں اس کا حصہ نہیں۔ (بخاری و ترمذی وغیرہما)

(۱۸) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا صوبیدار (گورنر) بنا کر بھیجا تو ان کے لئے رعایا سے تحائف لینا حلال فرمایا۔ حالانکہ غاموں کو رعایا سے ہدیہ لینا حرام ہے۔

(۱۹) ایک صاحب کے لئے بیع میں خیار غبن مقرر فرمایا یعنی اگر وہ بیع میں دھوکا کھا جائے اور زیادہ قیمت دے کر مال خرید لائیں پھر بھی انہیں اختیار تھا کہ وہ تین دن تک بیع رد کر دیں جبکہ امام ابوحنیفہ و امام شافعی اور روایت اصح میں امام مالک و غیرہم ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک غبن، باعث خیار نہیں۔ کتنا ہی غبن کھائے بیع کو رد نہیں کر سکتا۔ حضور

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم سے خاص انہیں کو نوازا۔ (بخاری و مسلم)

(۲۰) ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عصر کے بعد دو رکعت نفل جائز فرما دئے (بخاری و مسلم) علماء فرماتے ہیں یہ ام المؤمنین کی خصوصیت تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے جائز فرمادیا تھا۔

(۲۱) ایک بی بی (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) کی چچا زاد بہن صباہ بنت زبیر بن عبد المطلب (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو احرام میں شرط لگانا جائز فرمادیا۔ (بخاری و مسلم وغیرہما) ہمارے امہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں یہ ایک خاص اجازت تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی ورنہ نیت میں ایسی شرط اصلاً مقبول و معتبر نہیں۔

(۲۲) ایک شخص سے اس شرط پر اسلام قبول فرمایا کہ وہ دو نماز سے زائد نہ پڑھے گا امام احمد ان احادیث کرمیہ کے علاوہ

اور بھی احادیث ہیں جن سے ظاہر کہ احکام، سپرد اختیار حضور سید الانام ہیں۔ مثلاً ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ "اگر مشقت امت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان پر فرض فرمادیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کریں (بخاری و مسلم وغیرہما)

علماء فرماتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے اور احمد و نسائی نے یوں روایت کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "امت پر دشواری کا لحاظ نہ ہو تو میں ان پر فرض کر دوں کہ ہر نماز کے وقت وضو کریں اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں" ان ارشادات کرمیہ کے قطعاً ہی معنی ہیں کہ میں چاہتا تو اپنی امت پر ہر نماز کے لئے تازہ وضو اور ہر وضو کے وقت مسواک کرنا فرض فرما دیتا۔ مگر ان کی مشقت کے لحاظ سے میں نے فرض نہ کئے۔ اختیار احکام کے اور کیا معنی ہیں یوہیں احادیث صحیحہ میں وارد کہ اگر ناتوانوں اور بیماروں کا لحاظ نہ ہوتا تو میں فرض کر دیتا کہ عشا کی نماز آدھی رات تک موخر کر دیں۔ (ترمذی نسائی ابن ماجہ وغیرہم)

قصیدہ برد شریف میں ہے۔

بَيْتِنَا الْأَمْرُ النَّاهِي فَلَا أَحَدٌ  
يَبْدُو فِي قَوْلِ لَا مِنْدُ وَلَا نَعَم

ہمارے نبی صاحب امر وہی ہیں تو ان سے زیادہ "ہاں" اور "نہ" کے فرمانے میں کوئی  
سچا نہیں۔  
(الامن والعلیٰ)

عقیدہ ۱۔ سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ روز ميثاق تمام انبیاء سے  
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا اور اسی شرط پر یہ منصب  
اعظم ان کو دیا گیا۔ حضور نبی الانبیاء ہیں اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ سب نے اپنے  
اپنے عہد کریم میں حضور کی نیابت میں کام کیا۔

تشریح: اللہ عزوجل قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے۔

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ الْآيَةِ  
”اور یاد کر اے محبوب جب خدا نے عہد لیا پیغمبروں سے کہ جو میں تمہیں کتاب و حکمت دوں۔ پھر تمہارے  
پاس آئے رسول، تصدیق فرماتا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، تو تم ضروری اس پر ایمان لانا اور بہت ضرور  
اس کی مدد کرنا۔“ پھر فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب انبیاء نے عرض کی کہ ہم  
ایمان لائے۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں۔ اب جو اس  
کے بعد پھرے گا تو وہی لوگ بے حکم ہیں۔“

امام اجل ابو جعفر طبری وغیرہ محدثین اس آیت کی تفسیر میں حضرت مولیٰ المسلمین امیر المومنین  
جناب مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے راوی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک  
جتنے انبیاء بھیجے سب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عہد لیا کہ اگر یہ اس نبی کی  
زندگی میں مبعوث ہوں تو وہ ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرے اور اپنی امت سے اس مضمون کا  
عہد لے۔“

اسی ایمان الہی کا سبب ہے کہ حدیث میں آیا۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم  
اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آج اگر موسیٰ دنیا میں ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کو گنجائش  
نہ ہوتی۔ (احمد دارمی بیہقی) اس وقت تورات شریف کا ذکر تھا لہذا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام لیا  
ورنہ انہی کی تخصیص نہیں سب انبیاء کے لئے یہی حکم ہے۔

اور یہی باعث ہے کہ جب آخر الزمان میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نزول فرمائیں گے



یا آنکہ بدستور منصب رفیع نبوت و رسالت پر ہوں گے۔ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے۔ حضور ہی کی شریعت پر عمل کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک امتی و نائب یعنی امام مدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے (بخاری و مسلم) تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت زمانہ سیدنا ابوالبشر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے، روز قیامت تک جمع خلق اللہ کو عام شامل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذَکُنْتُ نَبِيًّا دَاوَمُ بَيْنَ الرَّوْحِ وَالْجَسَدِ (یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم روح و جسم کے درمیان تھے) اپنے معنی حقیقی پر ہے۔ اگر ہمارے حضور حضرت آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہم وسلم کے زمانہ میں ظہور فرماتے ان پر فرض ہوتا کہ حضور پر ایمان لائے اور حضور کے مددگار ہوتے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا۔ اور حضور کے نبی الانبیاء ہونے ہی کا باعث ہے کہ شب اسری تمام انبیاء و مرسلین نے حضور کی اقتداء کی اور اس کا پورا ظہور، روز نشور ہوگا جب حضور کے زیر لوہ، آدم و من سوا، کافہ رسل و انبیاء ہوں گے صدوات اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہ و علیہم اجمعین

(تجلی الیقین)

**عقیدہ** اللہ عزوجل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اور حضور کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا۔ بایں معنی حضور ہر جگہ تشریف فرما ہیں۔

كَالشَّمْسِ فِي وَسْطِ السَّمَاوَاتِ وَنُورُهَا

يُغْنِي الْبِلَادَ مَشَارِكًا وَمَغَارِبًا

مگر کور باطن کا کیا علاج ہے

گر نہ بیند بروز، شپترہ چشم

چشمہ آفتاب را چہ گناہ

**تشریح** اللہ عزوجل نور ہے چونکہ محققین کے نزدیک نور وہ کہ خود ظاہر ہو اور دوسروں کا مظہر (ظاہر کرنے والا) بایں معنی اللہ عزوجل نور حقیقی ہے بلکہ حقیقۃً وہی نور ہے اور آیہ کریمہ اللہ نور السموات و الارض بلا تکلف و بلا تاویل اپنے معنی حقیقی پر ہے چونکہ اللہ خود بھی ظاہر ہے اور آسمان و زمین اور باقی مخلوق کا ظاہر کرنے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اسی نور کی تابش ہے۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلاشبہ اللہ عزوجل کے نور ذاتی سے پیدا ہیں۔ حدیث شریف میں

میں ارشاد ہوا "اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔"  
(عبدالرزاق ونحوہ عندا لیبیہتی)

ہاں عین ذات الہی سے پیدا ہونے کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ ذات الہی ذات رسالت کے لئے مادہ ہے جیسے انسان مٹی سے پیدا ہوا۔ یا عیاذ باللہ ذات الہی کا کوئی حصہ یا کل ذات نبی ہو گیا۔ اللہ عزوجل حصے اور ٹکڑے اور کسی کے ساتھ متحد ہو جانے یا کسی شے میں حلول فرمانے سے پاک اور منبرہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی شے کو جزر ذات الہی، خواہ کسی مخلوق کو نقش ذات الہی ماننا کفر ہے۔ اس تخلیق کے اصل معنی تو اللہ و رسول جانیں جلّ و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عالم میں تو کوئی ذات رسول کو پہچانا نہیں حدیث میں ہے: "يَا أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَخْرِفْنِي حَقِيقَةً غَيْرَ رَبِّي". اے ابوبکر جیسا میں حقیقت میں ہوں میرے رب کے سوا کسی نے نہ جانا۔ ذات الہی سے اس کے پیدا ہونے کی حقیقت کے مفہوم ہو۔ مگر اس میں فہم ظاہر بین کا جتنا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حق عزوجل نے تمام جہاں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے حضور کے صدقے، حضور کے طفیل میں پیدا فرمایا۔ حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا لَوْلَا لَمْ يَخْلَقْتُ الدُّنْيَا۔ بخلاف ہمارے حضور عین النور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ کسی کے طفیل میں نہیں ہیں۔ آپ رب کے سوا کسی کے واسطے نہیں تو وہ ذات الہی سے بلا واسطہ پیدا ہیں۔

اور وہ جو حدیث میں ارشاد ہوا کہ پھر اس نور کے چار حصے کئے تین سے قلم و لوح و عرش بنائے جوتے کے پھر چار حصے کئے الی آخرہ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اس نور کی شعاعوں کا انقسام ہے۔ جیسے ہزار ہا آئینوں میں آفتاب کا نور چمکے تو وہ ہزار حصوں پر منقسم نظر آئے گا حالانکہ آفتاب منقسم ہوانہ اس کا کوئی حصہ آئینوں میں آیا۔ (صلوات الصفا)

**مسئلہ ضروریہ**۔ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے جو لغزشیں واقع ہوئی ہیں اور جن کا پتہ آیات کریمہ و احادیث نبویہ سے چلتا ہے۔ ان کا ذکر تلاوت قرآن اور قرأت حدیث کے سوا، حرام اور سخت حرام ہے۔ اللہ عزوجل ان کا مالک و مولیٰ ہے اور وہ اس کے محبوب اور پیارے بندے۔ مولا کو شایاں ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو جس محل پر جس عبارت سے اور جس طرح چلبے تعبیر فرمائے۔ دوسرا کہے تو اس کی زباں گدی کے پیچھے سے کھینچی جائے۔

وہ اس کے پیارے بندے ہیں اور راضی برضائے الہی، تو اپنے رب کے لئے جس قدر چاہیں۔  
تواضع فرمائیں کہ اکل میں ان کی عزت ہے اور اس سے ان کے مراتب رفیعہ میں اور اضافہ ہوتا ہے اور وہ  
کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال۔ دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا۔ اور خود ان کا اطلاق  
کرے گا تو مرد بارگاہ ہوگا۔

بلا تشبیہ یوں خیال کرو کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو کسی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لئے ادب دینے احتیاط  
سکھانے کو نالائق احمق وغیرہ کہہ دیا تو باپ کو اس کا اختیار تھا۔ اب کوئی دوسرا ان الفاظ کو سند بنا کر یہی  
الفاظ کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر کہے گا تو سخت گستاخ و مردود مانا جائے گا۔

جب یہاں یہ حالت ہے تو اللہ عزوجل کی رسی کر کے اور خطاب رب کو سند بنا کر انبیاء علیہم السلام کی  
ارفع و اعلیٰ شانوں میں ایسے الفاظ بکنے والا کیونکر بارگاہ الہی سے مردود اور سخت عذاب جہنم کا مستحق نہ ہوگا۔ اسی جگہ  
سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے محبوبوں کا محسن ادب عطا فرماتے۔ آمین (فتاویٰ رضویہ وغیرہ)  
پھر ان کے یہ افعال جن کو زلت و لغزش سے تعبیر کیا جائے ہزار ہا حکم و مصالح پر مبنی، ہزار ہا  
فوائد و برکات کی شمر اور بے شمار حسنات و خیرات پر منتج ہوتی ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی ایک لغزش ہی کو  
دیکھئے۔ اگر وہ نہ ہوتی جنت سے نہ اترتے دنیا آباد نہ ہوتی نہ انبیاء مرسلین تشریف لاتے نہ بندوں کی ہدایت  
ورہنمائی کے لئے آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوتے۔ نہ مشرکین و منکرین سے جہاد ہوتے۔ لاکھوں کروڑوں  
حسنات و برکات اور باعث ثواب امور و خیرات کے دروازے بند رہتے اور ہم ان سعادتوں سے محروم۔  
ان سب کا فتح باب، اسی ایک لغزش ابو البشر آدم علیہ السلام کا نتیجہ مبارکہ اور ثمرہ طیبہ ہے۔  
بالجملہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی لغزش، من و تو کس شمار میں ہیں۔ صدیقین کی حسنات سے افضل  
واعلیٰ ہے کہ

حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقْرَبِينَ - وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ خَيْرٍ

خَلْقِهِ سَيِّئَاتُ دَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَالْمَوَاصِيَاءِ وَاصْهَارَةَ وَأَنْصَارَةَ

اتِّبَاعِهِ - قَدْرَ نِعْمَةٍ وَأَفْضَالِهِ وَجُودِهِ وَنَوَالِهِ وَجَاهِهِ وَجَلَالِهِ

وَحَسَنَةِ وَجْهَالِهِ وَعِزَّةِ وَكَمَالِهِ - آمِينَ

## آسمانی کتابیں اور صحیفے

**عقیدہ ۱۔** اللہ تعالیٰ نے عالم انسانی کی ابتداء پیدائش سے، نبیوں اور رسولوں کے مبعوث کرنے کا سلسلہ جاری فرمایا اور ان پر وہ دستور العمل فرمایا یا آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے جن کو اس نے ان امتوں کی ہدایت کے لئے کافی و دانی سمجھا جن کی طرف ان نبیوں کو بھیجا۔ نبوت کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے ہے اور اس کی انتہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔

**عقیدہ ۲۔** سنت الہی اس طرح جاری ہے کہ خداوند عالم اپنی مخلوق سے دو بد و گفتگو نہیں کرتا۔ لیکن مخلوق کی ہدایت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک احکام الہی ان تک کسی ذریعہ سے پہنچ جائیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر وحی نازل فرمائی اور ان کے ذریعہ سے اپنے بندوں کو نیک و بد سے آگاہ کر دیا اصطلاح شریعت میں وحی کے معنی ہیں، وہ کلام الہی جو پیغمبروں پر مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لئے نازل ہوا۔

**عقیدہ ۳۔** انبیائے کرام علیہم السلام پر وحی کے چار طریقے ہیں۔

(۱) کسی غیبی آواز کا سنائی دینا یوں کہ بندہ ایک آواز سے مگر بولنے والا اسے نظر نہ آئے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ طور کے دامن میں ایک درخت سے یکایک انہیں آواز آنا شروع ہوئی مگر بولنے والا پردہ عظمت کے ادھر اور ان کی نگاہوں او جھل تھا۔

(۲) کسی بات کا خود بخود دل میں پیدا ہو جانا، بیداری میں یا خواب میں۔ اس صورت میں وحی کا وصول، بلا آواز اور بلا واسطہ سمع ہے۔

(۳) سچے خوابوں کا دیکھنا۔ چنانچہ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جاتی ہے وہ بھی وحی ہے۔ اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف علیہما السلام کو دکھایا گیا اور حدیث شریف میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی ابتداء ہی سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔

(۴) کسی فرشتہ کا انسانی شکل میں آنا اور پیغام الہی سنانا۔ اس طریقہ وحی میں رسول کی طرف، فرشتہ کی

وساطت ہے یعنی فرشتہ واسطہ ہوتا ہے۔

**عقیدہ ۱۰:** بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاریں جن کی صحیح تعداد اللہ جانے اور اس کا رسول جَلَّ وَعَلَا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم البتہ ان میں سے چار کتابیں بہت مشہور ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ قرآن عظیم کہ سب سے افضل کتاب ہے سب سے افضل رسول حضور پر نور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے لئے اس میں ثواب زائد ہے۔ ورنہ اللہ ایک۔ اس کا کلام ایک اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں۔ یوں ہی کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اتارے گئے۔ کچھ آپ کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام پر۔ کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ کچھ حضرت ادریس علیہ السلام پر اور کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارے گئے۔

مخلوق کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی چھوٹی چھوٹی کتابیں یا ورق جو قرآن شریف سے پہلے اتارے گئے انہیں صحیفے کہتے ہیں۔ ان صحیفوں میں جزا و سزا کا مضمون، اچھی اچھی مفید نصیحتیں اور کارآمد باتیں ہوتی تھیں۔

**عقیدہ ۱۱:** سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں۔ ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے امتوں کے سپرد کی تھی ان سے ان کی حفاظت نہ ہو سکی اور کلام الہی جیسا اترتا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا۔ بلکہ ان کے میں شربروں اور ناخدا ترسوں نے تو یہ کیا کہ محض دنیاوی مفاد کی خاطر، ان میں تخریبیں کر دیں یعنی اپنی خواہش سے گھٹا بٹھا دیا۔ یوں انبیائے کرام پر جو نوشتے یا صحیفے نازل ہوئے وہ جیسے کہ نازل ہوئے تھے آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہیں اور موجودہ بائبل کے ابتدائی پانچ صحیفے، انہیں تحریف شدہ صحیفوں کی یادگاریں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔

لہذا جب کوئی بات ان کتابوں یا صحیفوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے اور مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے اور اگر موافقت مخالفت کچھ معلوم نہ ہو تو تم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب بلکہ یوں کہیں۔

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ اللّٰهُ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔

اور وید جسے ہندو آسمانی کتاب کہتے ہیں پرانے زمانے کے شاعروں کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ کلام الہی ہرگز نہیں۔

**عقیدہ ۱۔** حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء مبعوث ہوئے۔ ان کی رسالت، خاص قوم اور ایک وقت معین کے لئے محدود تھی اس لئے وہ فراوین جو پیغمبروں کے ذریعہ سے ان کی اقوام کو بھیجے گئے ان میں اصلاح کی قوت ایک معین زمانے اور ایک خاص قوم کے لئے تھی۔ لہذا اگر تھوڑی دیر کے لئے یہ فرض کر لیا جائے کہ ان آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا وجود، اس وقت بھی بعینہ موجود ہے تو بھی وہ تمام خلقت انسانی کے لئے کامل دستور العمل نہ سمجھے جائیں گے۔ ایسا کامل دستور العمل جو زندگی کے مختلف شعبوں اور ترقی انسان کے متفرق مدارج طے کرنے میں کامل رہنمائی کرتا ہے وہ صرف ایک ہی صحیفہ آسمانی ہے۔ جس کا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن کریم میں وہ سب کچھ ہے جس کی حاجت بنی آدم کو ہوتی ہے۔

**عقیدہ ۱۔** قرآن مجید پیغام الہی ہے جو خدا کی طرف سے، تیس سال کے عرصہ میں بتدریج، لفظ معین اور معنی خاص کے ساتھ، بذریعہ جبریل علیہ السلام رسول اکرم عالم اعلم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نہ تو محض الفاظ کو قرآن کہیں گے اور نہ محض معنی ہی کا نام قرآن ہے۔ اگر آیات قرآنی کی ترتیب بدل دی جائے تو ایسی صورت میں بھی اس پر قرآن کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ یوں کہیں گے کہ الفاظ قرآنی ہیں جو متغیر (ادل بدل) کر دیئے گئے ہیں۔

**عقیدہ ۲۔** حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اس لئے آپ کی کتاب بھی تمام کتابوں کی خاتم ہے کہ اب کوئی اور کتاب، کہیں، کسی پر قیامت تک نازل نہ ہوگی۔

**عقیدہ ۱۔** چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے لہذا قرآن عظیم کی حفاظت، اللہ عزوجل نے اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے اور اس کی محافظت کا خود فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآلِهَآ لِحَافِظُوْنَ۔ بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں، لہذا اس میں کسی حرف، یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے۔

توجو یہ کہے کہ اس میں کے کچھ پارے یا سورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا۔  
یا بدل دیا قطعاً کا فر ہے۔ کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی بھی۔

تشریح: آیہ کریمہ میں تین مرتبہ ضمیر متکلم کا بیک وقت تکرار (انا۔ نحن۔ نزلنا) جس تاکید بالذات  
تاکید پر دلالت کرتا ہے وہ اہل علم سے مخفی نہیں اور ضمیریں بھی جمع متکلم کی وارد ہوئیں جو نازل کرنے والے  
کی عظمت و کبریائی کا اظہار کر رہی ہیں۔ یعنی ہم جو سارے جہانوں کے خالق و مالک ہیں۔ ہم جن کی فرمانروائی  
کا ڈنکا۔ زمین و فلک و فرش و عرش پر بج رہا ہے بے شک ہم نے اسے اتارا ہے اور بے شک ہم خود اس کے  
نگبان ہیں کہ تحریف و تبدیل و زیادتی و کمی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تمام جن و انس اور ساری خلق  
کے مقدور میں نہیں ہے کہ اس میں ایک حرف کی کمی بیشی کرے یا تغیر و تبدیل کر سکے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے  
قرآن عظیم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اس لئے یہ خصوصیت صرف قرآن شریف ہی کہے دوسری کسی کتاب  
کو یہ بات میسر نہ آئی کہ اس میں تحریف و تبدیل یا تغیر نہ ہو سکے۔

قرآن مجید فرقان حمید کی یہ حفاظت کئی طرح پر ہے۔

۱) قرآن مجید کو معجزہ بنایا کہ بشر کا کلام اس میں مل ہی نہ سکے۔

۲) قرآن کریم کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کی مثل کلام بنانے پر قادر نہ ہو اور قرآن  
کریم کی فصاحت و بلاغت اور حسن نظم و ترتیب ہمیشہ لاجواب رہے۔

۳) ساری خلق کو اس کے نیست و نابود اور معدوم کر دینے سے عاجز کر دیا کہ کفار و معاندین باوجود  
کمال عداوت کے، اس کتاب مقدس کو معدوم کر دینے سے عاجز ہیں۔ آج بھی لاکھوں انسان اپنے سینوں  
میں اسے محفوظ کئے ہوئے ہیں۔ بغرض مجال اگر سارے کئے ہوئے قرآنی نسخے نایاب ہو جائیں تو پھر بھی قرآن  
کریم جوں کا توں محفوظ رہے گا۔ نہ کسی کے مٹائے مٹ سکے گا۔ نہ کسی کے دبائے دب سکے گا اور نہ کسی  
کے طعنوں اور ناحق اعتراضوں سے اس کی قدر گھٹ سکے گی۔ اور نہ کسی کے روکے اس کی دعوت رُک  
سکے گی اور نہ قیامت تک، مخالفین کے شدید ہجوم کے باوجود اس کے کسی لفظ کسی حرف میں کمی ہوگی۔

غرض یہ دعویٰ کہ یہ کتاب لفظ بہ لفظ کلام الہی ہے آج روئے زمین پر کسی بھی دوسری کتاب کا نہیں  
یہاں تک کہ تورات و انجیل کا بھی نہیں۔ دنیا کے کتب خانے کسی دوسری ایسی کتاب کی نظیر پیش کرنے سے  
عاجز ہیں جو چودہ سو سال سے اپنے الفاظ، حروف، نقوش اور حرکات و سکنات، سب کے لحاظ سے

اپنی اصل حالت میں موجود ہو۔ اور نہ اسلام کا کوئی بدترین بدخواہ یہ ثابت کر سکا اور نہ ثابت کر سکے گا کہ قرآن کریم میں کوئی تحریف کوئی تلبیس کوئی تغیر کوئی تبدیل پائی گئی ہے یا پائی جاتی ہے۔

پھر سب جانتے ہیں کہ اسلام میں پانچ نمازیں فرض ہیں جن میں سے تین میں قرآن مجید باواز بلند پڑھا جاتا ہے۔ اور چونکہ ہر شخص مختار و مجاز ہے کہ جہاں سے وہ چاہے اور جتنا چاہے قرأت کرے اس لئے دنیا پر پھیلے ہوئے کروڑوں انسان صد ہا مقامات پر مختلف پاروں اور سورتوں سے قرآن حمید کی قرأت روزانہ کیا کرتے ہیں۔ ایک پڑھتا ہے اور اس کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والے بیسیوں بلکہ سینکڑوں مقتدی سنا کرتے ہیں۔ اقتداء کرنے والوں میں بہت تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کو خود بھی وہ آیات جو امام پڑھ رہا ہے یا ہوتی ہیں۔

یہ طریقہ عمد نبوی سے جاری تھا اور ہر شہر ہر قصبہ ہر قریہ میں برابر اسی پر عمل درآمد رہا اور اب بھی ہے لہذا کسی کے بھی احاطہ اقتدار سے یہ بات باہر ہے کہ وہ سب کی زبانوں سب کے دماغوں سب کے سینوں اور سب کی کتابوں پر قبضہ کر کے ایک ہی لفظ کی کمی بیشی کر سکے۔ اور یہ بھی ایک زبردست خصوصیت، حفاظت کتاب حمید کی ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، عرب سے لے کر عجم تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تمام دنیا ایک ہی ترتیب ایک ہی تدوین سے قرآن کریم کی قرأت کر رہی ہے۔ اور وہ بھی یوں کہ اگر کسی قاری، کسی امام، کسی تلاوت کرنے والے سے سہواً یا خطا کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو سننے والا اسے فوراً ٹوکتا اور صحیح پڑھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تحریف و تغیر درکنار، ایک آیت کیا، ایک لفظ کی بھی تقدیم و تاخیر گوارا نہیں کی جاتی۔

**عقیدہ ۱:** اگلی کتابیں انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی کو زبانی یاد ہوئیں۔ قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے۔

**تشریح:** قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے۔

بَلْ هُوَ آيَاتٌ كُتِبَتْ فِي صُورٍ الْبَيِّنَاتِ اَوْ تَوَالِغٍ

”بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں۔ ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا“

یعنی اس کتاب کے وجوہ اعجاز اتنے کھلے ہوئے اور اتنے متعدد ہیں کہ یہ ایک کتاب بجائے خود بہت سے نشانوں کے قائم مقام ہے اور بطور نشان واضح کے سینہ بہ سینہ محفوظ چلی آتی ہے ہر



امکان تحریف سے ماورا اور ظاہر الاعجاز۔ اور یہ دونوں باتیں قرآن پاک کے ساتھ خاص ہیں۔ قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب ایسی نہیں جو معجزہ ہو اور نہ ایسی کہ ہر زمانہ میں سینوں میں محفوظ رہی ہو۔ ساری کتاب کو حفظ کر لینا ایک اچھوتا خیال ہے کیونکہ قرآن مجید سے پیشتر دنیا میں کوئی کتاب حفظ نہ کی گئی اس لئے اس خیال کا پیدا ہونا ہی اس کے الہامی ہونے کی دلیل ہے۔ اس پیشگوئی کے مطابق ہر ملک ہر صوبہ ہر ضلع ہر شہر میں حفاظ قرآن کریم کی کافی تعداد پائی جاتی ہے جو اس صحت و اتفاق اور یقین و اثنق کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں کہ ان کی قرأت سے مطبوعہ کتابت کی تصحیح کی جاتی ہے۔ مگر ان حفاظ کو مطبوعہ یا قلمی کتاب سے صحت کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر کسی حافظ کو اپنے پڑھنے میں کہیں شبہ پڑے گا تو وہ اس کی صحت کا مدار دوسرے حافظ ہی پر رکھے گا۔ یہ ایک ایسی زبردست پیشگوئی ہے کہ تمام دنیا اس کی نظیر لانے سے عاجز ہے۔ حفاظت قرآن کا یہ ایک ایسا انتظام ہے جو بالکل لاثانی ہے اور محض منجانب اللہ ہے۔ اور عظیم معجزہ بھی کہ اس کا زیر و زبر اور حرف حرف توالی و تواتر کے ساتھ، سینوں میں ایسا محفوظ ہے کہ دنیا کے ایک گوشے میں ایک ایک حرف پورے یقین کے ساتھ اسی طرح پایا جاتا ہے جیسا کہ دنیا کے دوسرے دور دراز گوشوں میں۔ لہذا حفاظت الہی کا اس طرح کا فرما ہونا قرآن عظیم کے معجزہ ہونے پر ایک قطعی دلیل ہے۔

**عقیدہ ۱۔** قرآن مجید، کتاب اللہ ہونے پر اپنی آپ دلیل ہے کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے  
 وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا آلایہ " اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی سورت کہ لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو۔ اگر تم سچے ہو تو اگر ایسا نہ کر سکو اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

**تشریح:** قرآن کریم کا سیدھا سادہ دعویٰ یہ ہے کہ وہ کسی انسان کا نہیں، خدائے قدوس و قادر مطلق کا کلام ہے اور اپنے اس دعویٰ پر دلیل اس نے کیسی قطعی اور عوام و خواص دونوں کی سمجھ میں آجانے والی یہ پیش کر دی ہے کہ اگر کوئی اسے امکان بشری کے اندر سمجھتا ہے اور واقعی منکرین کا یہی خیال ہے کہ قرآن ایک انسانی دماغ کی پیداوار ہے تو یہ بھی تو آخر انسان ہیں اور بڑے روشن خیال، عالی دماغ صاحب زبان قسم کے انسان۔ یہ خود اس کا ادنیٰ اور ہلکا سا نمونہ ہی اپنی متحدہ کوششوں سے کیوں نہیں پیش

کر دکھاتے اور سب مل ملا کر، سر جوڑ کر، کیوں نہیں ایسی کوئی کتاب تیار کر دیتے جو اپنی فصاحت و بلاغت، مغز و معنویت اور زبان و انشا میں غرض کسی حیثیت سے ہی اس کی ہم سطح اور ہم پلہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ تمہارے خیال میں کلام الہی نہیں تو یقیناً ایک انسان کی تصنیف ہوگی اور جب ایک انسان ایسی تصنیف پر قادر ہے تو دوسرا بھی ہو سکتا ہے چہ جائیکہ لائق و فائق انسانوں کا ایک پورا مجمع کا مجمع۔

خطاب یہاں یا یہاں الناس کے تحت میں ساری دنیا سے ہو رہا ہے صرف قریش یا اہل عرب سے نہیں اور قرآن کریم کے اس چیلنج کو چودہ سو سال گذر چکے ہیں اور دنیا کے کتب خانے، اس کتاب سازی کے عہد میں بھی، پورا قرآن کیا معنی، اس کی دس آیتوں، تین آیتوں بلکہ ایک مختصر سورت کی مثل سے بھی یکسر خالی ہیں۔ اللہ اکبر! کس زور کی تحدی ہے اور وہ بھی ایک البتی الٰہی کی زبان حق ترجمان سے۔ اپنی عقل و حکمت، اپنے علوم و فنون پر ناز رکھنے والوں کو کیسا کیسا جوش اس وقت بھی آیا ہوگا، جبکہ اس کا مثل نہ لانے پر منکرین اور ان کے معبودوں کو دوزخ کا ایندھن بتایا جا رہا تھا اور آج بھی آرہا ہے۔ لیکن قرآنی تحدی (چیلنج) جہاں تھا وہیں رہا۔ اور وہیں ہے۔ کتنے نئے نئے مسلک روز پیدا ہو رہے ہیں کیسی کیسی سے "ازم" ہر روز اٹھ رہی ہیں اور دنیا کو راہ نجات دکھانے میں ناکام ہو رہی ہیں۔ یہ سب گویا قرآنی تحدی کے جوابات ہی ہیں۔ ہر جواب ناکام اور شرمناک حد تک ناکام۔

اسلام کے دشمنوں کے لئے یہ کتنا آسان طریقہ تھا کہ تین آیت کی ایک سورت بنا کر قرآن کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس طرح قرآن نبوت اور اسلام کی صداقت و عظمت کو یک دم ختم کر کے بیک کر شمش، سرکار کا منظر دکھاتے۔ لیکن چودہ صدیاں گذر چکی ہیں اور شرق و غرب کے بدخواہ، اپنی بے چینی خواہشوں، لگاتار کوششوں اور جاں گسل کاوشوں کے باوجود، اس چیلنج کا جواب آج تک نہ دے سکے اور قرآنی پیشگوئی ہے کہ قیامت تک نہ دے سکیں گے۔ تو اب کسی انصاف پسند ذی ہوش کیلئے یہ ماننے میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ (۱) قرآن اللہ کا کلام ہے (۲) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول برحق ہیں (۳) اور اسلام کامل و مکمل دین اور جامع ترین دستور العمل ہے۔ حمد اس کے ذات پاک کو جس نے مسلمان کیا اور ہم غلاموں کا ہاتھ، محمد رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں میں دیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔

یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم جن مضامین عالیہ پر متضمن ہے اور جو اس کی خصوصیات خاصہ ہیں یہ وہ بصائر بھی ہیں جو دیدہ کوتاہیوں کے حجاب اٹھا دیتی اور آنکھوں کو روشن کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے وہ بھیانک صحرا و وادی جن کو آنکھ بھر کر دیکھنا ناگوار تھا اب صحیفہ فطرت کے طالبان علم کیلئے ورق دانش بن گئے اور ہر ایک چیز سے خلاق مطلق کی قدرت خالقیت، اور اس کے معبود برحق ہونے کے جلوے فراوانی و کثرت سے نظر آنے لگے۔ والحمد للہ رب العالمین۔

کاش آنکھوں والے آنکھیں کھولیں اور سننے والے اس کی آواز پر کان لگائیں۔ صاحب دل، دلوں کے غلاف اتارنا رکھ اور بصیرت سے قفل کھول کھول کر کام لیں کہ حسن قرآن کی عالم افزوی اور ملکوت نوازی ان پر روشن ہو جائے۔

**عقیدہ:** قرآن کریم کی سات قرأتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں۔ ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں۔ وہ سب حق ہیں اور اس میں امت کے لئے آسانی یہ ہے کہ جو قرأت آسان ہو وہ پڑھے۔ اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرأت رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے جیسے ہمارے ملک میں قرأت عاصم بروایت حفص۔ کہ لوگ نادانی سے انکار کریں گے اور وہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا۔

**تشریح:** عرب کے مختلف قبائل حروف کی ادائیگی میں مختلف طریقے رکھتے تھے۔ مثلاً بعض قبائل حارحلی (ح) کو عین (ع) سے ادا کرتے تھے یعنی حتیٰ کو عتیٰ کہتے تھے۔ کوئی الف کو می سے ادا کرتا تھا یعنی امیر کو میمر کہتا تھا۔ بعض علامت مضارع کو ہر حال میں پیش سے ادا کرتے تھے۔ بعض اسم معرفہ کے خاصہ۔ الف لام کو الف میم کی صورت میں ادا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صاحب نے جن کا تعلق غالباً قبیلہ حمیر یا نضر بن علی سے تھا، خدمت اقدس میں کچھ عرض کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کی لغت میں انہیں جواب دیا اور فرمایا لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اِمْتِيَامٌ فِي الْمَسْفَرِ۔ یعنی لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي الْمَسْفَرِ تو اس لغت میں حرف تعریف لام کی جگہ میم مستعمل تھا۔ ما مشبہہ لیس کی خبر کو کوئی منصوب کرتا۔ کوئی مرفوع۔ اِنَّ وَاَنَّ وغیرہما کے ام کو کوئی نصب دیتا کوئی رفع پر رکھتا۔ بعض قبائل ہر جگہ (ب) کو (د) بولتے (د) کو (ب) غرض اسی قسم کے بہت سے تفاوت لہجہ اور طرز ادا میں تھے قرآن عظیم خاص لغت قریش پر اترا تھا کہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے۔

پھر اسلام جب عرب سے عجم میں پہنچا اور عجمیوں پر اس کا زور ڈالا گیا کہ حروف کو ان کے

مخارج سے ادا کریں تاکہ حروف میں امتیاز رہے اور معنوں میں کوئی تغیر و تبدل واقع نہ ہو۔ اس وقت اہل عرب کے مختلف قبائل کو بھی اس پر مجبور کیا گیا کہ قبیلہ قریش کی قرأت اختیار کریں اور ہر حرف کو اسی طرح ادا کریں جیسا کہ قریش ادا کرتے ہیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے۔ اور آپ نے جس حرف کو جس طریقے پر عادتاً اور دمرہ میں استعمال کیا ہے۔ وہی اس کا صحیح تلفظ ہے۔

ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک ثانی و دانی ہے۔ حدیث شریف کی تشریح میں بہت سے اقوال منقول ہیں انہیں میں ایک تشریح یہ بھی ہے کہ اس سے مراد حروف کا مختلف آوازوں کے ساتھ ادا کرنا ہے جو قبائل عرب میں رائج ہے۔

حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اسلام دور دراز ممالک تک پہنچ چکا تھا جس میں عجم کا بہت بڑا حصہ شامل تھا اور ان کے لئے قرآن مجید کا پڑھنا اس طرح کہ تمام حروف ایک دوسرے سے ممتاز رہیں، سخت دشوار تھا۔ اس لئے ان کو معلم کی بھی ضرورت تھی اور قرآن مکتوب کی بھی۔ جو کتابی شکل میں ان کے ہاتھوں اور ان کی نظروں کے سامنے ہو۔ اس لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسخہ کی متعدد نقلیں نہایت احتیاط سے کرائیں جو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس امانتاً رکھا گیا تھا۔ اور ہر جگہ متعدد معلموں اور استادوں کو، متعدد نسخوں کے ساتھ (جو قطعاً یقیناً نقل مطابق اصل کے مصداق تھے) روانہ کیا تاکہ پڑھنے والوں کے سامنے کتاب الہی قرآن مجید بھی ہو اور اس کا صحت سے پڑھنے اور پڑھانے والا بھی موجود ہو۔ اس طرح اس نسخہ کی جو عہد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لکھا گیا تھا تمام ملک میں اشاعت ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن اور مروج القرآن کہلائے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی موجودہ جمع و ترتیب پر کچھ اجمالی تفصیل کرتے چلیں تاکہ بعض گمراہ فرقوں کے وہی تباہی خیالات کا قلع قمع ہو جائے۔

## قرآن کریم کا جامع

یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن عظیم کا جامع حقیقی اللہ عزوجل ہے قَالَ جَدَّ وَعَلَىٰ اِنَّ عَلَيَّ

جمعہ و قرآنہ“ بے شک ہمارے ذمہ ہے۔ قرآن کا جمع کرنا اور پڑھنا۔

پھر جامع، اللہ عزوجل کے منظر اول و اتم و اکمل حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہونے  
آیات قرآنیہ اسی ترتیب جمیل پر کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے سینوں میں ہے، لوح محفوظ کی ترتیب  
کے مطابق، جبریل علیہ السلام کی تبلیغ اور صاحب تنزیل صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے موافق، زمانہ اقدس  
میں اپنی اپنی سورتوں میں جمع ہوئیں۔ قرآن عظیم ۲۳ برس میں، بندوں کی حاجتوں اور مصلحتوں کے ماتحت متفرق  
آیتیں ہو کر اتریں۔ کسی سورت کی کچھ آیتیں اتریں۔ پھر دوسری سورت کی آیتیں آئیں۔ پھر پہلی سورت کی  
نازل ہوئیں۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار ارشاد فرماتے کہ یہ آیات فلاں سورت کی ہیں  
فلاں آیت کے بعد، فلاں کے پہلے رکھی جائیں۔ اسی طرح قرآنی سورتیں منظم ہوئیں۔ اور حضور اقدس  
صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور سے سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی ترتیب پر اسے نمازوں تلاوتوں  
میں پڑھتے۔

پھر قرآن عظیم صرف ایک واحد لغت قریش پر نازل ہوا اور عرب کے مختلف قبائل اور ان  
کے لہجے، باہم حرکات و سکنات و بعض اجزائے کلمات میں مختلف اور ان میں اسی قسم کے بالائے اختلافات  
بکثرت تھے جن سے کلام کے معنی بلکہ جوہر نظم و ترتیب کو بھی کوئی ضرر نہ پہنچتا۔ اور مادری لہجہ زبانوں پر  
چڑھا ہوا دفعہ ہر قوم و قبیلہ کو اپنی قدیمی عادات سے بدل دینا سخت دشوار تھا لہذا حضور پر نور،  
رحمت معومر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے عرض کر کے، دیگر قبائل والوں کے لئے ان کے لہجوں کی  
رخصت لی تھی اور یہ آسانی فرمائی تھی کہ ہر قوم عرب اپنے طرز و لہجہ میں قرأت قرآن عظیم کرے۔

جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام، ہر رمضان مبارک میں، جس قدر قرآن عظیم اب تک اتر چکا ہوتا  
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا دور کرتے جو سنت سنہ اب تک بحمد اللہ تعالیٰ حفاظ  
اہلسنت میں باقی ہے اور باقی رہے گی۔

سال اخیر میں جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دوبار، صرف اصل لغت قریش پر جس میں قرآن مجید  
نازل ہوا تھا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کیا اور اس کی تکرار سے اشارہ ہوا کہ وہ رخصت  
منسوخ اور اب صرف اسی لغت پر جس میں اصل نزول ہے یہ امر مستقر ہوا۔  
اور قرآن عظیم کی سورتیں اگرچہ زمانہ اقدس میں مرتب ہو چکی تھیں مگر یکجا مجتمع نہ تھیں۔ متفرق

پرچوں کا غدو، پتھر کی تختیوں، بکری دنبے کے پوستوں۔ شاتوں پسیلوں وغیرہا میں متفرق جگہ تقسیم۔ سوان مبارک سینوں کے جن میں سارا قرآن عظیم، مرتب و منظم موجود تھا کوئی اور باقاعدہ ترتیب و تدوین کتابی صورت میں وجود میں نہ آئی تھی۔ حال یہی تھا یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نظیر عوام سے احتجاج (پردہ) فرمایا اور خلافت خلیفہ برحق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جنگ یمامہ واقع ہوئی جس میں بکثرت صحابہ کرام حافظان قرآن شہید ہوئے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل الہام منزل میں حق جل و علانے اپنا وعدہ صادقہ و اِنَّا لَمُحْفَظُونَ پورا کرنے کو، القاء کیا کہ حضرت خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ اس لڑائی میں بہت سے صحابہ جن کے سینوں میں قرآن عظیم تھا شہید ہوئے اور میں ڈرتا ہوں کہ یہیں قرآن متفرق پرچوں میں رہا اور حفاظ شہادت پاتے گئے تو بہت سا قرآن مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ میری رائے میں حکم دیجئے کہ قرآن عظیم کی سب سورتیں یکجا کر لی جائیں۔

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتداءً اس میں تامل ہوا بالآخر رائے صدیق بھی موافق ہوئی اور حضرت زید بن ثابت وغیرہ حفاظ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس امر جلیل کا حکم دیا اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اجماع سے یہ مسئلہ طے ہوا اور قرآن عظیم متفرق مواضع سے جمع کر لیا گیا اور سارا قرآن عظیم یک جا ہو گیا۔ ہر سورت ایک جدا صحیفے میں تھی۔ وہ صحیفے تاحیات صدیقی حضرت خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد حضرت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم اور ان کے بعد حضرت ام المؤمنین حفصہ بنت الفاروق زوجہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رہے مگر ہنوز تین کام باقی تھے۔

(۱) ان مجموع صحیفوں کا ایک مصحف واحد میں نقل ہونا۔

(۲) اس مصحف کے نسخے مملکت اسلامیہ کے تمام علاقوں میں تقسیم ہونا۔

(۳) زہد سابقہ کی بنا پر جو بعض اختلافات لہجہ کے اثرات، کتابت قرآن عظیم میں متفرق

لوگوں کے پاس تھے دفع فتنہ کے لئے ان کا محو ہونا یہ تینوں کام حافظ حقیقی جامع ازلی جل جلالہ نے اپنے تیسرے بندے امیر المؤمنین جامع القرآن ذی النورین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

لیا۔ اور آپ نے حسب مشورہ امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم و دیگر اعیان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان صحیفوں کو ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منگا کر ان کی نقلیں لے کر تمام صورتیں ایک مصحف میں جمع کر کے، وہ مصاحف تمام بلاد اسلام میں بھیج دیئے کہ سب اسی کا اتباع کریں اور اس کے خلاف اپنے آپ طرز ادا کے مطابق جو صحائف بعض لوگوں نے لکھے ہیں دفع فتنہ کے لئے تلف کر دیئے جائیں۔ اصل صحیفے جن کی نقلیں مکہ معظمہ و شام و مین و بحرین و بصرہ و کوفہ کو بھیجی گئی تھیں اور ایک مدینہ طیبہ میں رہی حضرت ام المؤمنین کو واپس کر دیئے۔ ان کی نسبت معاذ اللہ دفتہ کرنے یا کسی طرح تلف کر دینے کا بیان محض جھوٹ ہے۔ وہ مبارک صحیفے خلافت عثمانی پھر خلافت مرتضوی پھر خلافت امام حسن، پھر خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک بعینہا محفوظ تھے یہاں تک کہ مروان نے لے کر چاک کر دیئے۔

سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، عثمان کے حق میں سوا کلمہ خیر کے کچھ نہ کہو۔ خلا کی قسم معاملہ مصاحف میں انہوں نے جو کچھ کیا ہم سب کے مشورہ و اتفاق سے کیا۔ (جمع القرآن طحطا)

اب بھی لوگ اگر طعن کریں تو خدا انہیں سمجھے۔

**عقیدہ ۲:** قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیئے۔ یوں قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض کو منسوخ کر دیا۔

**عقیدہ ۳:** نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لئے ہوتے ہیں مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لئے ہے۔ جب میعاد پوری ہو جاتا ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے جس سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھالیا گیا اور حقیقتہً دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہونا بتایا گیا۔ منسوخ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں یہ بہت سخت بات ہے۔ احکام البیۃ سب حق ہیں وہاں باطل کی رسائی کہاں۔

**تشریح:** نسخ اصول فقہ کی ایک اصطلاح خاص ہے جس کے معنی ہیں کسی مطلق و غیر مقید حکم کو، محدود و مقید کر دینا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم پہلے نازل فرمایا تھا وہ عام اذہان کے برخلاف ہمیشہ کے لئے نہ تھا ایک وقت محدود کے لئے تھا جب وہ وقت محدود ختم ہو گیا تو پہلے حکم کی میعاد ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا کہ اب احوال و مصالح کا تقاضا کچھ اور ہے پہلے کچھ اور تھا

اور احکام شریعت میں احوال و مصالح کی رعایت رکھی ہی جاتی ہے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ نسخ کا تعلق عقائد کلیات اخلاق، امور حسبیہ، قصص گذشتہ حکایات ماضیہ، اخبار غیبیہ وغیرہا ساسی امور دین سے نہیں یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں عقیدہ کسی زمانہ میں واجب و لازم تھا اب وہ ایمان کے منافی قرار پایا۔ یا جھوٹ چوری زنا قتل پہلے حرام تھے اب انہیں حلال قرار دے دیا گیا۔ یا فلاں بات جو وحی الہی کے ذریعہ بیان کی گئی تھی اب وہ قابل تردید ہو گئی۔

یا فلاں واقعہ جو پہلے مذکور تھا اب ناقابل قبول ہو گیا۔ یعنی قرآن کریم کے بیشتر حصہ میں تو نسخ کا احتمال ہی نہیں اس کی گنجائش جو کچھ بھی ہے وہ لے دے کے باب احکام میں ہے۔ اور احکام کی مثال طبیب کے نسخے کی ہے کہ طبیب کی تشخیص اپنی جگہ رہتی ہے مریض کی حالت ادلتی بدلتی رہتی ہے اور اس تبدیلی میں موسم اور آب و ہوا کا بڑا دخل رہتا ہے۔ ان حالات میں کوئی حاذق سے حاذق طبیب بھی اپنے نسخے کے اجزا میں۔ اگر تغیر و تبدیل و ترمیم و اضافہ کر دے تو کوئی صاحب عقل اس پر اعتراض کا مجاز نہیں اور نہ ایسے اعتراض ذوی العقول کے یہاں قابل قبول۔

یہ وہ احکام شریعت جو اس وقت کے حالات کے مطابق اور مصالح قوم کے ماتحت تھے اور جن کی حیثیت محض عارضی و ہنگامی احکام کی تھی اگرچہ قوم نے ان حالات و مصالح کو نہ سمجھا نہ جانا، وہ بدل دیئے گئے اور ان کی جگہ دائمی اور مستقل قوانین نے لے لی تو اس میں متحیر اور چپ بیچ نہیں ہونے اور پہلو بدلنے کی کیا ضرورت ہے۔

قانون فطرت میں بھی انسان کے دانت اور جڑے، مستقل طور پر، غذاؤں کے چبلنے اور کاٹنے پھاڑنے ہی کے کام کے لئے ہیں۔ لیکن شیر خوارگی کے ابتدائی دور میں بچوں کو وہی غذائیں دی جاتی ہیں جو اس کے حالات سے موزوں اور مصالح کے مطابق ہوتی ہیں۔ اس موٹی اور سیدھی سادی بات میں خدا معلوم ایسا کونسا پہلو ہے کہ لوگ گھبرا گھبرا کر نسخ کا نام لینا اور سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔

یہ بھی خوب ذہن نشین رہے کہ یہ نسخ جو کچھ بھی ہوگا محض علم بشری کے اعتبار سے ہوگا جو ناقص و نامکمل بھی ہے اور محدود و مقید بھی ورنہ علم الہی میں تو ہر حکم ازل سے وقت معین کے لئے مقرر و ثابت ہے اور وہ قابل مطلق بندوں کی مصلحتوں اور وقت و موسم و حالات کے مطابق ان کی رعایت فرماتا اور وہی حکم دیتا ہے جسے ان کے ذہن آسانی سے قبول کر لیں جبکہ اسے ہر طرح کا اختیار کامل و تصرف مطلق



حاصل ہے۔

اسی طرح قرآن کریم کی بعض آیات کا نسخ اور بعض کا منسوخ ہونا بھی عین حکمت الہی ہے۔ عرب جیسی آزاد منش قوم کو قانون و آئین کا پابند کرنے کے لئے جن تدریجی اقدامات کی ضرورت تھی وہ پوشیدہ نہیں اس لئے اگر چند ابتدائی احکام جو محض وقتی مصلحت کے ماتحت دے دیئے گئے تھے بعد میں منسوخ کر دیئے گئے اور ان کی جگہ دوسرے احکام جو اب ان کی تربیت یا فتنہ زہنیت کے مطابق تھے نافذ کر دیئے گئے تو بالکل حکمت الہیہ کی مصالحت کے مطابق ہے۔

منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور نسخ بھی۔ دونوں عین حکمت ہیں اور نسخ کبھی منسوخ سے زیادہ سہل اور نافع تر ہوتا ہے۔ قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں جائے تردد نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرم سے سرد کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ و متبدل فرماتا ہے۔ یہ تمام نسخ و تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہیں۔ تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب۔

نسخ درحقیقت حکم سابق کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لئے تھا اور عین حکمت تھا۔ کفار کی نا فہمی کہ نسخ پر اعتراض کرتے ہیں اور اہل کتاب کا اعتراض ان کے معتقدات کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ انہیں آدم علیہ السلام کی شریعت کے احکام کی منسوخیت تسلیم کرنا پڑے گی۔ یہ ماننا ہی پڑے گا کہ شنبہ کے روز دنیاوی کام ان سے پہلے حرام نہ تھے ان پر حرام ہوئے۔ یہ بھی اقرار ناگزیر ہوگا کہ توریت میں حضرت نوح کی امت کے لئے تمام چوپائے حلال ہونا بیان کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیئے گئے۔ ان امور کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کیونکر ممکن ہے۔ (ماخوذ)

مسئلہ جس طرح آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے اسی طرح حدیث متواتر سے بھی ہوتی ہے۔ مسئلہ نسخ کبھی صرف تلاوت کا ہوتا ہے۔ کبھی صرف حکم کا اور کبھی تلاوت و حکم دونوں کا۔

(تفسیر خرائن العرفان)

عقیدہ ہے۔ قرآن کریم کی بعض باتیں محکم ہیں کہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں اور بعض متشابہہ کہ ان کا پورا مطلب، اللہ اور اللہ کے حبیب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ متشابہہ کی تلاش اور اس کے معنی کی کنکاش ہی کرتا ہے جس کے دل میں کجی ہو۔

تشریح :- ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ** الایہ۔ ”وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری۔ اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے تو وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، مگر ای چاہئے اور اس کا پہلو ڈھونڈھنے کو۔ اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور بچتہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے: ”دآل عمران ع ۹“

قرآن کریم نے یہاں اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ قرآن مجید وہ آیتیں جو محکم کہلاتی ہیں یعنی جن کا مفہوم بالکل واضح ہیں اور صاف ہے جن سے ایک ہی معنی نکلتے ہیں، وہی اصل مدار و معیار ہیں اور ساری کتاب کی اصل و مرجع۔ احکام میں انہیں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور حلال و حرام میں انہیں پر عمل۔ اور وہ آیتیں جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے یعنی وہ جو چند وجوہ کا احتمال رکھتی ہیں اور ان کی تعبیر و تفسیر میں مختلف پہلو نکلتے ہیں اور ان میں مختلف تاویلات کی گنجائش ہوتی ہے۔ ان میں کون سی وجہ مراد ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے یا جس کو اللہ تعالیٰ اس کا علم دے، ان کے معنی کی تلاش میں وہی لوگ سرگرم و سرگرداں رہتے ہیں۔ جن کے دل حق سے منحرف ہوتے ہیں اور ہوائے نفسانی کے پابند۔

قرآن کریم کے یہ الفاظ عام و وسیع ہیں اور اس کے تحت میں ہر وہ کج رائے، کج رو، ہر وہ ملحد و زندقہ اور ہر وہ گمراہ و بد مذہب آ جاتا ہے جو دوسروں کو شک و شبہ میں ڈالنے اور ان کے دلوں میں قرآن و اسلام و پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق طرح طرح کے شکوک و دوسوسے پیدا کر کے انہیں ان کے عقائد و اعمال حقہ سے بدظن کرنے اور ہٹانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ جن کے دلوں میں حق طلبی۔ حق جوئی، حق پسندی، حق پرستی، اور تلاش صداقت نہیں ہوتی وہ اسی اڈھیر بن میں لگے رہتے ہیں کہ دین میں کوئی نہ کوئی فتنہ بنا کریں اور بجائے اس کے کہ خود دین کی راہ پر چلیں، دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا اور اپنی راہ پر چلانا چاہتے ہیں اور یہ لوگ نصوص کلام الہی کو توڑنے مروڑنے میں کوئی پاک نہیں رکھتے جیسا کہ آج کل بھی، اہلسنت و جماعت کے خلاف، ہر فرقہ باطل کی تاویلات میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ صاف اور واضح الدلائل آیات کے غلط ملط معنی اپنی مرضی کے مطابق تراش کر، عوام مسلمین میں انتشار، اور وحدت دین میں رخنہ پیدا کرتے ہیں۔

## فائدہ جلیلہ

قرآن کریم محض زبانی یادداشتوں یا روایتوں کا مجموعہ نہیں۔ بلکہ باضابطہ و مستند نوشتہ، ایک صحیفہ مکتوب، ضبط تحریر میں آیا ہوا، ایک کتابی شکل میں مرتب صحیفہ آسمانی ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ کتاب تو اس سے پہلے ایک کتاب کامل ہے اور اس کے سامنے آج کے اس کتابی دور میں بھی جتنی کتابیں لائی جائیں گی وہ سب ناقص ہی ہوں گی اور ان کی تالیف و ترتیب میں وہی انسانی دماغ اور بشری قلم ہی شریک نظر آئیں گے۔

قرآن کریم ہی لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف وہ نازل شدہ آسمانی کتاب ہے جس کا ہر لفظ صدق اور ہر مضمون برحق ہے اور ہر قسم کے شک و شبہہ سے بالاتر اس کا ہر دعویٰ مدلل ہے اور ہر حقیقت ثابت شدہ اب اگر کسی بد نصیب کو اس کے خلاف نظر آتا ہے تو گناہ چشمہ آفتاب کا نہیں۔ تصور شہرہ چشمی کا ہے۔

قرآن کریم کے واضح دلائل، اس کی روشن تعلیمات، اس کے بیان کردہ تاریخی واقعات اور اس کے پیشگوئیاں، سچی و صداقت کے وہ بلند مینار ہیں جہاں شک و شبہہ کا غبار نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی شبہہ کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی کج فہمی اور کور ذوقی ہے۔ اگر یرقان کے بیمار کو ہر چیز زرد دکھائی دے تو یہ اس کی آنکھوں کا قصور ہے ہر چیز تو زرد نہیں۔

قرآن مجید کے مطالعہ کے وقت، اس کا اپنا بتایا ہوا یہ وصف خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ وہ کوئی تاریخ کا دفتر نہیں کہ اس میں سنہ وار، ترتیب کے ساتھ پچھلے زمانے کے واقعات درج ہوں کوئی سائنس کی کتاب نہیں کہ علوم طبیعی و ریاضی کے مسائل کا حل اس کے اوراق میں ڈھونڈھا جائے۔ کوئی فلسفہ کا مقابلہ نہیں کہ اس کے پڑھنے والے، فلسفیوں کے ظنون اور نظریات میں الجھے رہیں۔ افسانوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں کہ پڑھنے والے، اُسے تفریح اور دل بہلانے کے لئے پڑھیں۔ اس کی اصل اور بنیادی حیثیت صرف یہ ہے کہ وہ ہدایت نامہ ہے۔ دستور حیات ہے اور مکمل و مفصل نقشہ زندگی ہے۔ لیکن اس قانونِ عام و ہدایت نامہ ہے پورا پورا فائدہ اٹھانے والے صرف وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر خوفِ خدا موجود ہو۔ کتاب ہدایت نازل تو ساری دنیا کے لئے ہوئی ہے خطاب ساری عالم سے کر رہی ہے لیکن عملاً اس سے نفع صرف وہی لوگ حاصل کریں گے جن کے اندر حق کی طلب اور تلاش ہے اور جن کا

ضمیر زندہ ہے اور جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ آفتاب اپنی جگہ عالمتاب سہی لیکن جن کی بصیرت ہی زائل ہو چکی ان کے لئے تیز سے تیز شعاع بیکار ہے۔ زمین اگر مردہ ہے تو اس کے حق میں بڑی سے بڑی بارش بے اثر ہے غذا بہتر سے بہتر بھی، میضہ کے مریض کے لئے لا حاصل بلکہ مضر ہے قرآن مجید سے استفادہ کے لئے اولین شرط، دل کے اندر کا تقویٰ ہے۔ جو صحیح ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتا (ماخوذ)

## قرآن و حدیث کا باہمی ربط و تعلق

ہمارا ایمان ہے اور یہ ایمان قرآن کریم کی آیات کریمہ اور احادیث نبویہ پر مبنی ہے کہ اللہ عزوجل نے رسول اللہ سید عالم، عالم اعلم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اولین و آخرین عطا فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عظیم اتارا تَبَيَّنَا نَا بِكُلِّ شَيْءٍ بِرَحْمَةٍ كَارِوْشَن بِيَان تَفْصِيْلٍ كُلِّ شَيْءٍ ۶ ہر شے کی کامل شرح مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۸ ہم نے کتاب میں کچھ اٹھانہ رکھا۔

تو قرآن عظیم میں تمام احکام جزئیہ تفصیلیہ ہی نہیں بلکہ ازل سے ابد تک تمام امور بالاستیعاب موجود ہیں امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس میں خبر ہے ہر اس چیز کی جو تم سے پہلے ہے اور ہر اس شے کی جو تمہارے بعد ہے اور حکم ہے ہر اس امر کا جو تمہارے درمیان ہے۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ "اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن عظیم سے اسے پالوں" امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں "میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اونٹ بھر دوں"

یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے پھر باقی کلام عظیم کی کیا گنتی۔

پھر یہ علم، علم علی ہے کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اس کے بعد علم عمر کہ ذہب عمر بتسعة اعشار العلم عمر کے نو حصے لے گئے۔ اس کے بعد علم صدیق کی باری ہے ہم سب میں زیادہ علم ابو بکر کو تھا۔ پھر علم نبی تو علم نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرض قرآن عظیم و فرقان کریم میں سب کچھ ہے۔ جسے جتنا علم اتنی ہی اسے فہم اور جس قدر جسے

فہم ابی قدر اسے علم۔ تو اس عالم امکان میں نہایت نہایت حضور سید الکائنات علیہ وعلی آلہ افضل الصلوٰت ہیں ولہذا ارشاد ہوا اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ۔ اے محبوب بے شک ہم نے تمہاری طرح سچی کتاب اتاری کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے اور علم عطا فرمائے۔

کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ حکم، جو کچھ رائے، جو کچھ طریقہ اور جو کچھ ارشاد ہے سب قرآن عظیم سے ہے، سب قرآن عظیم میں ہے اگرچہ بظاہر وہ حکم وہ ارشاد، وہ رائے وہ طریقہ قرآن عظیم میں ہم نہ پائیں کہ ہم کیا اور ہمارا علم کیا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سن لو مجھے قرآن عطا ہوا اور قرآن کے ساتھ اس کا مثل، ایک اور حدیث میں ہے کہ ارشاد فرمایا: کیا تم میں کوئی اپنے تخت پر تکیہ لگائے گمان کرتا ہے کہ اللہ نے بس یہی چیزیں حرام کی ہیں جو قرآن میں لکھی ہیں۔ سن لو خدا کی قسم میں نے جو حکم دیئے اور نصیحتیں فرمائیں اور بہت چیزوں سے منع فرمایا وہ قرآن کی حرام فرمائی اشیاء کے برابر بلکہ بیشتر ہیں۔ یہ حدیث ابوداؤد میں مروی ہے۔ تو احادیث کرمیہ میں جو کچھ ہے وہ قرآن عظیم ہی کی تفسیر و تشریح ہے۔

ایک اور حدیث شریف میں ہے "سن لو مجھے قرآن عطا ہوا اور قرآن کے ساتھ اس کا مثل خبردار نزدیک ہے کہ کوئی پیٹ بھرا اپنے تخت پر پڑا کہے۔ یہی قرآن لئے رہو۔ اس میں جو حلال پاؤ اسے حلال جانو۔ جو حرام پاؤ اسے حرام مانو۔ حالانکہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی وہ اسی کے مثل ہے جو اللہ نے حرام فرمائی (ابوداؤد ترمذی ابن ماجہ وغیرہم)۔

پس فرمایا رب عزوجل نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰی يُحْكَمُوْكَ الْاٰیۃِ قرآن عظیم قسم کھا کر فرماتا ہے کہ اے نبی جب تک تیری باتیں دل سے نہ مان لیں ہرگز مسلمان نہ ہوں گے۔ طوطے کی طرح زبان سے لاکھ کلمہ رٹے جائیں کیا ہوتا ہے۔ (لمعة الضعی ملتقطاً)

تو کہنا یہ ہے کہ

قرآن مجید صحیفہ ربانی ہے جو تمام انسانوں اور ہر زمانہ کے لئے نازل فرمایا گیا ہے یہ ایک عام قانون ہے جو دوامی طور پر نافذ ہے اور تاقیام قیامت نافذ رہے گا۔ لیکن ہر عام قانون کے خاص قواعد ہوتے ہیں۔ مجمل احکام کے نفاذ کے لئے خصوصی اشکال کا تعین کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو اس آخری اور

مکمل صحیفہ ربانی کی تشریح اور اس کے قواعد کی تدوین بھی لازمی تھی ورنہ ہر شخص اپنی استعداد اور ہر زمانہ اپنے رنگ و ماحول کے لحاظ سے ایسا عمل کرتا جس سے یکجہتی مفقود ہو جاتا اور دنیا کا صحیح طور پر ارتقاء پانا محال ہو جاتا۔ اسی وجہ سے قرآنی احکام کی توضیح و تشریح لازم آئی۔ ظاہر ہے کہ اس کے لئے وہی عظیم ہستی موزوں ہو سکتی تھی جس کو خداوند تعالیٰ نے نزولِ قرآن کے لئے منتخب فرمایا تھا۔ اسی توضیح و تشریح کا نام ہے حدیث نبوی۔

کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن پہنچانے والے کے ہر قرآنی لفظ کو تو من و عن تسلیم کر لیا جاتا ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے لیکن وہ جو اپنے آپ کو "اہل قرآن" بتاتے ہیں اسی پہنچانے والے کی تشریح و توضیح کو تسلیم کرنے سے گریز کرتے ہیں

غرض رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت قرآن کے شارح کی ہے۔ آپ قرآن مجید کی مجمل آیتوں کی تشریح اپنے قول و فعل سے فرمایا کرتے تھے کبھی صرف قول سے کبھی صرف فعل سے۔ اور کبھی ایک ساتھ قول و فعل دونوں کے ذریعہ سے مثلاً آپ نے غزاد افرمائی اور فرمایا "اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا" آپ نے حج ادا کیا اور فرمایا مجھ سے اپنے حج کے مناسک سکھو۔ اور اس حیثیت سے حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے مفہوم پر قرآن مجید نے اجمال یا تفصیل سے دلالت نہ کی ہو۔ اسی لئے قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کو واجب التعمیل قرار دیا اور دو چارجگہ نہیں قرآن کریم میں بہ کثرت ایسی آیات موجود ہیں جو صاف بتاتی ہیں کہ ہر حال میں ہر حکم میں حضور کی فرمانبرداری فرض و لازم ہے اور ایک عام حکم یہ ہے کہ وما اتکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لو اور جس بات سے تمہیں روک دے رک جاؤ اور سب سے بڑھ کر شمع رسالت کے جگمگاتے نور (سبداً اجاً منیراً) سے فیض یاب ہونے کے لئے صرف یہی ایک ہدایت کافی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔  
 ہ تمہارے لئے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔

### تنبیہ ضروری

مسلمانو! یہ گمراہ قوم جن کی پیشگوئی احادیث مذکورہ میں گزری صرف حدیثوں ہی کے منکر نہیں بلکہ

حقیقتاً قرآن عظیم کو عیب لگانے والے اور دین متین کو ناقص و ناقص بنانے والے ہیں۔ حدیثیں تو یوں چھوڑیں کہ انبیاء صرف درستی اخلاق کے لئے آتے ہیں۔ حدیثوں کی باتیں اخلاق سے ہوتیں تو قرآن میں کیوں نہ آتیں۔ ورنہ قرآن اخلاقی احکام سے خالی اور دین ناقص ٹھہرتا ہے۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یوں بیکار گئیں پھر اور کسی بات کا کیا ذکر۔ نبائی حدیث، بعدہ یومنون۔ اب گنتی کے وہ احکام رہ گئے جن کی صاف صریح تفسیر کتاب اللہ میں ہے۔ ان کے سوا سب اخلاق سے خارج۔ تہذیب و اخلاق کے ہزاروں احکام جن میں کوئی ذی عقل نزاع نہ کر سکے، معاذ اللہ اسلام کے نزدیک مہمل و معطل اور تمامی دین باطل و مختل۔ مثلاً مردوں کا داڑھی موچھ منڈا کر، بال بڑھا کر، چوٹی گندھوا کر، ہاتھ پاؤں میں مہندی رچا کر، زنا نے کپڑے، گوڑے پٹے مسلے کے پہن کر، سر سے پاؤں سے جڑاؤ گھنٹوں سے بن ٹھنکر ہزاروں کے مجمع میں ناچنا، بھاؤ بتانا، کس آیت میں حرام کھلے۔ اعضائے رجولیت کٹا کر زخمنہ بننا، ناک پر انگلی رکھ کر تالیاں بجانا کس سورت میں آیا ہے و علیٰ ہذا القیاس ہزاروں افعال و سوا اس خناس۔ اب منکر متکبر سے پوچھا جائے کہ ان افعال اور ان کے امثال کو معاذ اللہ ملت اسلام میں حلال بتا کر دین کو عیاذاً باللہ سخت بیہودہ و نامہذب بنائے گا۔ یا شرما شرمی، حرام ٹھہر کر، نصوص قرآنیہ خالی پا کر، معاذ اللہ قرآن عظیم کو ناقص و ناقص بنائے گا۔

ایسے حضرات کی تمام جدید تحقیقات شقیہ کا اندرونی بخار و ہی پادریوں کی خفیہ اعانت دنیا اور دین متین کا مضحکہ اڑانا ہوتا ہے۔ وسیعہ الذین ظلموا ائی منقلب ینقلبون (لمعۃ الضعی)

## قضاء و قدر کا بیان

عقیدہ ۱۔ عالم میں جو کچھ بھلایا برا ہوتا ہے اور بندے سے جو کچھ بھلائی یا برائی، نیکی یا بدی کے کام سرزد ہوتے ہیں وہ سب اللہ عزوجل کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرمادی ہے یعنی جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرتا پڑتا ہے بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی تھی اس لئے کہ زید برائی کرنے والا تھا۔ اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا وہ اس کے لئے بھلائی لکھتا تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے سے کوئی مجبور

نہیں ہو گیا۔ اسی کو قضا و قدر یا تقدیر کہتے ہیں۔ اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ایک انجینئر مکان وغیرہ بنانے سے پہلے مکان کی تمام جزئیات پر غور کر کے پہلے ہی نقشہ تیار کر لیتے ہیں اور اسی نقشہ مجوزہ کے مطابق معمار اور مزدور اس تعمیر کو مکمل کرتے ہیں اسی طرح اس خالق کائنات نے جو ہر تشبیہ سے بالاتر ہے کائنات کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے تمام اصول و قواعد اور دوسرے اہم جزئیات طے کر کے ہر چیز کی نسبت فیصدہ کر دیا تھا اب اسی فیصدہ کے مطابق یہ کائنات اور اس کے تمام حوادث و واقعات انجام پارہے ہیں اور اسی کے مطابق وہ ظہور پذیر ہوتی ہے۔

**تشریح :-** اللہ قادر و قدیر نے بندوں کو پیدا فرمایا جس نے تمام حیوانات کو پیدا فرمایا۔ انہیں کان آنکھ ہاتھ پاؤں، زبان وغیرہ عطا فرمائے اور انہیں کام میں لانے کا طریقہ الہام فرمایا۔ پھر اعلیٰ درجے کے شریف جوہر یعنی عقل سے ممتاز فرمایا جس نے تمام حیوانات پر انسان کا مرتبہ بڑھایا۔ پھر لاکھوں باتیں ہیں جن کا عقل ادراک نہ کر سکتی تھی لہذا انبیاء بھیج کر، کتابیں اتار کر، ذرا ذرا سی بات بتادی اور کسی کو عذر کی کوئی جگہ باقی نہ چھوڑی۔ آدمی جس طرح نہ آپ سے آپ بن سکتا تھا نہ اپنے لئے کان ہاتھ پاؤں زبان وغیرہ بنا سکتا تھا یوں اپنے لئے طاقت و قوت، ارادہ و اختیار بھی نہیں بنا سکتا۔ سب کچھ اسی نے دیا اور اسی نے بنایا۔ انسان کو ایک نوع اختیار دیا کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے تو اس ارادہ اور اختیار کے پیدا ہونے سے آدمی صاحب ارادہ و صاحب اختیار ہوا نہ کہ مضطر و مجبور، اور لاچار و مقہور۔ قانون مشیت نے انسان کو آزادی دے رکھی ہے۔ انسان اپنے طریق عمل کے انتخاب میں آزاد ہے اور اپنے ارادے کا مالک و مختار اچھی یا پری جو راہ چاہے اپنی پسند و قصد سے اختیار کرے۔

آدمی اور پتھر میں آخر کیا فرق ہے؟ یہی ناکہ وہ ارادہ و اختیار نہیں رکھتا اور آدمی میں یہ صفت اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہے۔ تو یہ کیسی الٹی مت ہے کہ جس صفت کے پیدا ہونے سے انسان کو پتھر سے ممتاز کیا اسی کی پیدائش کو اپنے پتھر ہو جانے کا سبب سمجھے اور دیگر جمادات کی طرح آپ آپ کو بے حس و حرکت اور مجبور محض جانے۔

تو کہنا یہ ہے کہ یہ ارادہ و اختیار جس کا انسان میں پایا جاناروشن اور بیداری امر ہے قطعاً یقیناً اللہ عزوجل ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس نے ہم میں ارادہ و اختیار پیدا کیا۔ اس سے ہم اس کی عطا کے لائق مختار و صاحب اختیار ہوتے۔ یہ ارادہ و اختیار ہماری اپنی ذات سے نہیں تو ہم "مختار کردہ" ہوتے "خود مختار"۔



میا مختار کل "نہ ہوئے کہ شتر بے مہار بنے پھریں اور ہم سے کسی قسم کی باز پرس نہ ہو۔"  
 بس یہی ارادہ یہی اختیار جو ہر شخص اپنے نفس میں دیکھ رہا ہے، عقل و شعور کے ساتھ اس کا پایا جانا  
 یہی دنیا میں شریعت کے احکام کا مدار ہے اور اسی بنا پر آخرت میں جزا و سزا اور ثواب و عذاب اور اعمال  
 کی پرسش و حساب ہے۔ جزا و سزا کے لئے جتنا اختیار چاہیے وہ بندے کو حاصل ہے۔

(التبجیر وغیرہ)

عقیدہ ہر تدبیر منافی تقدیر نہیں بلکہ تقدیر الہی کے موافق ہے۔ جس طرح تقدیر کو بھول کر تدبیر  
 پر بھولنا اور اسی پر اعتماد کر بیٹھنا۔ کفار کی نھلت ہے یونہی تدبیر کو محض عبث و فضول اور مہمل و لا حاصل  
 بتانا کھلے کفار یا پکے مجنوں کا کام ہے۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت  
 مجوس بتایا ہے۔

تشریح :- دنیا عالم اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے اس عالم اسباب میں  
 مسببات سے مربوط فرما دیا ہے یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے لئے سبب بنا دیا ہے اور ہر قسم کے سامان و  
 اسباب مہیا فرما دیئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انسان کو عقل و شعور دے کر اسے ارادہ و اختیار والا بنا دیا ہے  
 کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور سنت الہی یوں جاری ہے کہ  
 سبب پایا جلے تو مسبب رہتی وہ دوسری چیز جس کے لئے یہ سبب ہے پیدا ہو۔ تو انہیں اسباب کو عمل  
 میں لانا اور انہیں کسب فعل (کسی کام کے کرنے) کا ذریعہ بنانا، اسی کا نام تدبیر ہے۔

انبیائے کرام سے زیادہ تقدیر الہی پر کس کا ایمان ہو گا پھر وہ بھی ہمیشہ تدبیر فرماتے اور اس کی راہیں  
 بتاتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زہر بنانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دس برس حضرت شعیب  
 علیہ السلام کی بکریاں اجرت پر چرانا قرآن میں مذکور ہے۔

اللہ تعالیٰ خالق کائنات و قادر مطلق ہے۔ اس نے پیدا زہر کو بھی کر رکھا ہے۔ اور بیماری کو بھی۔ لیکن  
 بحثیت حاکم و آمر اس کا حکم یہی ہے کہ بیماری کا علاج کیا جائے۔ اور زہر کا توڑ، تریاق سے کیا جائے۔ یہی  
 تدبیر ہے اور عین حکم الہی و حکمت الہی کے مطابق۔ تو اسے منافی تقدیر سمجھنا سراسر غلط ہے۔ اور  
 جو کچھ ہم، خدا کی قدرت اور اپنی مجبوری کو اپنی بے دینی اور بد کرداری کے لئے جیلہ اور آڑ بناتے ہیں وہ  
 آخر بیماری میں اپنا علاج کیوں کرتے ہیں اور روحانیات کی طرح جسمانیات کے ہر آزار میں  
 اپنے کو معذور و مجبور کیوں نہیں سمجھتے۔ تو جس طرح اپنے آپ کو بالکل مختار سمجھنا کج روی ہے۔

یوہیں جمادات کی طرح اپنے آپ کو مجبور محض سمجھنا بھی گمراہی ہے۔

**عقیدہ۔** برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالہ کرنا بہت بُری بات ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے منجانب اللہ اور جو بُرائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔

**تشریح۔** اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ الْآيَةُ** ”سب اللہ کی طرف سے ہے اور اسے سننے والے تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو بُرائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے“ یعنی گرانی ہو یا ارزانی، قحط ہو یا فراخ حالی، رنج ہو یا راحت، آرام ہو یا تکلیف، فتح ہو یا شکست، دکھ ہو یا سکھ، سب کا سبب الاسباب حقیقۃً اللہ تعالیٰ ہی ہے اور حقیقت میں سب اسی کی طرف سے ہے۔ سکھ اور راحت اگر ہے تو یہ براہ راست اس کے فضل و کرم کا ظہور ہے اسی کی بخشش و رحمت ہے، اعمال خیر کی وسالت کے بغیر۔ اور دکھ یا رنج اگر پیش آ رہا ہے تو یہ اس کے عدل کا ثمرہ ہے اور واسطہ ہیں اس کے لئے اعمال بد۔ کہ آدمی نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا اور اس کا مستحق ہوا تو جو کچھ بھی پیش آیا وہ ان بد اعمالیوں بد کرداریوں کا لازمی نتیجہ ہے۔ آیت میں بدی کی نسبت بندے کی طرف بر سبیل ادب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جب فاعل حقیقی کی طرف نظر کرے تو ہر چیز کو اسی کی طرف سے جانے اور جب اسباب پر نظر کرے تو برائیوں کو اپنی شامت نفس کے سبب سے سمجھے کہ جو رنج و تکلیف درپیش ہے اس کا باعث خود اس کی اپنی کوتاہیاں اور غفلتیں ہیں۔

## فائدہ عظیمہ

اللہ جل و علا رحیم بھی ہے اور قہار مجباً ہے۔ رحمت شان جمال ہے اور قہر، شان جلال۔ دوستوں کو انواع نعمت سے نوازنا، ان کے لئے بہشت اور اس کی خوبیاں آراستہ فرمانا، انہیں اپنی رضا و دیدار سے بہرہ مندی بخشنا تجلی شان جمال ہے۔ اور دشمنوں کو اقسام عذاب کی سزا دینا، ان کے لئے دوزخ اور اس کی سختیاں مہیا فرمانا۔ انہیں اپنے غضب و مجاب میں مبتلا کرنا، تجلی شان جلال ہے۔ پھر دنیا میں جو کچھ نعمت و نعمت و راحت و آفت ہے انہیں دونوں شانوں کی تجلی سے ہے۔ کبھی یہ شانیں ایک دوسرے کے لباس میں جلوہ گر ہوتی ہیں مثلاً دنیا میں کفار کو کثرت مال وغیرہ دنیا کی راحتیں دینا بظاہر شان جمال

اور درحقیقت شان جلال ہے کہ اس کے سبب وہ اپنی غفلت و گمراہی کے نشے میں پڑے رہتے ہیں اور ہدایت کی توفیق نہیں پاتے۔ قال اللہ تعالیٰ: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتِّعَانُنِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنْفُسِهِمْ - الایہ یعنی کافر یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ بلکہ وہ اس لئے ہے کہ وہ اور گناہ میں پڑیں اور ان کے لئے ذلت کی مار ہے یا مثلاً اپنے محبوبوں کے لئے بلا بھیجنا کہ اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءَ الْأَنْبِيَاءِ شَرًّا لِّمَثَلٍ فَاَلَا مَثَلٌ۔ بظاہر شان جلال ہے اور حقیقتہً شان جمال کہ اس کے باعث وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں پاتے ہیں قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ۔ تم اسے اپنے حق میں برائی نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لئے بڑی بھلائی ہے۔

توصالحمین و ابرار کو جو حوادث و مصائب پیش آتے ہیں وہ صرف صورت ہی مصائب ہوتے ہیں حقیقت میں ان کی بلندی مراتب کے لئے اور ذریعہ رحمت ہوتے ہیں اور اس لئے ان کے حق میں بد اعمال کا ثمرہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔  
(کشف حقائق وغیرہ)

عقیدہ: - قضا و قسم ہے ایک مُبَرَّم کہ علم الہی میں کسی فے پر معلق نہیں۔ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَاتِبٌ (قلم خشک ہو گئے اس پر جو کچھ ہونے والا ہے) اس کا بیان ہے۔ دوسری معلق کہ مَا يُعْتَرُ مِنْ مُعْتَرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُنْصُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ۔ (اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے یہ سب ایک کتاب میں ہے) اس کا نشان ہے۔ پھر قضا کے معلق دو قسم ہے ایک معلق محض، جس کی تعلیق کا ذکر لوح و محفوظ کی دفتیوں یا صحف ملائکہ میں بھی ہے۔

دوسری معلق شبیہ بہ مُبَرَّم کہ علم الہی میں معلق ہے مگر فرشتوں کے صحیفوں میں یا کہیں اور اس کی تعلیق مذکور نہیں۔ تو وہ جو مُبَرَّم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اور وہ جو ظاہر قضا کے معلق ہے یعنی معلق محض، اس تک اکثر اولیا کی رسائی ہوتی ہے۔ ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے۔ اور وہ جو متوسط حالت میں ہے یعنی قضا کے معلق شبیہ بہ المُبَرَّم اور جسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مُبَرَّم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس تک خواص عباد اللہ جنہیں امتیاز خاص حاصل ہے یعنی اکابر اولیاء اللہ کی رسائی ہوتی ہے وہ بالہام ربانی اس کی تعلیق پر مطلع ہوتے اور اس کے دفع میں اذن الہی پا کر دعا کرتے ہیں اور بوجہ اس تعلیق کے جو علم الہی میں تھی مندرج ہو جاتی ہے۔

**تشریح:** قال الله تعالى - يَدْحُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝  
 اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے "علمائے کرام فرماتے ہیں آیہ  
 کریمہ میں ام الكتاب سے مراد علم الہی ہے اور ظاہر ہے کہ علم الہی نہیں بدلتا۔ یا اس سے مراد اصل لوح  
 محفوظ ہے جس میں تمام کائنات اور عالم میں ہونے والے جملہ حوادث و واقعات اور تمام اشیاء مکتوب  
 ہیں اور اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ یہ قضائے مُبَرَّم حقیقی ہے۔ ہاں لوح محفوظ یعنی اصل کتاب کے علاوہ  
 اس کی دو طرفہ زفتیوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ قضائے معلق ہے جس کے وقوع پذیر ہونے کو کسی دوسری  
 چیز کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہو کہ اگر یہ شرط پائی گئی تو یہ پیر پائی جائے گی ورنہ نہیں۔ تو لوح تغیر سے محفوظ  
 ہے تَغْيِيرٌ وَتَثْبِيْتٌ وَصَحْفٌ مُلْتَكَمٌ فِيهَا ۝

اور وہ جو قضائے مُبَرَّم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس  
 بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے۔ ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے  
 کر آئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کہ رحمت محض تھے۔ ان کا نام مبارک  
 ہی ابراہیم ہے یعنی اب رحیم۔ مہربان باپ "ان کافروں کے بارے میں اتنے ساعی ہوئے کہ اپنے رب سے  
 جھگڑنے لگے۔ ان کا رب فرماتا ہے۔ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۝ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے  
 بارے میں۔"

قوم لوط پر یہ عذاب قضائے مُبَرَّم حقیقی تھا۔ خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس میں جھگڑے تو  
 انہیں ارشاد ہوا يَا اِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا اِنَّهُمْ اَتَيْبِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ۝  
 اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں۔

اور قضائے معلق شبیہ بالمُبَرَّم وہ قضائے جو صالح رد ہے اور اسی کی نسبت حضور سیدنا غوث  
 اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد اجد ہے کہ سب اولیاء قضائے مُعَلَّقٌ کو روکتے ہیں اور میں قضائے مُبَرَّم  
 کو رد فرماتا ہوں (او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ولہذا فرماتے ہیں "تمام اولیاء مقام قدر پر پہنچ کر رک  
 جلتے ہیں سو میرے کہ جب میں وہاں پہنچا میرے لئے اس میں ایک روزن کھولا گیا جس سے داخل ہو کر  
 نَادَعَتْ اَقْدَارَ الْحَقِّ بِالْحَقِّ لِلْحَقِّ ۝ میں نے تقدیرات حق سے حق کے ساتھ حق کے لیے منازعت  
 کی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه عنہ و احشرنا فی زمرة من تبعہ ووالا لا آمین۔"



وجاہت نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا۔ حالانکہ ان کا رب عزوجل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے تعبیر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔

حضرت ابنیئے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام، اپنی امت کے حق میں ہوتے ہی ہیں۔ شفقت مجسم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنی لٹری شفقت، نرم خوئی، گداز قلبی، حلیم المزاجی میں تو شاید سب سے بڑھے چڑھے تھے۔

اللہ اکبر! ذرا تصور تو کیجئے کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسے اولوالعزم نبی، لوط علیہ السلام کی قوم پر ترس کھا کر اس کی سفارش میں اصرار بلیغ کرتے ہیں مولائے کائنات اور اس کے محبوب جلیل میں کمال بندہ نوازی اور ناز برداری کے ماتحت رد و کد جاری ہے۔ کہ کسی نہ کسی طرح عذاب ٹل جائے اور اس اصرار و ہم کو مولائے قدوس بجا دلنا سے تعبیر فرماتا ہے اس جگہ جھگڑے کا لفظ جس انتہائی محبت اور بارگاہ رب العزت میں ان کے قرب اور ناز برداری کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے اس کا لطف کچھ اہل محبت ہی اٹھا سکتے ہیں۔ مولائے بے نیاز کا ایک بندہ نیاز مند کے لئے یہ انداز حکایت صاف بتا رہا ہے کہ ادھر سے شان محبوبی دکھائی جا رہی ہے اور ادھر ان کا مالک و مولیٰ بکمال بے نیازی، ان کی ناز برداری فرما رہا ہے۔ بندہ کو اصرار ہے۔ کہ عذاب ٹل جائے اور قضائے الہی کا تقاضا ہے کہ عذاب نازل ہو کر رہے۔ آخر بڑی محبت اور ناز برداری فرماتے ہوئے جواب دیا جاتا ہے۔ اِنْبِرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۙ بِنْدَةٍ كِنَاہِ بِرْحَالٍ محدود ہوتی ہے حکمت الہی کا احاطہ کہاں کر سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر دیا جب انہیں بتایا گیا کہ اب اس قوم میں خیر کی صلاحیت باقی نہیں عذاب ہی کے قابل ہیں۔

اتنی بات ضرور ذہن نشین رکھیں کہ جب اپنے سے کسی برتر و بالا، اور صاحب اقتدار ہستی کے ساتھ قریبی تعلق اور خصوصی رابطہ ہوتا ہے اور طرفین میں کمال محبت اور انتہائی پیار پایا جاتا ہے تب ہی کسی بات پر اصرار کی نوبت آتی ہے۔ ورنہ کون اس قسم کی جرأت کر سکتا ہے؟ اور کسی غلط فہمی کے باعث ایسی بات اگر زبان پر آ بھی جاتی ہے تو "ایاز قدر خود بشناس" کا جواب ملتا ہے قبر و عتاب کی بجلی کوندتی ہے اور سخت تنبیہ سے اسے باز رہنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں بڑی محبت اور انتہائی ناز برداری سے انہیں حقیقت حال سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔

دربار الہی میں محبوبان خدا کی عزت و وجاہت کا عالم یہ ہے کہ حدیث شریفین میں ہے "شب معراج حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص، اللہ عزوجل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام، فرمایا "کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں۔" عرض کی "ان کا رب جانتے ہیں کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔"

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد۔

اور یہ بات تو اپنے بارہا علمائے کرام سے سنی ہوگی کہ جب آیہ کریمہ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل ہوئی کہ بے شک عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا اور تم پر مخصوص رحمتوں اور نوازشوں کا ایسا فیضان ہوگا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضور سیدالمحبوبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا كَا رَضِي وَ وَاِحِدًا مِّنْ اُمَّتِي فِي النَّارِ . ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا۔ اگر میرا ایک (مسلمان) امتی بھی آگ میں ہو۔ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ كُلِّ مَرٍ هُوَ مَرْضِيٌّ لِّدَائِي . یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں جن پر رفعت عزت و وجاہت ختم ہے۔ صَلَوَاتُ اللّٰهِ تَعَالَىٰ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ .

مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو محل سے گرجا ہے اس کے لئے حدیث میں آیا کہ روز قیامت اللہ عزوجل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لئے ایسا جھگڑے گا جیسا قرصخواہ کسی قرصدار سے۔ یہاں تک کہ فرمایا جلے گا اَيْتُّهَا السَّقَطُ الْمَرَاغِمُ رَبِّمَا . اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔

یہ چند واقعات انشاء اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لئے بہت نافع اور شیطاںین الانس کی خباثت کے لئے دافع ہیں۔ ناظرین انہیں خوب ذہن نشین کر لیں تاکہ ان کی گمراہیوں اور کج رویوں کا شکار نہ ہوں اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُمْ .

عقیدہ: جس قدر افعال، خواہ اختیاری ہوں یا اضطراری، بندوں کے لئے ممکن یا ان سے صادر ہوتے ہیں، ان سب کا خالق اللہ عزوجل ہے اور ان سب کا وقوع، تقدیر ازلی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے، ہوتا ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے کاموں سے راضی اور برے

کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جن اچھے کاموں سے وہ راضی ہیں انہیں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور جن سے وہ ناراض ہے۔ ان کے کرنے سے منع فرماتا ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ ارادہ و مشیت الہی اور چیز ہے اور حکم کرنا اور راضی ہونا دوسری چیز ہے۔

تنبیہ :- قضاء و قدر کے مسائل اور تقدیری امور، عام عقولوں میں نہیں آسکتے۔ ان میں زیادہ غور و فکر کرنا یا انہیں کسی مجلس میں بحث بنا کر قیل و قال کرنا، بلاکت و نامرادی کا سبب اور دنیا و آخرت میں محرومی و خسران کی موجب ہے۔ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے۔ ماوشما کس گنتی کس شمار میں ہیں۔ حضرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے کہ تقدیر ایک گہرے سمندر کی مانند ہے جس کی تاہ تک کسی کی رسائی نہیں۔ تقدیر ایک تاریک راستہ ہے جس سے گزرنے کی کوئی راہ نہیں۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جس پر انسان کی عقل کو دسترس نہیں۔ بس اتنا سمجھ لو کہ انسان جمادات کی مانند ہے جس و حرکت اور مجبور محض نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نوع اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے اور اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ بھلے بڑے، نفع نقصان کو پہچان سکے اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دینے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور اسی بنا پر اس سے مواخذہ ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں۔ تقدیر ان دونوں کے درمیان ایک حالت ہے جس تک ہماری عقل کو رسائی نہیں۔ اللہمَّ وَفَقْنَا لِمَا نَحْبُ وَتَرْضَاهُ وَآمِنَّا عَلَى الْكِبَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ وَالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔

## ملائکہ کا بیان

ملائکہ جمع ہے ملک کی۔ اس کا ماخذ اشتقاق الؤ کہ ہے جس کے معنی ہیں پیامبری یا پیغام رسانی۔ اور ملک کا لفظی ترجمہ ہے فرستادہ یا فرشتہ ملائکہ کو ملائکہ کہتے ہیں اس لئے ہیں کہ ان کا اصل کام پیام رسانی ہوتا ہے اور یہ خالق کے پیغامات مخلوق تک لایا کرتے ہیں۔ یہ محض مجرد قوتیں نہیں ہیں جو تشخص نہ رکھتی ہوں بلکہ یہ شخصیت والی نورانی ہستیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنی اس عظیم الشان سلطنت کی تدبیر و انتظام میں کام لیتا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلطنت الہی کے اہل کار ہیں جو مختلف خدمتوں



سے وابستہ ہیں اور اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں۔ یہ وہ لطیف و نورانی اجسام ہیں جو مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں ان کی حقیقت صورت و ساخت میں انسانوں کی طرح نہیں۔ عام طور پر نظر نہیں آتے ہاں ان کا شعور بعض حالات میں، عبادات و ریاضات کے دوران ہوجاتا ہے جیسا کہ احادیث کرمیہ سے ثابت ہے کہ فرشتے عبادت گزاروں اور شب بیداری کرنے والوں سے مصافحہ اور معافیہ کرتے ہیں اور انسان اس کی لذت میں وارفتہ ہوجاتا ہے۔

تفسیر ضیاء القرآن میں فرمایا کہ ان کو ان کی اصل شکل میں صرف اولیاء کا یقین ہی دیکھ سکتے ہیں اور ہونا بھی یونہی چاہیے کیونکہ مختلف اشیاء کا شعور و ادراک ایک ہی قوت سے نہیں ہوتا بلکہ مختلف قوتیں مختلف چیزوں کا ادراک و شعور کرتی ہیں۔ رنگت کا ادراک آنکھ سے اور حرارت کا چھونے سے ہوتا ہے نابینا اگر سرخ و سفید کو نہ سمجھ سکے تو وہ معذور ضرور ہے لیکن اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ سرخ و سفید کا انکار ہی کر دے۔ اسی طرح ملائکہ جن کا تعلق عالم ارواح سے ہے اگر ظاہری حواس انہیں نہ پاسکیں تو وہ معذور ہیں۔ اور وہ آنکھ جو عالم ارواح کے اسرار و لطائف دیکھ سکتی ہے وہ تو اس وقت روشن ہوتی ہے جب ریاضت اور مجاہدات سے تزکیہ نفس ہو اور دل کا آئینہ چمکنے لگے۔ جو لوگ ساری عمر لذات و خواہشات کے دریے رہتے ہیں۔ جنہوں نے تزکیہ نفس کی اہمیت کا کبھی احساس نہیں کیا وہ اگر اس نورانی اور لطیف مخلوق کو نہ دیکھ سکیں تو معذور ہیں لیکن انہیں کسی طرح یہ زیبا نہیں کہ وہ ان نفوس قدسیہ کے مشاہدات کا انکار کریں جن کی چشم دل بیدار بھی ہے اور بینا بھی۔ اس لئے جن لوگوں نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا ہے اور مختلف دوراز کار اور رکیک تاویلیں کی ہیں ان کا انکار بھی علمی نہیں اور ان کی یہ تاویلیں بھی کسی سائنس کی مستحق نہیں۔ انتہی۔

الغرض یہ نورانی ہستیاں، عام طور پر نظر نہیں آتیں مگر جنہیں اللہ چاہتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھنے ہیں۔ انبیلے کرام انہیں ملاحظہ فرماتے اور ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اور بندگان صالحین میں سے جسے اللہ چاہے انہیں فرشتے نظر آتے ہیں۔ اور مرتے وقت مسلمان کو رحمت کے اور کافر کو عذاب کے فرشتے دکھائی دیتے ہیں اور قبر میں تو یہ حقیقت اور زیادہ واضح طور پر نظر میں آجائے گی۔

پھر جب رسالت اور رسالت کے ساتھ کتب سماویہ پر ایمان لانا، ایک حقیقت ثابتہ اور لازمہ ہے کہ کسی فرد بشر کو اس سے مفر نہیں اور نہ فرار سے کہیں قرار، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں

اس لئے ایمان لانا اور صدق دل سے انہیں اسکی طرح ماننا جیسا کہ زمانہ رسالت سے آج تک مسلمان مانتے چلے آ رہے ہیں، اس لئے بھی فرض ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے صاف صاف و اشکات الفاظ میں بار بار یہ اعلان فرمایا اور فرماتے رہے کہ خداوند قدوس کی جانب سے ان پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کے لئے دل فرشتے ہیں۔

تو اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو کوئی سر پھرا، پرانا فلسفی، نیا نیچری، انبیائے کرام کی صداقت ہی کا انکار کر دے اور دنیا و آخرت کی ہلاکتوں میں پڑ جائے۔ یا پھر بلاچوں و چپرا، اپنی ان آنکھوں سے دیکھے بغیر فرشتوں پر ایمان لے آئے کہ ان کے وجود و تشخص کے متعلق بتانے والی ہستیاں، بالخصوص سید المعصومین علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیم اپنے کردار و اعمال میں، ہر طرح صادق و امین اور امراض دماغی و قلبی، جنون و سحر سے ہر طرح پاک و منترہ ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جس شے کو آنکھوں نے نہ دیکھا ہو اور کانوں نے نہ سنا ہو وہ حقیقت میں بھی غیر موجود ہو۔ کیونکہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ کسی شے کے عدم علم اور نادانیت سے، اس شے کا عدم لازم نہیں آتا۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ جس بات کو ہم نہیں جانتے یا جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ واقع میں بھی موجود نہ ہو۔ آخر ہوا کو بھی آنکھوں سے بن دیکھے مانا جاتا ہے۔

**عقیدہ ۱۔** فرشتے خداوند تعالیٰ کی مخلوقات میں، اجسام نوری ہیں لیکن وہ انسانوں کی طرح صورت و ساخت میں نہیں ہیں۔ وہ نوری مخلوق ہیں اور وجود خارجی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور کبھی دوسری شکل میں۔

**تشریح ۱۔** فرشتے اپنے فرائض منصبی کے سلسلہ میں حسب ضرورت مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ صورت اور بدن ان کے حق میں ایسا ہے جیسا ہمارے لئے لباس۔ ہاں قرآن شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے بازو ہیں اور ان کی اس کیفیت کا بھی صحیح علم خدا اور رسول کے بتائے بغیر انسان کو اپنے ان قوی کے ساتھ ممکن نہیں۔ لہذا فرشتوں کے پروں اور بازوؤں کو تمام تر دنیا کے پرندوں پر قیاس کر لینا اور انہیں ان کی تصویر ان کا عکس سمجھ لینا صحیح نہیں چنانچہ بالعموم خود تین تین چار چار بازوؤں کا نقشہ تو دنیاوی مشاہدہ کے خلاف ہی ہے۔ لہذا ہمیں اس پر ایمان رکھنا

چاہیے کہ ان کی حقیقت بالکلیہ اللہ ورسول جانیں جہل و غلا و صلی اللہ علیہ وسلم۔

**عقیدہ بندہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے۔** خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے نہ قصداً نہ سہواً نہ خطاؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں۔ ہر قسم کے صفائے و کبائر سے پاک ہیں اور وہ ازہر گناہ سے بری۔ اسی لئے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب و مکرم بندے ہیں۔ ان کی سرشت معصومانہ ہوتی ہے یعنی بدی کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ گویا ان کی خلقت، اطاعت و فرمانبرداری ہی کے لئے کی گئی ہے۔

**عقیدہ ۱۰۔** ان کی مختلف خدمتیں سپرد ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے مختلف کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور جو خدمت جس کے سپرد ہیں بس وہ اسی میں لگا رہتے ہیں۔

**تشریح ۱۔** ان فرشتوں کی ایک کثیر تعداد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور اس کی تجمید و ثنا اور ذکر و عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آسمانوں میں بالشت پھر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ نہ پڑھتا ہو یا تسبیح نہ کرتا ہو۔ بعض کے ذمہ حضرات انبیائے کرام کی خدمت میں وحی لانا ہے۔

کسی کے متعلق پانی برسانا۔ کسی کے متعلق ہوا چلانا۔ کسی کے متعلق روزی پہنچانا۔ کسی کے ذمہ ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانا۔ کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا۔ کسی کے متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا۔ کسی کے متعلق انسان کے نامہ اعمال لکھنا کہ جتنے الفاظ انسان اپنی زبان سے نکالتا اور جتنے افعال کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ اس کو قلم بند کرتے جاتے ہیں اور یہی نامہ اعمال کی صورت میں پیش کئے جائیں گے۔

ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہیں ایک داہنے ایک بائیں۔ نیکیاں دائیں طرف کا فرشتہ لکھتا ہے اور بدیاں بائیں طرف کا۔ ان کو کراماتین کہتے ہیں۔ کسی کے متعلق ذکر خدا ورسول کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا۔ انہیں ملائکہ سیاحین سیاحت کرنے والے کہتے ہیں۔

بہتوں کا دربار رسالت میں حاضر ہونا۔ کسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسلمانوں کے درود و سلام پہنچانا۔ بعضوں کے متعلق مردوں سے ان کی قبروں میں سوال کرنا۔ کسی کے ذمہ قبض روح کرنا۔ چنانچہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے ملک الموت بحکم الہی اپنے اعوان و مددگار فرشتوں کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو خود قبض فرماتے

ہیں۔ بعضوں کے ذمہ عذاب کرنا۔ کسی کے متعلق صدر بھونکنا۔

بعض فرشتے اس کام پر متعین ہیں کہ وہ بندگان خدا کو تمام گناہوں سے آگاہ کر دیں اور انہیں معصیت و گناہ میں مبتلا ہونے سے روکیں اور نہ صرف وہ گناہوں کے کاموں سے بچاتے ہیں۔ بلکہ نیک کاموں کی طرف بھی ترفیب دلاتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو ملائکہ انجام دیتے ہیں۔

**عقیدہ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت نہ مادہ کی مادی جنسیت سے وہ پاک ہیں نہ ان کے اندر قوت شہوت ہے نہ ان کے اولاد ہوتی ہے۔ ہر ایک فرشتے کا جدا گانہ کام متعین ہے اور جس کام کے لئے وہ متعین کیا گیا ہے اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ ذکر الہی اور حکم خداوندی کی تعمیل ان کی غذا ہے۔**

**عقیدہ ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔**

**عقیدہ فرشتوں کی لامتناہی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا اور اس کے بتلے سے اس کا رسول۔**

**تشریح ۱۔** احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ فرشتوں کی پیدائش، آدمیوں کی طرح نہیں ہوتی کہ مٹی خمیر ہوئی۔ پھر تصویر بنی پھر روح ڈالی گئی بلکہ وہ کلمہ کُن سے پیدا کئے گئے ہیں اور نور سے بنائے گئے ہیں۔ ان کی پیدائش روزانہ جاری ہے اور ہر روز بے شمار بنتے ہیں جن کی گنتی ان کا بنانے والا ہی جانتا ہے اور یہ بے شمار فرشتے جو روزانہ بنتے ہیں قیامت تک اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ کسی فرشتے کو موت لاحق ہوئی ہو۔ تو ظاہر یہی ہے کہ ملائکہ کے لئے قیامت سے پہلے موت نہیں۔ ان کی پیدائش کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک و شبہ جنت میں ایک نہر ہے کہ جب جبرائیل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام اس میں جا کر باہر آکر پر جھپٹے ہیں تو جنتی بوندیں ان کے پروں سے گرتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر بوند سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے حالانکہ جبرائیل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چھ سو پر ہیں اگر ایک پر پھیلا دیں تو افق آسمان چھپ جائے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جبرائیل امین ہر روز اس نہر حیات، میں ایک غوطہ لگا کر پر جھاڑتے ہیں جس سے ستر ہزار قطرے جھڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر قطرہ سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے

کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ خوف الہی سے ان کا بند بند لرزتا ہے۔ ان میں سے جس فرشتے کی آنکھ سے جو آنسو ٹپکتا ہے وہ گرتے گرتے فرشتہ ہو جاتا ہے کہ کھڑا ہو کر رب العزت جل جلالہ کی تسبیح کرتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے کہ اس کے پروں سے ٹپکتا ہے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے کہ قیامت تک درود پڑھنے والے کے لئے استغفار کرتے ہیں۔“

یوہیں اس دنیا میں جب کوئی مسلمان مرد خواہ عورت کوئی اچھا کام کہتا اچھا کام کرتا ہے تو وہ نیک کلام، اچھا کام، فرشتہ بن کر آسمان کو بلند ہوتا ہے۔ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ نیک آدمیوں کے سانس سے فرشتے بنتے ہیں اور ان میں قوی تر اور حیا میں زائد وہ ہوتے ہیں جو عورتوں کے سانس سے بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اور احادیث بھی ہیں جن سے روزانہ بے شمار ملائکہ کا پیدا ہوتے رہنا اور پھر قیامت تک ان کا زندہ رہنا ثابت ہے۔  
(ہدایۃ المبارکہ)

بعض علمائے بحوالہ حدیث فرمایا کہ تمام مخلوق کے دس جز ہیں تو ان میں سے ملائکہ ہیں اور باقی ایک جملہ مخلوق۔

عقیدہ :- چار فرشتے بہت مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اور یہ سب ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔  
تشریح :- یہ چاروں فرشتے باقی تمام ملائکہ سے زیادہ عظمت و کرامت اور بارگاہ الہی میں قربت والے ہیں۔ ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ پیغمبروں کی خدمت میں وحی الہی لانا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام پانی برس نے اور مخلوق خدا کو روزی پہنچانے پر مامور ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کو صور پھونکیں گے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام جنہیں ملک الموت کہا جاتا ہے ان کے ذمہ قبض ارواح یعنی لوگوں کی جان نکلنے کی خدمت سپرد کی گئی ہے بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ ان چاروں کے بعد حاملان عرش کا مرتبہ ہے۔ ان کے بعد عرش الہی کے طواف کرنے والوں کا۔ ان کے بعد ملائکہ کرسی کا۔ ان کے بعد ساتوں آسمانوں کے ملائکہ کا۔ ان کے بعد وہ فرشتے ہیں جو

اُردو ہوا اور عدو برق اور پانی لانے اور بادلوں کے چلنے اور جنات و شیاطین پر رجم کرنے پر مامور ہیں اور ان کے بعد وہ ملائکہ ہیں جو نباتات و حیوانات کی ترتیب و تدبیر اور حفاظت پر حکم الہی مامور ہیں۔  
**عقیدہ:** کسی فرشتے کے ساتھ ادنیٰ گستاخی کفر ہے۔ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا مبغوض کو دیکھ کر کہہ بیٹھتے ہیں کہ ملک الموت یا عزرائیل آگیا۔ یہ کلمہ بہت سخت اور قریب بکلمہ کفر ہے۔  
**عقیدہ** فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔

## جن کا بیان

**عقیدہ:** فرشتوں کی طرح جن بھی، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ یہ آگ سے پیدا کئے گئے ہیں ان میں بھی بعض کو یہ قوت یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں۔ ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں۔ ان سب کا سر گروہ ابلیس ہے جس نے غرور میں آکر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ہمیشہ کے لئے راندہ بارگاہ الہی کر دیا گیا تھا۔  
**تشریح:** ابلیس کے لفظی معنی ہیں "یاس زدہ" ناامیدی و محرومی کا مارا ہوا۔ یہ لفظ بطور علم شیطان کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ یہ ابلیس، نور کا بنا ہوا کوئی فرشتہ نہ تھا۔ جیسا کہ یہود و نصاریٰ کے اتباع میں ایک عام خیال عوام الناس میں پھیل گیا ہے بلکہ آگ کا بنا ہوا جن تھا جیسا کہ قرآن کریم میں صراحتاً فرمایا گیا ہے **كَانَ مِنَ الْجِنَّةِ** آدم علیہ السلام کو سجدہ سے انکار کسی غلط فہمی یا اشتباہ کی وجہ سے نہ تھا بلکہ محض پندار تفوق کی بنا پر تھا۔ انکار اس نے اپنی بڑائی کی وجہ سے کیا جیسا کہ ایک جنی سے بعید بھی نہیں۔ قرآن میں اس صراحت کے ساتھ یہ بیان، تردید ہے اس یہودی اور نصرانی عقیدہ کی کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا اور حیرت ہے کہ قرآن مجید کی اتنی واضح تصریح کے بعد بھی ہزاروں پڑھے لکھے مسلمان اب تک ابلیس کو فرشتہ ہی سمجھ رہے ہیں۔ اور اپنی اس غلط فہمی کے باعث دوسوسوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن کا ارشاد کہ **فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ** صاف بتا رہا تھا کہ چونکہ وہ ایک ناری مخلوق تھا۔ اس لئے سرکشی پر اتر آیا۔ فرشتہ ہوتا تو اس سے عصیان ممکن ہی نہ تھا۔

پھر جب اس سے سوال ہوا کہ "تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ "میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔" اس جواب سے اس کی مراد یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل و اعلیٰ ہے تو جس کی اصل آگ ہوگی وہ اس سے افضل ہوگا جس کی اصل مٹی ہو۔ اور جو افضل ہے وہ غیر افضل کے آگے نہیں جھک سکتا۔"

حالانکہ اس نصیحت کا یہ خیال غلط و باطل ہے کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولیٰ فضیلت لے فضیلت کا دار و مدار اصل وجود پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرمانبرداری پر ہے۔

اور آگ کا مٹی سے افضل ہونا یہ بھی صحیح نہیں۔ یہ بنیادی دعویٰ ہی غلط ہے کہ آگ خاک سے افضل ہے۔ آگ اور خاک دونوں مخلوق ہیں اور دونوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں کسی لحاظ سے یہ افضل کسی اعتبار سے وہ جبکہ وہ آگ میں طیش و تیزی اور ترفع ہے کہ اوپر ہی جاتی ہے اور یہ سبب استکبار اور اپنی برتری کے زعم کا ہوتا ہے اور مٹی سے وقارِ حلم اور حیا و صبر حاصل ہوتے ہیں جو دلیل ہے انکساری و فروتنی کی۔ مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں آگ سے ہلاک و برباد۔ مٹی امانت دار ہے جو چیز اس میں رکھی جائے اسے محفوظ رکھے اور بڑھانے جیسا کہ کھیتی باڑی میں ہوتا ہے۔ آگ فنا کر دیتی ہے باوجود اس کے لطف یہ ہے کہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ پھر یہ مفروضہ تو اور بھی مہمل ہے کہ افضل کی فرع ہر حال میں غیر افضل کی فرع سے افضل ہی ہوتی ہے۔ رات دن کا مشاہدہ اس مہمل مفروضہ کو غلط و باطل بتا رہا ہے۔

علاوہ بریں نص کی موجودگی میں اس کے مقابل قیاس کے کیا معنی۔ ارشاد الہی کا کوئی اور جواب بجز تعمیل حکم کے ممکن ہی نہیں اور جو قیاس کہ نص صریح کے خلاف ہو وہ ضرور مردود۔ اور ابلیس ہمیشہ کے لئے راندہ بارگاہِ خداوندی۔ (خزائن العرفان وغیرہ)

عقیدہ :- جنات، انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح و اجسام والے ہیں۔ ان میں تو اللہ و تناسل بھی ہوتا ہے اور کھلتے پیتے جیتے مرتے بھی ہیں۔

عقیدہ :- ان میں مسلمان بھی کافر بھی۔ مگر ان کے کفار، انسان کی بہ نسبت زیادہ ہیں۔ اور ان میں کے مسلمان مومن مخلص، متقی و ابرار، نیک و شائستہ بھی ہیں اور بہت سے بدکار و ناپسندیدہ اور فساق و فجار بھی۔ شریعت کے ماننے والے بھی ہیں اور انکار کرنے والے بھی۔ مٹی صحیح العقیدہ بھی

ہیں اور بزمذہب و بد عقیدہ جی۔ سب طرح کے فرقے ان کے ہاں بھی ہیں۔ ان میں فاسقوں کی تعداد بہ نسبت انسان کے زائد ہے۔ انسان کو بہکانا ان میں کے شریروں اور بدمکاروں کا کام ہے انسان کو طرح طرح کی ترکیبوں کے ذریعے نیک کام سے باز رکھتے اور برے کاموں کی طرف رغبت دلاتے ہیں مگر خدا کے نیک بندے ان سے بچے نکلنے میں۔

تشریح ہذا قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ الْاِيه بے شک وہ جو ڈروالے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک اور خدا ترس، خدا پرست نیکو کار پر ہنرگار مسلمان، شیطانوں کے اغوا میں نہیں آتے۔ وہ ان کے دوسوسوں کو دور کرتے اور ٹھوکر لگتے ہی معاً سنبھل جاتے ہیں۔ حقیقت امر ان پر منکشف ہو جاتی ہے مکائد شیطانی ان پر واضح ہو جاتے ہیں اور وہ شیطانی دوسوسے اور خطرے ان پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاتے اور یاد الہی میں لگ جاتے ہیں۔ شیطان کی تحریک پر ان کے دلوں میں غصہ و اشتعال یا اور کسی امر ناجائز و ناپسندیدہ کا جذبہ بھڑکنے لگتا ہے تو ذکر الہی دعا و استعاذہ اور استغفار وغیرہ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت و حکومت کا استحضار کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں۔

محققین نے لکھا ہے کہ دوسوسہ شیطانی سے تقویٰ میں کوئی نقصان نہیں آتا اور اس محفوظیت کے تین درجے ہیں۔ درجہ اعلیٰ یہ کہ دوسوسہ کا اثر ہی سرے سے نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسمعیل ذریع اللہ کے واقعہ میں منقول ہے۔ اور درجہ اوسط یہ کہ دوسوسہ اثر دکھائے مگر معاً تنبیہ بھی ہو جائے اور دوسوسہ کے شر سے حفاظت رہے۔ یہ مقاصد یقین کلہے اور قصہ یوسف و زلیخا میں اس کی نظیر موجود ہے۔ اور درجہ ادنیٰ محفوظیت کا یہ ہے کہ پھسلے مگر فوراً سنبھل جائے۔ ڈرے جھجکے اور باز آجائے یہ مقام تائبین کا ہوتا ہے اور ان تینوں مقامات کا صاحب، عارف۔ متقی ولی صاحب دل ہوتا ہے۔ (ماخوذ)

فائدہ:۔ پیدائش زمین و آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان میں فرشتوں کو اور زمین میں جنات کو سکونت دی۔ جنات نے فساد انگیزی کی تو ملائکہ کی ایک جماعت بھیجی جس نے انہیں پہاڑوں اور جزیروں میں نکال بھگایا۔ (خزائن العرفان)



عقیدہ ہے۔ ان کے وجود کا انکار، یا بدی کی قوت کا نام، جن یا شیطان رکھنا کفر ہے۔  
 تشریح: حضرات ملائکہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کا مستقل وجود خارجی ہونا۔ یہ وہی شیاطین  
 و ابلیس کا مستقل وجود خارجی کے ساتھ موجود ہونا ضروریات دین سے ہے۔ قرآن پاک کی صدہا  
 آیات مبارکہ میں اس کی تصریح اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزارہا احادیث مقدسہ میں اس کی  
 توضیح موجود ہے۔ آیات کریمہ میں فرشتوں کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔

(۱) فرشتے اللہ تعالیٰ کی عزت والے بندے ہیں۔

(۲) وہ کسی بات میں خدائے تعالیٰ پر سبقت نہیں کرتے۔

(۳) وہ اللہ ہی کے حکم پر کاربند رہتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔

(۴) وہ اس کے خوف سے ترساں اور خوف الہی سے ڈرتے ہیں۔

(۵) وہ جسے اللہ پسند فرمائے اس کے لئے شفاعت کرتے ہیں۔ *بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ* الایہ

(۶) وہ اپنے رب جل جلالہ کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں۔

(۷) وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔

(۸) وہ مسلمانوں کے لئے بخشائش کی دعائیں مانگتے ہیں۔

*الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ* الایہ

(۹) جس دن فرشتے نظر آئیں گے وہ کافروں کے لئے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا۔ کفار تمنا کریں

گے کہ کاش ہمارے اور فرشتوں کے درمیان کوئی آڑ ہوتی۔

*يَوْمَ تَرَوُنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ* الایہ

(۱۰) جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں بہت سخت اور کرتے ہیں۔

*عَلَيْهِمْ مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ بِشَدَاذٍ* الایہ

(۱۱) وہ جہنمیوں سے جنت میں ملاقات کریں گے۔

(۱۲) وہ جہنمیوں سے کہیں گے کہ دنیا و آخرت میں ہم تمہارے دوست ہیں۔

*تَنْزِيلٌ عَلَيْهِمْ لَمَلَأْتُكُمْ أَكْثَابًا* الایہ

(۱۳) وہ قیامت کے دن پراباندھ کر، صفت بنائے کھڑے ہوں گے۔

يَوْمَ يَقُومُ الزُّوْمُ وَالْمَدَائِكُ - الْاِيَةِ

(۱۲) وہ شب قدر میں اپنے رب جل جلالہ کے حکم سے اترتے ہیں۔

تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا

(۱۵) وہ خدا کے حکم کو دنیا میں جاری کرتے ہیں۔

اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ الْاِيَةِ

(۱۶) وہ جس طرح احکام لے کر اترتے ہیں اسی طرح دربار الہی تک عروج کرتے ہیں۔

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ اِلَيْهِ

(۱۷) موت کے وقت روح قبض کرنا انہی سے متعلق ہے۔

قُلْ يَتَوَقَّعُ مَلَكُ السَّمٰوٰتِ الْاٰيَةِ

(۱۸) وہ خدا اور رسول کے درمیان وحی الہی کا ذریعہ بھی ہیں۔

اَوْ يُرْسِلُ رَسُوْلًا فَيُوْحِيْ بِاٰذَانِهَا

(۱۹) اور وہ بشارت اور عذاب لے کر اترتے ہیں۔

وَلَقَدْ جَاۤءَتْ دُسُلًا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشْرِ

(۲۰) وہ انسانوں کے اعمال کی نگہبانی اور نگرانی کرتے ہیں۔

ذَيُّرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفِظَةً

(۲۱) وہ لوگوں کے ثواب اور گناہوں کے کاموں کو محفوظ رکھتے ہیں۔

وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ

(۲۲) وہ انسانوں کے اعمال کے مطابق ان پر نزول رحمت کا ذریعہ ہے۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَٰٓئِكَتُهٗ

(۲۳) وہ بدکاروں پر لعنت بھی کرتے ہیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَا تُوۡا وَهُمْ كَفٰرًا الْاِيَةِ

(۲۴) وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس کے حاضر باش بھی ہیں۔

وَتَرَى الْمَلَٰٓئِكَةَ حٰفِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ

اور آخر میں یہ بھی سُن لیجئے کہ قرآن کریم ان فرشتوں کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ  
 مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ط  
 یعنی جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل و میکائیل کا تو اللہ  
 دشمن ہے کافروں کا۔

اس آیتِ کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو کوئی اللہ کے رسولوں اور اس کے فرشتوں میں سے کسی ایک کا  
 دشمن و مخالف ہے وہ کافر ہے۔ اور اس کے مفہوم میں محض عداوت نہیں بلکہ انکار، نافرمانی، حق ناشناسی  
 غرض دوستی و محبت کے منافی، جو کچھ ہے سب اس میں داخل ہے اور انبیاء و ملائکہ میں سے کسی ایک کی  
 عداوت کفر اور غضبِ الہی کا سبب ہے اور محبوبانِ خدا سے دشمنی، خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے  
 کہ یہ صفات، فرشتوں کے خارجی وجود و شخص پر سرحتمہ دلالت کر رہی ہیں تو ثابت ہوا کہ اسلام و قرآن  
 فرشتوں پر ایمان لانا، مسلمان ہونے کے لئے لازم و ضروری قرار دیتا ہے تو جو ان کے وجود کے منکر ہیں  
 یا نیکی کی قوت کا نام فرشتے رکھتے اور فرشتوں کا خارج میں کوئی وجود نہیں مانتے وہ یقیناً کافر ہیں۔ اور  
 اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور اللہ تعالیٰ ان کا دشمن۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

اسی طرح قرآنِ عظیم کی صدہا آیات کریمہ ہیں جن میں ابلیس و شیاطین کے ایک جلاگانہ مستقل  
 مخلوق بناری ہونے کا بیان فرمایا گیا ہے جن سے آفتابِ نصف النہار سے بڑھ کر واضح و لائح کہ ملنکہ  
 اور ابلیس و شیاطین کے جیسے وجود اور ان کی جو کیفیات، ان کے جو احوال و افعال قرآنِ عظیم نے بیان  
 فرماتے ہیں وہ وہی ہیں جن پر صدر اسلام سے اب تک چودہ سو سال کے کافر مسلمین و مومنین، دوسرے  
 ضروریاتِ دین کی طرح ایمان رکھتے چلے آئے ہیں اور ان کی وہ تمام تفصیلات ضروریاتِ دین میں سے ہیں  
 کہ ہر مسلمان پر ان پر اسی طرح ایمان لانا فرض و لازم ہے جس طرح قرآن کریم نے انہیں بیان فرمایا۔

اللَّهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاَرْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ

بَارِئًا . وَاَرْزُقْنَا اِجْتِنَابَهُ وَاَرِنَا اَعْمَالَ اَوْلِيَاءِكَ وَاَرِنَا اَعْمَالَ اَعْدَائِكَ

محمد و آلہ و صحبہ و بارک و سلم

## عالم برزخ کا بیان

قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے **وَمِنْ ذُرَائِرِهِمْ بَرَزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ** ط اور ان (مرنے والوں) کے آگے ایک آرٹھ ہے اس دن تک جس میں وہ اٹھائے جائیں گے۔ برزخ وہ شے ہے جو متوسط ہو درمیان دو شے کے جسے دونوں سے علاقہ ہو سکے۔ چنانچہ دنیا و آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔

مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہے اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے مسلمان کا جانا ایسا ہے جیسے بچے کا ماں کے پیٹ سے نکلنا۔ اس دم گھٹنے اور اندھیری کی جگہ سے۔ اس فضائے وسیع دنیا میں اسی لئے علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ احادیث کریمہ میں صراحتاً فرمایا گیا ہے کہ قبر (یعنی برزخ) آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اور یہ کہ ”قبر یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔“ اسی دنیا کی زندگی میں ہر فرد بشر کو کیسی مشکلات کا سامنا ہوتا رہتا ہے اور ایمان و اسلام اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صراط مستقیم ایسی ہے جو انسان کو ہر امتحان میں ثابت قدم رکھتی اور ہر تاریکی میں روشنی دکھاتی رہتی ہے اور پھر قبر برزخ اور محشر میں ایک سے ایک بڑھ کر ایک، ہولناک منظر کے وقت بھی، سہارا دینے والی چیز بھی یہی ایمان و اسلام ہے۔ ایمان صحیح و سلامت ہے تو عالم برزخ اس کے لئے جنت سے کم نہیں دینے عذاب جہنم کا پیش خمیہ ہے۔

موت جس کا آنا یقینی ہے ایک دن جب وہ آئے گی تو مادہ کا یہ حجاب جو آج آنکھوں پر پڑا ہے اٹھ جائے گا۔ اس وقت عالم غیب یا عالم آخرت کے کچھ اسرار اس پر منکشف ہو جائیں گے اور نیک و بد اعمال کے نتیجے اور ثواب و عذاب اور جنت و دوزخ کے بعض مناظر ان کے سامنے آجائیں گے۔ آنکھ بند ہوتے ہی عالم برزخ شروع ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ کشف حقائق بھی۔ انسان خود ہی جان لے گا کہ اصل حقیقت کیا تھی اور وہ دنیا میں کیسی شدید حماقت اور بھول میں پڑا رہا۔

حدیث شریف میں ہے کہ مردے کے ساتھ تین ہوتے ہیں۔ دولوٹ آتے ہیں۔ ایک مال۔ ایک اس کے اہل و اقارب۔ ایک اس کا عمل۔ عمل ساتھ رہ جاتا ہے اور باقی دونوں واپس ہو جاتے ہیں۔

(بخاری)

فائدہ: حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے دو بیٹے قابیل و ہابیل تھے۔ قابیل ہابیل سے کسی معاملہ میں خفا ہو گیا اور جب برا فروختگی زیادہ بڑھی تو بے گناہ بھائی کی جان لینے پر آمادہ ہو گیا۔ اور پھر قتل کر ہی دیا۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا اور قابیل کو یہ خبر بھی نہ تھی کہ اپنے مقتول کی لاش کا کرے۔ کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مر ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو پشت پر لاوے پھرا آخر ایک معمولی اور حقیر سا پرندہ، انتظامات تکوینی کے ماتحت، اس قاتل کو دفن کی تعلیم دینے کے لئے بھیجا گیا۔ چنانچہ مروی ہے کہ دو کوے آپس میں لڑے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوتے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر گڈھا کیا اور اس میں مرے ہوئے کوتے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہے۔ چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ (مدارک وغیرہ)

عقیدہ: ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لئے آتے ہیں اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں مسلمان کے آس پاس، رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے، اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ اس لئے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا، بلکہ عالم غیب کی یہ چیزیں مشاہدہ میں آگئیں۔

فائدہ: اللہ عزوجل، خیر کے ساتھ شہادتیں (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) پر موت نصیب کرے وقت مرگ بھی پورا کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے۔

دم نزع، دو شیطان آدمی کے دونوں پہلو پر آ کر بیٹھے ہیں۔ ایک اس کے باپ کی شکل بن کر، دوسرا ماں۔ ایک کتا ہے وہ شخص یہودی ہو کر مرا تو یہودی ہو جا کہ یہود وہاں بڑے چین سے ہیں۔ دوسرا کتا ہے وہ شخص نصرانی گیا تو نصرانی ہو جا کہ نصاری وہاں بڑے آرام سے ہیں۔ علماء کرام فرماتے

ہیں کہ شیطان کے اغواء سے بچانے کے لئے محتضر (قریب الموت) کو تلقین کلمہ کا حکم ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ اس کے اغواء کا جواب نہیں۔ لا الہ الا اللہ تو یہود و نصاریٰ بھی مانتے ہیں۔ ہاں وہ کہ جس سے اسے ملعون کے فتنے ملتے ہیں محمد رسول اللہ کا ذکر کریم ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہی اس کے ذریعات کے بھی دل میں چبھتا جگر میں زخم ڈالتا ہے۔ مسلمان ہرگز ہرگز اسے نہ چھوڑیں اور جو اس سے منع کرے اس سے اتنا کہدیں ع

گر بر تو حرام است حرمت بادہ

اور حدیث میں جو فرمایا کہ جس کا پچھلا کلام لا الہ الا اللہ ہو، اس سے مراد پورا کلمہ طیبہ ہے کہ لا الہ الا اللہ گویا اس کلمہ ایمان کا نام ہے۔ (فتاویٰ رضویہ)

عقیدہ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسانی کے ساتھ باقی رہتا ہے اگرچہ روح بدن سے جدا ہوگئی مگر بدن پر جو کچھ گزرے گی، روح اس سے ضرور آگاہ و متاثر ہوگی جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے زائد۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے۔ اور ان کے عکس بھی جسم پر وارد ہوتے ہیں اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے۔ اور روح کے لئے، خاص اپنی راحت و الم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ بعینہہ ہی سب حالتیں عالم برزخ میں ہیں۔

تشریح :- آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ موت کے بعد، روح فنا نہیں ہوتی اور اس کے افعال و ادراکات جیسے دیکھنا۔ بولنا۔ سننا۔ سمجھنا۔ آثار۔ جانا۔ چلنا۔ پھرنا۔ سب بدستور رہتے ہیں بلکہ اس کی قوتیں بعد مرگ، اور صاف و تیز ہو جاتی ہیں۔ حالت حیات میں جو کام ان آلات خاکی یعنی آنکھ۔ کان۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ زبان سے لیتے تھے۔ اب روح بغیر ان کے کرتی ہے اگرچہ جسم مثالی کی یاد آوری سہی۔ اس مطلب نفیس اور ان کے سوا بہت سے امور کے ثبوت میں بے شمار احادیث و آثار ہیں جو ان کے علم و ادراک و سمع و بصر و کلام و غیرہ صفت و احوال حیات پر دلیل روشن ہیں مثلاً (۱) بعد انتقال عقل و ہوش باقی رہتا (۲) روح کا پس از مرگ آسمانوں پر جانا (۳) اپنے رب کے حضور سجدے میں گزنا (۴) فرشتوں کو دیکھنا (۵) ان کی باتیں سننا (۶) ان سے باتیں کرنا (۷) اپنے منازل جنت کا پیش نظر رہنا (۸) نیک ہمسایوں سے نفع پانا (۹) بد ہمسایوں سے ایذا اٹھانا۔

(۱۰) ملائکہ کا ان کے پاس تحفے لانا (۱۱) ان کی مزاج پر سعی کو آنا (۱۲) ان کا منتظر صدقات رہنا۔  
 (۱۳) قبر کا ان سے بزبان فصیح باتیں کرنا (۱۴) ان کے منتہائے نظر تک وسیع ہونا (۱۵) زندوں کے  
 اعمال انہیں سنائے جانا (۱۶) نیکیوں پر خوش ہونا (۱۷) برائیوں پر غم کرنا (۱۸) پیمانہ گان کے لئے  
 دعائیں مانگنا (۱۸) ان کے ملنے کا مشتاق رہنا (۱۹) روحوں کا باہم ملنا جتنا (۲۰) ہرگز نہ کلمہ کے  
 دفتر کھلنا (۲۱) منزلوں کی فصل (فاصلہ) سے آپس کی ملاقات کو جانا (۲۲) اگلے اموات کا مردہ  
 نو کے استقبال کو آنا (۲۳) اس کا گزرے قریبوں کو دیکھ کر پہچانا۔ ان سے مل کر شاد ہونا (۲۴) ان  
 کا اس سے باقی عزیزوں اور دوستوں کے حال پوچھنا (۲۵) آپس میں خوبی کفن سے مفاخرت کرنا  
 (۲۶) برے کفن والوں کا ہم چشموں میں شرمانا (۲۷) اپنے اعمال حسنة یا سیئہ کو دیکھنا (۲۸) ان کی صحبت  
 سے انس و فرحت یا معاذ اللہ، خوف و وحشت پانا (۲۹) عالم دین کا علم شریعت (۳۰) اہلسنت کا  
 مذہب اہلسنت (۳۱) مسلمان کے دل خوش کرنے والے کا قرآن عظیم کی پاکیزہ طلعت سے صحبت  
 دل کشار کھنا (۳۲) دشمنان عثمان کا اپنی قبروں میں عیاذاً باللہ، دجال پر ایمان لانا (۳۳) نیک بندوں  
 کا خدمت اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم و عباد اللہ صالحین (اللہ کے نیکو کار بندوں) میں حاضر  
 ہونا (۳۴) اپنی قبور میں نمازیں پڑھنا (۳۵) حج کرنا لبیک کہنا (۳۶) تلاوت قرآن میں مشغول رہنا  
 (۳۷) بلکہ ملائکہ کا انہیں تمام و کمال قرآن عظیم حفظ کرانا (۳۸) اپنے رب عزوجل سے باتیں کرنا۔  
 (۳۹) رب تبارک و تعالیٰ کا ان سے کلام جانفزا فرمانا (۴۰) عجائب قدرت دیکھ کر جی بہلانا (۴۱) جنت  
 کی نہروں میں غوطے لگانا (۴۲) جو تلاوت قرآن میں مشغول مرے قرآن عظیم کا ہر وقت ان کی دلجوئی فرمان  
 ہر صبح و شام ان کے اہل و عیال کی خبریں انہیں پہنچانا (۴۳) دودھ پیتے شہزادے کا انتقال ہوا ان پر  
 جنت کی دایاں مقرر ہونا۔ مدت رضاعت تمام فرمانا (۴۴) نیکوں کا شوق قیامت میں جلدی کرنا۔  
 (۴۵) بدوں کا نام قیامت سے گھبرانا (۴۶) مقتولان راہ خدا کے دل میں دوبارہ قبل کی آرزو ہونا۔  
 (۴۷) مسلمانوں کا بشر یا سپید پرندوں کے روپ میں جہاں چاہنا اور طے پھرنا (۴۸) جنت کے پھل  
 پانی کھانا پینا۔ (۴۹) سونے کی قندیلوں میں عرش کے نیچے بسیرالینا۔

(فتاویٰ رضویہ)

عقیدہ :- مرنے کے بعد مسلمان کی روح، حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے۔ بعض

کی قبر پر۔ بعض کی چاہ زمزم شریف میں۔ بعض کی آسمان وزمین کے درمیان۔ بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک۔ اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند۔ اور بعض کی روہیں زیر عرش قذیلوں میں اور بعض کی اعلیٰ علیتین میں۔ مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں۔ بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر قفس میں بند تھا۔ اور اب آزاد کر دیا گیا۔

ائمہ کرام فرماتے ہیں۔ **إِنَّ النَّفُوسَ الْقُدْسِيَّةَ إِذَا تَجَرَّدَتْ عَنِ الْعَلَائِقِ الْبَدَنِيَّةِ انصَلَّتْ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى وَ تَرَى السَّمْعَ الْكُلَّ كَالْمُشَاهِدِ** یعنی پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا "جب مسلمان مر جاتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔" شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں۔

روح راقرب و بعد مکانی یکساں است

روح کے لئے کسی مقام کا دور و نزدیک ہونا یکساں اور برابر ہے اور کافروں کی خبیث روہیں، بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں۔ بعض کی چاہ برہوت میں کہ میں میں ایک نالا ہے۔ بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک۔ بعض کی اس کے بھی نیچے بھین میں اور وہ بھی کہیں ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں مگر کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں۔

عقیدہ: یہ خیال کہ وہ روح کسی طرح دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کس اور جانور کا جیسے تناسخ اور آواگون کہتے ہیں محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔

تشریح: اس عقیدے پر اس مسئلے کے تمام پہلوؤں سے متعلق اگرچہ بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے تاہم اس قدر سمجھ لینا ضرور ہے کہ تناسخ (آواگون) کا عقیدہ اس اساس پر قائم ہے کہ ہر ایک انسان کی موجودہ زندگی، سابق میں کئے ہوئے اعمال کا ثمرہ اور نتیجہ ہے ورنہ کائنات میں یہ تنوع (جدیگانہ حال و ماحول) ہرگز نہ ہوتا کہ کوئی انسان ہے تو کوئی حیوان۔ اور کوئی نباتات و جمادات سے نیز انسانوں میں کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل۔ اور کوئی صحت یاب ہے تو کوئی مریض۔ اور کوئی امیر کبیر ہے تو کوئی مفلس و محتاج وغیرہ وغیرہ۔

اس عقیدہ کا مقصد یہ ہوا کہ بغیر عمل و کردار کے اگر عالم میں یہ تغیرات موجود ہیں تو یہ خدا



کی صفت عدل کے منافی ہے۔ لیکن اس عقیدہ کی خام کاری اور بطلان کی مختلف وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اگر روح اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف، جوں بدل کر ان تغیرات عالم کا باعث ہے جو مجموعہ کائنات کے حسن کا باعث ہیں اور جس کی بدولت یہ پورا کارخانہ مکمل نظام کے ساتھ وابستہ نظر آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان کے لئے فطری اور نیچرل طور پر گناہگار بدکار اور بد اعمال ہونا۔ از بس ضروری ہے کہ مجموعہ کائنات کا یہ حسن نہ صرف یہ کہ پیدا ہو بلکہ قائم رہے جس کا تغیرات اور تنوعات پر مبنی ہونا از بس ضروری ہے۔

دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ جوں بدل کر، آواگون کی زندگی، اگر اعمال کی جزا و سزا سے متعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت انسان کے نکو کار بننے کی جگہ، زیادہ سے زیادہ بدکار ہونا چاہئے تاکہ آئندہ نظام عمل میں یہ تنوع باقی رہے جس کا باقی رہنا عقل و فطرت کے مطابق ہے۔ ورنہ تو حیوانات نباتات، جمادات کے فقدان سے انسانی دنیا کا یہ سارا کارخانہ درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔

تنازع کے ناقص فلسفیانہ عقیدہ پر یقین رکھنے والوں نے اس حقیقت کو یکسر فراموش کر دیا ہے کہ ایک چیز اپنی انفرادیت کے لحاظ سے، خواہ کتنی ہی تیز اور بری معلوم ہو لیکن مجموعہ کائنات کے پیش نظر اس کا وجود بھی اپنے اندر ضرور حسن رکھتا ہے مثلاً تل (خال) اپنے رنگ و روپ میں کیسا ہی سیاہ فام کیوں نہ ہو، لیکن محبوب کے رخسار پر، نہ خود حسین بن بانا ہے بلکہ حسن محبوب کو دو بالا کر دیتا ہے اور حافظ شیرازی جیسے صوفی کو "خال محبوب" پر "سمرقند و بخارا" بخش دینے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح عالم و کائنات میں، انفرادی طور پر کسی کا مریض ہونا، اپاہج و معذور ہونا، ناقص الخلقیت ہونا وغیرہ، گویا قبیح اور قابل افسوس نظر آتے ہوں مگر مجموعہ کائنات کے حسن کے لئے فطری اور نیچرل میں اور اس تنوع پر ہی دنیا کے نظام کا بقا ہے اور کمالات آفرینش کا آئینہ دار۔

گلابی رنگ رنگ سے ہے رونق چمن

اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے (ماخوذ)

پھر کسی فعل پر جزا و سزا کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا اچھا برا ہونا، بیان کر دیا جائے اور جب کسی جوں میں آنے والے کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اس جزا یا سزا کا ترش کس فعل پر ہوا تو یہ عقیدہ سرے سے ہی باطل ہوا۔

**عقیدہ:** موت کے معنی، روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے۔ نہ یہ کہ روح مرجاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے اور اہلسنت وجماعت سے خارج۔

**عقیدہ:** مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو، عوام جن و انساں کے سوا، اور تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔

**عقیدہ:** جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔

**عقیدہ:** جب دفن کرنے والے، دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اس وقت اس کے پاس دو فرشتے، اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں، ان کے بدن کارنگ سیاہ، اور آنکھیں سیاہ اور نیلی، اور رنگ کے برابر، اور شعلہ زن ہیں۔ اور ان کے ہیبت بال سر سے پاؤں تک۔ اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے ان میں سے ایک کو منکر۔ دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ، کرحمت آواز میں سوال کرتے ہیں کہ **مَنْ دُنُّكَ** تیرا رب کون ہے **فَاَدِينُكَ**؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں دریافت کرتے ہیں **مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ**۔ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مردہ مسلمان ہے تو اس منزل میں بفضل الہی ثابت قدم رہتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ **رَبِّيُ اللَّهُ** میرا رب اللہ ہے **دِينِي الْإِسْلَامُ** میرا دین اسلام ہے اور میرے سوال کے جواب میں کہتا ہے **هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**۔ وہ تو میرے نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے برگزیدہ رسول۔ پھر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس میں جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں اور وہ منور کر دی جاتی ہے اور آسمان سے ندا ہوتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا اس کے لئے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ۔ اور اس سے کہا جاتا ہے تو سو جیسے پہلی شب کی دہن سوتی ہے۔ یہ خواص کے لئے عموماً ہے اور عوام میں ان کے لئے جن کو وہ چاہے۔

اور اگر مردہ منافق ہے تو وہ قبر میں منکر نکیر کو صحیح جواب نہیں دے سکتا اور ہر سوال کے

جواب میں ہی کہتا ہے کہ بائے بائے میں نہیں جانتا کذبتُ اسْمَعُ النَّاسُ يَقُولُونَ شَيْئًا قَوْلٌ  
میں لوگوں کو کہتے سنا تھا خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت آسمان سے ندا ہوتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے

اس لئے آگ کا بچھونا بچھاؤ دوزخ کا لباس پہناؤ اور  
جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اس کو دوزخ کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے  
لئے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اسے لوہے کے گرزوں سے مارتے رہیں گے۔ نیز سانپ اور بھوسے  
عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر، مجسم بھیریا۔ کتا۔ یا اور شکل کے بن کر  
اس کو اینٹا پہنچائیں گے۔ جبکہ نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول اور محبوب صورت پر متشکل ہو کر اسے انس  
دیں گے۔

**تشریح**۔ حضور والا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں "جو کوئی شخص مسلمان کو خوش کرے  
اللہ عزوجل اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ عزوجل کی عبادت و توحید کرتا رہتا ہے۔ جب  
وہ بندہ قبر میں جاتا ہے یہ فرشتہ اس کے پاس آکر کہتا ہے "تو کیا مجھے پہچانتا ہے میں وہ خوش ہوں جو تو  
نے فلاں مسلمان کے دل میں داخل کی تھی۔ آج میں دشت میں تیرا دل بھلاؤں گا اور تیری نعت مجھے سکھاؤں  
گا۔ اور قول ایمان پر تجھے ثابت کروں گا۔ اور قیامت کے ہر مشید میں تیرے ساتھ رہوں گا اور اللہ  
عزوجل کے نزدیک تیری شفاعت کروں گا۔ اور جنت میں تیرا مکان مجھے دکھاؤں گا۔ والہدایۃ المبارکہ  
**فائدہ**:- وارد ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا اور سوال ٹیکرین ہوتا ہے شیطان رحیم  
کہ اللہ عزوجل صدقہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہر مسلمان مرد و زن کو حیات و ممات  
میں اس کے شر سے محفوظ رکھے، وہاں بھی نسل اندازہ ہوتا ہے اور جواب میں بھکاتا ہے والعیاذ  
بوجه العزیز الکریم۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ اعلیٰ۔

امام ترمذی محمد بن علی نوادر الاسول میں امام اجل سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت  
کرتے ہیں۔ اِنَّ الْمَيِّتَ اِذَا سُبِّحَ مِنْ رُبِّكَ قَرَأَ لَهٗ الشَّيْطٰنُ فَيُشِيرُ اِلٰی نَفْسِهٖ اِذْ  
اَنْتَ رُبُّكَ فَهِيَ اَوْ رَدَّ سُوْاْلَ التَّكْتِيْبِ لَهٗ جِيْنٌ يُسْمَدُ۔ یعنی جب مرد سے  
سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، شیطان اس پر ظاہر ہوتا اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تیرا رب  
میں ہوں۔ اس لئے حکم آیا کہ میت کے لئے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کریں۔ امام ترمذی فرماتے



سوء العذاب النار یُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا فرعون والوں کو برے عذاب نے آگھیرا دنیا میں تو یہ کہ وہ فرعون کے ساتھ غرق ہو گئے اور آخرت میں دوزخ کی آگ جس پر صبح شام پیش کئے جاتے ہیں (اس میں جلانے جاتے ہیں)

اللہ تعالیٰ یہاں الفاظ میں عذاب کے دو مرحلوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ ایک کم تر درجے کا عذاب جو قیامت کے آنے سے پہلے فرعون اور آل فرعون کو اب دیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہیں صبح شام دوزخ کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ اس بڑے عذاب کا ہے جب انہیں ہمیشہ کے لئے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔

اور یہ معاملہ صرف فرعون اور آل فرعون کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ ہر مرنے والے پر اس کا مقام صبح و شام پیش کیا جاتا ہے جنتی پر جنت کا اور دوزخی پر دوزخ کا۔ اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانا ہے تا آنکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کی طرف اٹھائے۔

**فائدہ:** اس آیت سے عذاب قبر کے ثبوت پر استدلال کیا جاتا ہے یا یوں کہئے کہ یہ آیت اس عذاب برزخ کا صریح ثبوت ہے جس کا ذکر بکثرت احادیث میں عذاب قبر کے عنوان سے کیا جاتا ہے مولائے کریم صدقہ اپنے محبوب رؤف و رحیم کا ہمیشہ ہر عذاب سے پناہ میں رکھے آمین۔  
**عقیدہ:** مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جلتے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا۔ یا جلادیا گیا یا پانی میں بہا دیا گیا۔ غرض کہیں ہو اس سے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا۔ یہاں تک کہ جسے شیر یا کوئی اور درندہ کھا گیا تو اسی کے پیٹ میں سوال جواب اور عذاب ثواب جو کچھ ہو گا وہ پہنچے گا۔

## فوائد مشقی

۱) کافر کو نزع ہی کے وقت سے سخت شدید عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ملک الموت کی صورت ہی وہ ہمیب ہوتی ہے کہ العیاذ باللہ۔ حدیث میں ہے ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے ملک الموت سے فرمایا مجھے اپنی وہ صورت دکھاؤ جس میں کافر کی روح قبض کرنے آتے ہو۔ عرض کی "حضرت ۛ

یچھ سکیں گے“ فرمایا ”کیوں نہیں“ عرض کی تو مونہہ پھیر لیجئے۔“ منہ پھیرا پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک یاہ قام شخص ہے جس کا سر آسمان سے لگا ہوا، منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتیں۔ سر سے پاؤں تک بررونگٹا ہر بال، ایک کالے مرد کی شکل، جس کے منہ اور کانوں سے شعلے نکلتے۔ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ التسلیم کو غش آگیا۔ جب ہوش آیا فرمایا اے ملک الموت اگر کافر کو مرتے وقت اور کوئی بلا و مصیبت ہو تو تمہارا اس صورت میں اس پر ظاہر ہونا ہی کیا کم ہے۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے آنا فنا سحت تر ہے۔ والعیاذ باللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

پھر فرمائش کی ”وہ صورت دکھاؤ جس میں روح مومن قبض کرتے ہو۔“ کہا منہ پھیر لیجئے، ”منہ پھیرا۔ پھر دیکھا کہ ایک جوان سفید پوش، تمام جہان سے زیادہ خوبصورت و خوشبو، کھڑا ہے۔ فرمایا اے ملک الموت اگر مسلمان کو مرتے وقت آنکھ کی اور ٹھنڈک اور اسباب و سامان عزت نہ دیئے جائیں تمہاری یہ پیاری صورت ہی بہت ہے۔“ (چابک لیٹ بحوالہ ابن جریر و ابن ابی حاتم)

(۳) انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیائے کرام و علمائے دین و شہدار و حافظان قرآن مجید کہ قرآن کریم کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں اور وہ جسم جس نے کبھی شذوذ و جل کی معصیت نہ کی اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں۔ ان کے بدن دمی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ ”مر کر ٹی میں مل گئے“ گمراہ بددین خبیث مرتکب تو ہیں ہے۔ والعیاذ باللہ۔

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور میں چند روایات کا ذکر فرمایا کہ ۱۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے روح سے زیادہ لطیف اور پاکیزہ تر کوئی اور شے پیدا نہ فرمائی۔ جب تک بدن چل رہی ہے بدن تر و تازہ رہتا ہے اور جب اسے جسم سے نکال لیا جاتا ہے تو بدن گلنے سڑنے لگتا ہے۔

(۲) آدمی کا ہر عضو سڑنے لگتا ہے مگر ریڑھ کی ہڈی کہ وہ نہیں سڑتی قیامت کے روز، اسی پر بدن کو ترکیب دے گا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد سڑنے اور گلنے کا حکم دیا اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی دوست اپنے دوست کو مرنے کے بعد دفن نہ کرتا اور اہل میت، میت کو گھر میں رکھتے۔

(۴) جنگ احد میں عمر دین جموح انصاری اور عبداللہ بن عمر انصاری نے شہادت پائی اور دونوں ایک ہی قبر میں ایک نیشی زمین میں دفن کر دیئے گئے بارش کے زمانے میں سیلاب آیا یہ دونوں قبریں کھل گئیں تو دونوں لاشیں وہاں سے نکال لی گئیں تاکہ کسی بلند جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ دونوں لاشیں تروتازہ نکلیں کہ ان میں کہیں کوئی تغیر نہ آیا تھا گویا آج ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ ایک لاش کے بدن میں زخم تھا اور اس پر ان کا ہاتھ رکھا تھا جب وہ ہاتھ زخم سے اٹھا کر سیدھا کیا گیا تو پھر لاش نے اپنا ہاتھ زخم پر رکھ لیا حالانکہ جنگ احد کو اس وقت تک چھیالیس سال گزر چکے تھے۔

(۵) حدیث شریف میں ہے کہ اذان دینے والا کہ طلب ثواب کے لئے اذان کہے اس شہید کی مثل ہے کہ غرن میں آلودہ ہے اور جب مرے گا قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہ پڑیں گے۔

(۶) جب حافظ قرآن انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کا گوشت نہ کھائے زمین کہتی ہے اے رب میں کیونکر اس کا گوشت کھا سکتی ہوں جبکہ تیرا کلام پاک اس کے سینہ میں محفوظ ہے۔

(۷) جس شخص نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے زمین اس کا گوشت نہیں کھا سکتی۔

## ایک اور حدیث شریف

فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے افضل دنوں سے جمعہ کا دن ہے۔ اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کئے اور اسی میں انتقال کیا اور اسی میں نوحہ ہے دوسری بار صور بھونکا جانا اور اسی میں صعقہ ہے (پہلی بار صور بھونکا جانا) اس دن میں مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت حضور پر ہمارا درود کیونکر پیش کیا جائے گا جب کہ حضور انتقال فرما چکے ہوں گے۔ فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے (ابوداؤد وغیرہ)

اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم "جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہور ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو درود پڑھے گا۔ پیش کیا جائے گا۔" ابوداؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی "اور موت کے بعد" فرمایا تبے شک اللہ تعالیٰ

نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ کا بر نبی زندہ ہے۔ روزی دیا جاتا ہے۔  
 فَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى دَسَمَهُ. وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ كُلِّ مَنْ هُوَ مَحْبُوبٌ وَمَرْضَىٰ نَدِيَهُ

## معاد و حشر کا بیان

اللہ عزوجل کے محبوب صادق و صدوق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے،  
 خدائے قدوس کے آخری اور مکمل پیغام ہدایت، قرآن کریم کے ذریعہ اسلام کی تیسری بنیادی و اساسی  
 بات یہ بتائی کہ قیامت برحق ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق  
 یوم آخر میں جزا و سزا، بحکم الہی ضرور واقع ہے۔

مذاہب عالم اس سلسلہ میں راہ مستقیم سے روگرداں اور افراط و تفریط کے بحر ظلمات میں پھنسے ہوئے  
 تھے۔ وہ یا تو آواگون (تناسخ) کے چکر میں یوم آخرت کے اس تصور سے قطعاً بیگانہ ہو چکے تھے۔ اور  
 قیامت کا تعلق، انسانی اعمال کی جزا و سزا اور یوم الحساب سے غیر متعلق سمجھ چکے تھے اور یا پھر اس دن  
 نجات کا دار و مدار اور جزا و سزا کا معیار، اعمال و کردار کی جگہ، نسل و خاندان اور سوسائٹی کی معاشرتی  
 کردہ بندی پر سمجھ بیٹھے تھے اور کفارہ کو عقیدہ بنا کر حساب و محاسبہ اعمال سے مطمئن ہو چکے تھے اور  
 مشرکین اور بعض فلاسفہ نے تو یوم آخرت کے وجود ہی کا انکار کر دیا تھا۔ اور ان کی سمجھ میں یہ بات آتی  
 ہی نہ تھی کہ آج کا مردہ انسان، کل کس طرح زندہ ہو جائے گا اور سینکڑوں ہزاروں برس کی بوسیدہ ہڈیاں  
 یوم حساب میں کس طرح جسم بن کر اپنی روح کے لباس بن سکیں گی۔

قرآن کریم نے نازل ہو کر دنیا سے انسانی کو بتایا کہ اس صاف اور واضح بات کے سمجھنے میں آخر  
 کیوں تم پر اتنی وحشت طاری ہوتی ہے اور کیوں تمہاری عقلیں اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتیں کہ جس  
 خالق کائنات اور بدیع الارض و السموات نے کسی نمونہ اور نقشہ کے بغیر یہ عجیب و غریب عالم آفرینش  
 کر دیا، وہ بلاشبہ اس پر قادر ہے کہ ماضی میں مخلوق اور حال میں مردہ و بوسیدہ کو مستقبل میں دوبارہ وجود  
 عطا فرماتے اور اس کے منتشر اجزاء کو جمع کر کے، دوبارہ وہی ہیت جسمانی پیدا فرما کر، سابق روح کو  
 اس میں واپس کر دے۔

قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ (الٰی قولہ) وَهُوَ بِكُلِّ  
 خَلْقٍ عَلِيمٌ • اور انسان ہمارے لئے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا۔ بولا۔ ایسا کون



ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں۔ تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا۔ اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔“

خلاصہ یہ کہ گلی ہوئی ہڈیوں کے سرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندگی قبول کرنا اپنی نادانی سے، منکر قیامت، ناممکن سمجھتا ہے اور گستاخانہ اور مردانہ لہجہ میں یہ سوال کرتا ہے کہ ہڈیاں جب سرٹ گل گئیں تو ان کی حیات ثانی ممکن کیونکر ہے؟ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتداء میں ایک گندہ لطفہ تھا۔ گلی ہوئی ہڈیوں سے بھی حقیر تر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس میں جان ڈالی، انسان بنایا اور ایسی حالت میں اسے پیدا کر دیا جبکہ وہ حیات سے بالکل بیگانہ و بعید تھا۔ اور اب ایسا مغرور و متکبر ہو گیا کہ اس کی قدرت ہی کا منکر ہو گیا۔ اتنا نہیں دیکھتا کہ جو قادر برحق پانی کی بوند کو قوی اور توانا بنا دیتا ہے اور اسے نیستی سے ہستی، عدم سے وجود میں لاتا ہے اس کی قدرت سے گلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی بخش دینا کیا بعید ہے اور اس کو ناممکن سمجھنا کتنی کھلی ہوئی جہالت و حماقت ہے۔ کہاں خلق اول اور کہاں حیات ثانی جو قادر مطلق خلق اول پر قادر ہے وہ فنا کے بعد اسے دوبارہ زندگی بخشنے پر ضرور قدرت تامہ کاملہ رکھتا ہے۔

پھر جبکہ ہم اس دنیا میں انسانوں کے اعمال و کردار کی جزاء و سزا کا مظاہرہ نہیں دیکھتے تو ہمارا وجدان ہی ہماری رہنمائی اس حقیقت کی طرف کرتا ہے کہ ایک ایسا دن ضرور مقرر ہے۔ جب کائنات انسانی، اپنے اعمال و کردار کی جزاء و سزا کا نتیجہ و ثمرہ پائے گی۔ اور اسی دن کو یوم القیامۃ یوم الآخرة اور یوم الحساب کہتے ہیں۔

پس مومن و مسلم وہی ہے جو توحید خالص اور رسالت و نبوت کے صحیح تصور اور یوم آخرت پر یقین کامل کے سررشتہ کے ساتھ پیوستہ ہو اور یہی وہ تین بنیادی عقائد ہیں جو دین اسلام کے حقیقی تصور یعنی تمام ضروریات دین کے ایمان و تصدیق پر حاوی ہیں۔

عقیدہ ۱۔ یعنی ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے اس کے پورے ہونے کے بعد ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، اور جیسے دنیا میں ہر چیز انفرادی طریقے سے فنا ہوتی اور مٹتی رہتی ہے۔ یوں ہی پوری دنیا کی بھی ایک عمر اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے اس کے پورا ہونے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام کائنات فنا ہو جائے گی اور یہ ساری بساط ہستی الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ آسمان و زمین کے کترے

ٹکرا کر چور چور ہو جائیں گے اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ اس وقت سوا ایک اللہ کے دوسرا کوئی نہ ہو گا اور وہ تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔

**عقیدہ**۔ قیامت بے شک قائم ہوگی اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔

**عقیدہ**۔ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے۔ جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی کافر ہے۔

**عقیدہ**۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر۔ اسی جسم میں ہوگا یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جاتے۔

**عقیدہ**۔ جسم کے اجزاء اگر چہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے۔ مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے۔ ذرہ ذرہ ہو کر ہوا کے جھونکوں سے ادھر ادھر بکھر گئے مگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ان سب کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔

**عقیدہ**۔ جسم اگر چہ گل جائے خاک ہو جائے مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے وہی مورد عذاب و ثواب ہوں گے اور انہیں پرورد قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔

وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں جس کو عجب الذنب کہتے ہیں کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے وہی تخم جسم ہیں۔ ولہذا روز قیامت روہیں کا اعادہ اسی جسم میں ہو گا نہ کہ جسم دیگر میں۔ بالاتے زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا۔

جیسے بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے۔ پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ قوی ہیکل جوان، بیماری میں گھل کر کتنا حقیر ہوتا ہے۔ پھر نیا گوشت پونٹ آکر مثل سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یوں روز قیامت کا عود ہے۔ وہی گوشت اور ہڈیاں کہ خاک یا رکھ ہو گئے ہوں۔ ان کے

ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں۔ رب عزوجل انہیں جمع فرما کر، اسی پہلی ہیئت پر لا کر، انہیں پہلے اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں، ترکیب دے گا اور ہر روح کو اسی سابق جسم میں بھیجے گا۔ اس کا نام حشر ہے۔ اور ان سابق جسموں کا دراز و کوتاہ یا خوبصورت و بدصورت ہونا ممکن ہے جس طرح کافروں کے

لے آیا کہ وہ اس قدر بدصورت و دراز ہو جائیں گے کہ ان کے دانت بڑے لمبے لمبے مثل کوہ احد کے ہوں گے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

**تشریح :-** مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا پڑا تھا۔ جو اڑھاٹے میں سمندر کا پانی چڑھتا اترتا رہتا ہے۔ جب پانی چڑھتا تو مچھلیاں اس لاش کو کھاتیں۔ جب اترتا تو جنگل کے درندے کھاتے جب درندے جاتے تو پرندے جاتے تو پرندے کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کئے جائینگے اس وقت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا "یارب مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء، دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹوں، اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ رَبِّ اِرِنِي كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتِ :

فرمایا "کیا تجھے یقین میں ہے؟ عرض کی "یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے" وَ لٰكِنْ لَّيَطْبِقُنَّ قَلْبِي :

اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان و یقین کا علم ہے۔ باوجود اس کے یہ سوال فرمانا کہ "کیا تجھے یقین نہیں" اس لئے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان کا اقرار خود ان کی زبان سے کرایا جائے اور دنیا کو یہ تعلیم بھی مل جائے کہ ایسے سوالات ہمیشہ بے اعتقادی یا فقدان ایمان ہی سے نہیں پیدا ہوتے اور ان کی بنیاد شک و شبہ ہی پر نہیں ہوتی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب کا مقصود یہ ہے کہ علم الیقین تو تیرے فضل سے اب بھی حاصل ہے عین الیقین چاہتا ہوں تاکہ مشاہدہ کے بعد اطمینان اور زیادہ ہو جائے کہ علم کیسے ہی اعلیٰ درجہ یقین پر ہونے والا ہے۔

شہیدہ کے بود مانند دیدہ

غرض خلیل جلیل کے جواب پر ارشاد ہوا کہ فَخِذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ۔ ایسے تو چار پرندے لو انہیں اپنے ساتھ ہلا لو (تاکہ اچھی طرح شناخت ہو جائے) پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو۔ پھر انہیں بلاؤ وہ تمہارے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے۔ حکم الہی پا کر آپ نے چار پرندے مور مرغ کبوتر کو لئے انہیں بحکم الہی ذبح کیا ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم خلط کر دیئے اور اس مجموعہ کے کئی حصے کئے اور جو ہار یا آپ کے آس پاس تھیں ان چاروں پرندوں کے حصے ان پر رکھے اور سب کے اپنے پاس محفوظ

رکھے۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان سے الگ ہوئے اور ایک مقام پر سب کے سر اپنے پاؤں کے نیچے دبائے۔ پھر اللہ عزوجل کا اسم اعظم لیا اور فرمایا "بحکم الہی چلے آؤ" یہ فرماتے ہی وہ اجزا اڑنے پھر ہر جانور کی ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، بوٹی سے بوٹی اور کمر ملی اور ہر جانور کے اجزاء اس کے دوسرے اجزاء سے جا ملے۔ پھر ہر ایک کے پر اس میں لگ گئے۔ اور پرندوں کی شکل بن کر، صحیح و سالم پرندوں کی شکلیں بن کر، بے سر کے اپنے پاؤں سے دوڑتے حاضر ہوئے۔ گردنوں سے اشارہ کر کے اپنا اپنا سر مانگا۔ خلیل جلیل نے اپنا قدم مبارک اٹھالیا۔ ہر پرند نے اپنی گردی اپنے سر میں رکھ دی۔ اور جیسے تھے ویسے ہی بعینہ پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔

یہ روشن دلیل ہے اس حقیقت پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی اور نمونہ ہے خداوند قادر و قدیر کی قدرت کاملہ کے شاندار مظاہرہ کا۔

معہذا یہاں تو خلیل جلیل علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو عجائب آیات قدرت دکھائے جا رہے ہیں تن بے سر کا جس میں آنکھیں نہیں راہ پہچاننا اور مقصود کی طرف چلنا بھی ان اعظم عجائب سے تھا تو اس کے لئے ان پرندوں کا پاؤں سے چل کر آنا ہی زیادہ مناسب تھا کہ اڑ کر آپڑنے میں احتمال رہتا کہ اتفاقاً ایک طرف اڑے اور سامنے آپڑے۔ بخلاف اس طریق کے کہ پہاڑوں سے اتریں اور سمت خلیل چل کر آئیں۔ اَللّٰہُمَّ ثَبِّتْنَا مَا اَنْزَلْتَ عَلٰی حَبِیْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلِّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ

## قیامت کے اوصاف

اس کی تشریح میں قیامت کے ناموں کا جان لینا ہی بڑی کارآمد بات ہے قرآن پاک میں قیامت کو بیسیوں ناموں سے یاد کیا گیا ہے اور ان میں سے ہر ایک نام اس کے ایک خاص پہلو کو نمایاں اور ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا پہلا نام جو سب سے پہلی سورت (الفاتحہ) میں ہے وہ یوم الدین ہے یعنی روزِ حنا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ پورے حساب اور ہر عمل کے بدلہ کا دن ہوگا۔ اور چونکہ یہ دن اپنی پابندی اور قیام کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے اس لئے یوم القیامت کہلاتا ہے۔ اور چونکہ یہ دن 'دنِ دنیائے موجودہ کے بعد ہے اس لئے یوم الآخرت کہلاتا ہے اور چونکہ جزاء و سزا اور اعمال کے محاسبہ پر اس کا انجام ہوگا اس لئے یوم الحساب ہے۔

اس کے علاوہ قرآن کریم میں جا بجا اس کے اور نام بھی آئے ہیں مثلاً۔

السَّاعَةَ	الْيَوْمَ الْحَقِّ	الْيَوْمَ الْعُلُومِ	الْيَوْمَ الْمَوْعُودِ
يَوْمَ الْآزِفَةِ	يَوْمَ الْقَبْرِ	يَوْمَ التَّلَاقِ	يَوْمَ التَّنَادِ
يَوْمَ عَسِيرٍ	يَوْمَ عَظِيمٍ	يَوْمَ عَصِيبٍ	يَوْمَ الْبَعْثِ
يَوْمَ الْحَسْرَةِ	يَوْمَ الْخُرُوجِ	يَوْمَ الْفَصْلِ	يَوْمَ الْجُمُعِ
الْقَارِعَةِ	الْغَاشِيَةِ	الْحَاقِقَةِ	الْوَاقِعَةِ
الطَّامَّةِ الْكُبْرَى	النَّبَاءِ الْعَظِيمِ	الصَّاخَةِ	وغيرها

یہی روز قیامت ہے جس کے اوصاف میں قرآنی شہادت ہے کہ :-

(۱) يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ

جو لوگ دنیا میں عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ پر قائم رہے ان کے لئے پجائی کام آئے گی۔

(۲) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے۔ مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہو اسلاامت دل لے کر، یعنی

جو شرک و کفر و نفاق سے پاک ہو۔ اس کو اس کا مال بھی کام آئے گا جو راہ خدا میں خرچ کیا ہو اور

اولاد بھی نفع دے گی جبکہ صالح ہو حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اس کے عمل منقطع ہو

جاتے ہیں سوائے تین کے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ مال جس سے اور لوگ نفع اٹھائیں۔ تیسری

نیک اولاد اس کے لئے دعا کرے۔

(۳) يَوْمَ يَعْصُرُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ

جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبالے گا وحسرت و ندامت سے

(۴) يَوْمَ يَغْرُ السُّرُّءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَيْنِهِ الْآيَةُ

اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور بیوی اور بیٹوں سے، ان میں سے

ہر ایک کو ایک ہی فکر ہوگی کہ وہی اسے بس ہے۔ کوئی کسی کی طرف ملتفت نہ ہوگا ہر ایک کو اپنی ہی

پڑی ہوگی۔

(۵) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ السِّنَةُ وَأَبْدَانُهُمْ رِجْدُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، جو کچھ کرتے ہیں۔

(۱) یَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا

جس دن کوئی جان، کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی۔ یعنی کوئی کافر کسی کافر کو نفع نہ پہنچا

سکے گا۔

(۲) یَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا

جس دن کوئی دوست، کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا۔

(۳) يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدَىٰ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ الْآيَةُ

جس دن مجرم یعنی کافر آرزو کرے گا۔ کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے

دے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو۔ اور اپنے بھائی اپنے کنبہ کو جس میں وہ بسر کرتا ہے اور تمام اہل زمین

کو۔ پھر یہ فدیہ اسے بچلے، غرض کافر کی حالت اس روز یہ ہوگی کہ دنیا میں جس پر جان فدا کرتا تھا ان

تک کو اپنی جان بچانے کے لئے فدیہ میں حوالہ کرتا جلتے گا۔

یہی وہ ہولناک دن ہے جس کے ہولناک مناظر، قرآنی الفاظ میں یہ ہیں:

(۱) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفِرَاشِ الْمُبْتَثِّ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ

جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے تنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنگلی اون جس کے اجزاء متفرق

ہو کر اڑتے ہیں۔ یہی حال قیامت کے ہول و دہشت سے پہاڑوں کا ہوگا۔

(۲) إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ الْآيَةُ

جس دن آسمان شق ہوگا اور زمین پھیلا دی جائے گی کہ اس پر کوئی عمارت کوئی پہاڑ نہ رہے گا۔

(۳) إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ الْآيَةُ

وہ دن جبکہ آسمان پھٹ پڑے گا۔ تارے جھڑ جائیں گے۔ سمندر بہا دیئے جائیں گے اور قریب

کر بیڑی جائیں گے (اور ان کے مردے زندہ کر کے نکال دیئے جائیں گے)

(۴) إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ الْآيَةُ

جب آفتاب کا نور زائل ہو جائے گا۔ اور تارے جھڑ پڑیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے

کہ غبار کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں

(۵) يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ الْاِيَةِ

جس دن آسمان ہوگا جیسے گلی چاندی ریا پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے

اون۔ یعنی جب آسمان اور پہاڑ جیسی زبردست اور مستحکم چیزیں یوں نکمی نکل جائیں گی اور اس

حالت تک پہنچیں گی تو دوسری موجودات کا کیا ذکر۔

(۶) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً

جس دن زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعۃً چور کر دیئے جائیں گے۔

(۷) فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ

جس دن آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا (جگہ جگہ سے شق اور

رنگت کا سرخ۔

(۸) فَإِذَا بَرَقَ الْبَصُرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

جس دن آنکھیں چومدھیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا دیئے

جائیں گے (دونوں کی حالت یکساں ہو جائے گی نہ اس میں نور ہوگا نہ اس میں روشنی)

(۹) يَوْمًا يَجْعَلُ الْيَوْلِدَانُ شَيْبًا

وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا (اپنی شدت و ہمت سے)

(۱۰) يَوْمَ تَرُؤُنَهُمَا تَخَالُفًا عَظِيمًا وَصَعَتِ الْاِيَةِ

جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی (اس کی ہیبت سے) اپنے دودھ پیتے کو

بھول جائے گی اور ہر عمل والی اپنا عمل ڈال دے گی۔ اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشہ میں ہیں حالانکہ

وہ نشہ میں نہ ہوں گے بلکہ (عذاب الہی کے خوف سے لوگوں کے ہوش جاتے رہیں گے اور) یہ

کہ اللہ کے عذاب کی مار بڑی سخت چیز ہے۔

الغرض قیامت کے یہ ہولناک مناظر ایسے ہیبت ناک اور دہشت انگیز ہوں گے جن کا صحیح

تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ پہاڑوں جیسی مضبوط و مستحکم چیزیں جب ریزہ ریزہ کر کے، دھنی ہوئی روٹی

کی طرح اڑا دیئے جائیں گے اور زمین کو چٹیل میدان کی طرح ہموار بنا دیا جائے گا کہ کوئی ٹیلہ، کوئی

پہاڑ، کوئی آبادی، کوئی بستی، کوئی عمارت نظر نہ آئے گی تو کوئی صحیح الحواس انسان اسے فراموش کر کیسے

سکتا ہے۔

مولائے کریم صدقہ اپنے محبوب رؤف و رحیم کا، ہمیں انیس کے زیر لو اٹھائے انیس کے سایہ رحمت میں جگہ دے اور انیس کی اطاعت میں خاتمہ نصیب فرمائے۔  
آمین آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین

فائدہ: قیامت تین قسم کی ہے۔

قیامت صغریٰ، یہ موت ہے کہ

قیامت وسطیٰ۔ یہ کہ ایک قرن کے تمام لوگ فنا، اور دوسرے قرن کے نئے پیدا ہو جائیں۔  
قیامت کبریٰ، وہ یہ کہ آسمان و زمین سب فنا ہو جائیں۔

## آثار قیامت

جس طرح افراد جی کر مر جاتے ہیں۔ جماعتیں وجود میں آکر مٹ جاتی ہیں۔ قومیں پیدا ہو کر فنا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پوری دنیاٹے مخلوقات، زمین و آسمان اور جن و انس و ملک بھی ایک دن فنا ہونے والے ہیں اور ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب قانون الہی کے مطابق سب فنا کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لئے ہمیشگی و بقاء ہے۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

اور جس طرح آدمی کے مرنے سے پہلے، بیماری کی شدت، موت کے سکرات نزع کی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں ایسے ہی دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی جنہیں "آثار قیامت" کہا جاتا ہے۔

علامات قیامت دو قسم پر ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت شریف سے لے کر وقوع میں آچکیں اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور تک وقوع میں آتی رہیں گی یہاں تک کہ دوسری قسم سے مل جائیں گی انہیں علامات صغریٰ کہتے ہیں۔

دوسری قسم کی علامات وہ ہیں جو ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے، نفع صورت تک ظاہر ہوں گی۔ یہ علامات یکے بعد دیگرے، پے درپے ظاہر ہوں گی۔



جیسے سلک مردارید سے موتی گرتے ہیں۔ ان کے ختم ہوتے ہی قیامت برپا ہوگی۔ انہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔

## علاماتِ صغریٰ

(۱) علم اٹھ جائے گا یعنی علمائے دین اٹھائے جائیں گے۔

(۲) جمل کی کثرت ہوگی۔ عوام الناس (نام کے عالموں اور حقیقتاً) جاہلوں کو اپنا پیشرو بنائیں گے ان سے دینی باتیں دریافت کریں گے۔ اور وہ علم درکھنے کے باوجود فتویٰ دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور وہ کو بھی گمراہ کریں گے۔

(۳) زنا کی کثرت ہوگی اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے جنتی کھاتے ہیں۔ بڑے چھوٹے کسی کا پاس لحاظ نہ ہوگا۔

(۴) مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ۔ یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں پچاس عورتیں ہوں گی (بہنیں خالائیں اور چھو پھیاں وغیرہ)

(۵) علاوہ اس بڑے دجال کے اور تیس دجال ہوں گے کہ وہ سب دعویٰ نبوت کریں گے حالانکہ نبوت ختم ہو چکی۔ جن میں بعض گذر چکے جیسے مسلمہ و کذاب، طلحہ بن خویلد۔ اسود عینی اور سجاج نامی عورت کہ بعد کو اسلام لے آئی اور مرزا علی محمد باب (جس کے پیرو بانی کہلاتے ہیں) اور مرزا علی حسین بہاء اللہ (ہائیوں کا پیشرو اور غلام احمد قادیانی وغیرہم۔ اور جو باقی ہیں ضرور ہوں گے۔

(۶) امانتوں میں خیانتیں ہوگی اور سبھی وہ وقت ہوگا کہ دین و دنیا کا انتظام و انصرام، نااہلوں کے

سپر دکر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس سے فتنہ و فساد برپا ہوگا اور عوام الناس کے حقوق پامال ہوں گے

(۷) مال کی کثرت ہوگی۔ نسرفرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ اور

اور ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں جاری ہو جائیں گی غرض یہ کہ زمین اپنے دینے اگل دے گی خواہ وہ کسی شکل میں ہوں۔

(۸) شراب خوری اور بے حیائی کی زیادتی ہوگی۔ خواہ اسے کوئی نام دیا جائے۔

(۹) دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا۔ جیسے مٹی میں انگار لینا۔ یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا

کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔

(۱۰) وقت میں برکت نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ سال مثل پہننے کے، اور مہینہ مثل ہفتہ کے، اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کہ ختم ہو گئی۔ یعنی وقت بہت جلد جلد گزرے گا۔

(۱۱) لوگ امانت کو غنیمت، مال غنیمت کو اپنی ذاتی ملکیت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں گے اور زکوٰۃ مکان، گراں ہوگا۔

(۱۲) علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لئے نہیں (بلکہ دنیا کی عزت ووجاہت کی خاطر)

(۱۳) مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا اور والدین کا نافرمان۔

(۱۴) اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے دور دور رہے گا۔

(۱۵) مسجدوں میں شور و شغب ہوگا۔ لوگ بلا جھجک چلائیں گے شور مچائیں گے۔ اور وہاں بیٹھ کر دنیا کی باتیں بنائیں گے۔

(۱۶) گانے باجے (ناچ رنگ) کی کثرت ہوگی (اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج اسی لعنت کو اسلامی ثقافت کا نام دیا جا رہا ہے اور ترقی پر ہے)

(۱۷) خاندان و قبیلہ کے سربراہ، فُتاق و فجار اور قوم ملک و ملت کے رئیس و کفیل، اور ان کے امور کے نگران، ذلیل و رذیل ہوں گے۔

(۱۸) انکوں پر لوگ لعنت کریں گے انہیں برا بھلا کہیں گے۔

(۱۹) آدمی کے شر اور اس کے ظلم سے حفاظت کے لئے، اس کی عزت کی جائے گی۔ (حالانکہ وہ کسی عزت و توقیر کا مستحق نہ ہوگا)

(۲۰) ذلیل لوگ جنہیں تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں، بدن پر صاف کپڑے نصیب نہ تھے بڑے بڑے محلوں، کوٹھیوں، بنگلوں پر فخر کریں گے۔

(۲۱) بروقت ملاقات، سلام و جواب سلام کی بجائے، لوگ گالی گلوچ سے ایک دوسرے کا استقبال کریں گے اور پیش آئیں گے۔

(۲۲) نماز کے ارکان، فرائض و شرائط وغیرہا کا لحاظ کئے بغیر، لوگ نمازیں پڑھیں گے یہاں تک

کہ پچاس نمازوں میں سے ایک بھی قبول نہ ہوگی۔

(۲۳) حیا و شرم جاتی رہے گی۔ نہ بڑوں کو چھوٹوں کا لحاظ نہ ہوگا۔ نہ چھوٹوں کو بڑوں کا پاس۔  
(۲۴) سلف صالحین کی سیرت اور ان کے اعمال و کردار کی متابعت۔ تنگ و عار تصور کی جائے گی۔  
لوگ کہیں گے۔ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی

(۲۵) عورتیں مردانہ وضع اختیار کریں گے اور مردوں کو زنانی وضع پسند ہوگی۔  
(۲۶) درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے۔ کوڑے کی پھینچی، جوتے کا تسمہ کلام کرے گا۔ اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہو ابتائے گا۔ بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی۔  
(۲۷) لونڈی بچوں کی کثرت ہوگی۔

(۲۸) ظلم و ستم کا راج ہوگا۔  
(۲۹) نوردولستیوں کی حکومت ہوگی۔

۳۰ جھوٹ بولنا، ہنر میں شمار ہوگا۔

ان کے علاوہ اور بھی علامات ہیں جن کا ذکر بڑی کتابوں میں ہے۔

## علامات گبریٰ

(۱) دجال کا ظاہر ہونا۔

یہ لفظ مشتق ہے دجل سے اور دجل کے معنی ہیں مکر و فریب اور حق و باطل میں خلط و تلبیس اور ان معنی کا دجال میں پانا جانا بالکل ظاہر۔ اس کا لقب ہے مسیح۔ لیکن یہ لقب تنہا مستعمل نہیں بلکہ دجال کے ساتھ ملا کر کہا جاتا ہے۔ مسیح دجال۔ لفظ مسیح کا تنہا استعمال صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مختص ہے۔

دجال کو مسیح اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ ہموار ہوگی یعنی نہ آنکھ ہوگی نہ اس کی ابرو۔ بلکہ چہرہ بالکل چوٹ سپاٹ۔ صرف ایک آنکھ والا ہوگا۔

یہ ایک یہودی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ابتلاء و آزمائش کے لئے، ان پر مسلط فرمائے گا۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا ک ف ر (یعنی کافر) ہر مسلمان اسے پڑھ لے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا۔

وہ چالیس دن ہیں حرمین طیبین کے سوا، تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ ان چالیس دنوں میں پہلا دن ایک سوال کے برابر ہوگا۔ دوسرے دن مہینے بھر کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتہ کے برابر۔ اور باقی دن معمولی دنوں کے برابر چوبیس چوبیس گھنٹوں کے ہوں گے۔

اس مردود کا ظہور شام و عراق کے مابین ہوگا اور دعویٰ نبوت کرے گا۔ اس کے ساتھ ستر ہزار یہودیوں (اور بدنیوں بد مذہبوں) کی فوج ہوگی۔ پھر اصفہان میں آئے گا۔ اور خدائی دعویٰ کرے گا۔ اور بہت تیزی سے سیر کرے گا جیسے بادل جس کو ہوا اڑائے پھرتی ہو۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ بہت سے عجائبات دکھائے گا۔ زمین سے سبزہ اگائے گا۔ آسمان سے مینہ برسائے گا اور مردے جلائے گا۔ اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا اور ایک آگ۔ جن کا نام جنت دوزخ رکھے گا۔ جہاں جلے گا یہ بھی اس کے ہمراہ ہوں گی۔ مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقت میں آگ ہوگی اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ واقع میں آرام و آسائش کی جگہ ہوگی۔

جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں ڈال دے گا۔ جو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے ان کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے۔ دیرانے میں جائے گا تو وہاں کے دینے شہد کی مکھیوں کی طرح، دل کے دل اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ اسی قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا۔ اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیاطین کے تماشے۔ جن کو واقعیت سے کچھ تعلق نہیں۔ اسی لئے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جو اسے نہ مانیں گے ان کے پاس سے چلا جائے گا اور ان پر قحط ہو جائے گا۔ تہی دست، خالی دامن رہ جائیں گے۔ اس وقت میں مسلمانوں کی روٹی پانی کا کام ان کی تسبیح و تہلیل دے گی۔ یعنی وہ ذکر خدا کریں گے اور بھوک پیاس انہیں نہ ستائے گی۔

ایک مومن صالح اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان سے دجال کے سپاہی کہیں گے "کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے وہ کہیں گے "میرے رب کے دلائل چھپے ہوئے نہیں ہیں تو میں کیوں اسے اپنا رب مانوں، پھر وہ انہیں پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے۔ یہ دجال کو دیکھ کر فرمائیں گے "اے لوگو! یہ وہی دجال ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا ہے۔" دجال کے حکم سے انہیں زور و کوب کیا جائے گا۔ پھر دجال کہے گا۔ "کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ وہ فرمائیں گے

”تو مسیح کذاب ہے“ دجال کے حکم سے ان کا جسم مبارک، سر سے پاؤں تک چیر کر دو حصے کر دیا جائے گا اور ان دونوں حصوں کے درمیان، دجال چلے گا۔ پھر کہے گا ”اٹھ“ تو وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تب ان سے دجال کہے گا۔ ”تم مجھ پر ایمان لاتے ہو“ وہ فرمائیں گے میری بصیرت اور زیادہ ہو گئی۔ اے لوگو! یہ دجال اب میرے بعد کسی کے ساتھ پھر ایسا نہیں کر سکتا۔“ پھر دجال انہیں پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا۔ مگر اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ پھر ان کے دست و بازو پکڑ کر اپنی جہنم میں ڈال دے گا۔ لوگ گمان کریں گے کہ ان کو آگ میں ڈالا۔ مگر درحقیقت وہ آسائش کی جگہ ہوں گے۔

یہ دجال پھر یمن میں آئے گا اور وہاں سے مکہ معظمہ کا قصد کرے گا مگر اس کی حفاظت پر جو فرشتے مامور ہوں گے وہ اسے مکہ معظمہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ پھر مدینہ منورہ کا قصد کرے گا اور مدینہ طیبہ کے قریب اپنا ڈیرہ ڈال دے گا۔ مدینہ منورہ کے اس وقت سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے حفاظت کے لئے موجود ہوں گے وہ اس کا منہ پھیر دیں گے وہاں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔

البتہ مدینہ طیبہ میں تین زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے اور وہ جو علم الہی میں، دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں، ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور اس کے فتنہ میں مبتلا ہوں گے۔ مدینہ طیبہ کی طرف سے نامراد ہو کر، دجال اب ملک شام کی طرف کوچ کرے گا اور دمشق شہر پہنچے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام، آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی منارہ پر، شریعت محمدیہ کے حاکم اور امام عادل و مجدد ملت ہو کر، نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہو گا۔ نماز فجر کے لئے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی جو اس جماعت میں موجود ہوں گے۔ آپ سے امامت کی درخواست کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے۔ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ کہ تکبیر تمہارے ہی لئے ہوئی تھی۔ اور تعمیل ارشاد میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتدار میں نماز ادا فرمائیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ . کیا حال ہوگا تمہارا جب تم میں ابن مریم نزول کریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ یعنی اس وقت تمہاری خوشی اور تمہارا فخر بیان سے باہر ہے کہ روح اللہ

تم میں اتریں۔ تم میں رہیں تمہارے معین و یار بنیں اور تمہارے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں۔

(بخاری و مسلم)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کردروازہ کھلوائیں گے۔ اس طرف دجال ہوگا جس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہتھیار بندہوں گے۔ لشکر اسلام، اس لشکر دجال پر حملہ کرے گا۔ گھمسان کا معرکہ ہوگا۔ جب دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی۔ وہ تعین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا۔ جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے اور آپ کے سانس کی خوشبو، حد بصر تک پہنچے گی۔ وہ بھاگے گا یہ تعاقب فرمائیں گے۔ اور دجال کو بیت المقدس میں، مقام لُد کے قریب، اس کی چھاتی پر نیزہ ماکر واصل جہنم فرمائیں گے پھر اس کے لشکر کو، کہ یہود و منافقین ہوں گے قتل فرمائیں گے۔

## حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور

حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اثنا عشر (بارہ اماموں) میں آخری امام اور خلیفۃ اللہ ہیں۔ آپ کا اسم گرامی محمد، باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا وہ نسباً سید حسنی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہوں گے اور مادری رشتوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پہلے بھی کچھ علاقہ رکھیں گے جیسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے رافضیوں کے رد میں فرمایا کہ کیا کوئی شخص اپنے باپ کو بھی برا کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق دو بار میرے باپ ہوئے۔ یعنی دو طرح سے میرا نسب مادری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی خلافت ۷ یا ۸ یا ۹ سال ہوگی۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ جب آثارِ صغریٰ سب واقع ہو چکیں گے اس وقت نصاریٰ کا غلبہ ہوگا۔ روم و شام اور تمام ممالک اسلام، حرمین شریفین کے علاوہ، سب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی۔ سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء، سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے۔ صرف وہیں اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی رمضان شریف کا مہینہ ہوگا۔ ابدال، طوائف کعبہ میں مصروف ہوں گے۔ اور حضرت امام مہدی بھی وہاں موجود ہوں گے۔ عام لوگ انہیں نہ پہچان پائیں گے البتہ اولیاء انہیں پہچان لیں گے اور

ان سے درخواست بیعت کریں گے۔ آپ انکار فرمائیں گے۔ دفعۃً غیب سے ایک آواز آئے گی۔

هَذَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ فَاسْمَعُوا لَنَا وَاطِيعُوا ۝ . یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے

اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔" تمام لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے اور آپ وہاں سے ان سب کو ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے۔ افواج اسلام کی خبر سن کر، نصاریٰ بھی لشکر جرار لے کر، شام میں جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تین حصوں میں تقسیم ہو جائے گا ایک حصہ نصاریٰ کے خوف سے فرار ہو جائے گا جن کی موت کفر پر ہوگی۔ دوسرا حصہ شہادت سے مشرف ہوگا اور یہ اللہ کے نزدیک بہترین شہداء ہوں گے۔ اور باقی ایک تہائی حصہ جو تھے دن نصاریٰ پر فتح عظیم پائے گا۔

اس لڑائی میں مسلمانوں کے بہت سے ایسے خاندان ہوں گے جن میں فی صد، ایک بچا ہوگا پھر فتحیاب حصہ قسطنطنیہ کو نصاریٰ سے چھین لے گا۔ ان جنگوں میں اتنے کافر مارے جائیں گے کہ پرندہ اگر ان کی لاشوں کے ایک حصے سے اڑے تو دوسرے کنارے تک پہنچنے سے پہلے مر کر گر جائے گا۔ جب اہل اسلام فتح قسطنطنیہ کے بعد غنیمتیں تقسیم کرتے ہوں گے تو ناگاہ شیطان پکارے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال آگیا۔ مسلمان پلٹیں گے اور دس سواری بطور طلیعۃ خبر لانے کے لئے بھیجیں گے جن کی نسبت صادق و مصدوق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "میں ان کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کی رنگت پہچانتا ہوں اور وہ اس وقت روئے زمین کے بہترین سواروں میں سے ہوں گے" مگر یہ افواہ غلط ثابت ہوگی۔ پھر جب لشکر اسلام قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر شام میں آئے گا تو اس جنگ عظیم سے ساتویں سال دجال ظاہر ہوگا۔

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا

جب دجال کا فتنہ انتہاء کو پہنچ چکے گا اور وہ ملعون تمام دنیا میں پھر کر ملک شام میں جائے گا۔ جہاں تمام اہل عرب سمٹ کر پہلے ہی جمع ہو چکے ہوں گے، یہ نصیبت ان سب کا محاصرہ کر لے گا۔ اس وقت بیت المقدس میں ایک لاکھ عورتیں اور بائیس ہزار مرد جن کی محصور ہوں گے کہ ناگاہ اس حالت میں، قلعہ بند مسلمانوں کو غیب سے آواز آئے گی کہ گھبراؤ نہیں

فریادرس آپہنچا: "ناگاہ ایک ابر کی گھٹا ان پر چھا جائے گی صبح ہوتے کھلے گی تو دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب، منارہ سپید کے پاس نزول فرمائیں گے دو کپڑے درس وزعفران سے رنگے ہوتے پہنے، دو فرشتوں کے پردوں پر ہاتھ رکھے جب اپنا سر جھکائیں گے بالوں سے پانی ٹپکنے لگے گا اور جب سر اٹھائیں گے موتی سے جھڑنے لگیں گے۔ کسی کافر کو حلال نہیں کہ ان کے سانس کی خوشبو پائے اور مر نہ جائے۔ اور ان کا سانس وہاں تک پہنچے گا۔ جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی۔ وہ دجال لعین کو تلاش کر کے بیت المقدس کے قریب، جو شہر لد ہے اس کے دروازے کے پاس اسے قتل فرمائیں گے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ حدیث شریفہ وارد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ دجال لعین کے قتل پر کسی کو قدرت نہ دی گئی سوا عیسیٰ بن مریم علیہم الصلوٰۃ والسلام کے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عہد مبارک بڑے امن و چین کا زمانہ ہوگا۔ آپ اصلاحات میں مشغول ہوں گے۔ اسلام پر کافروں سے جہاد فرمائیں گے اور جزیہ کو موقوف کر دیں گے یعنی کافر سے سوا اسلام کے کچھ قبول نہ فرمائیں گے۔ صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو نجسیت و نابود کر دیں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کے زمانہ میں اللہ عزوجل اسلام کے سوا سب دنیوں کو اور مذہب اہل سنت کے سوا سب مذہبوں کو فنا کر دے گا۔ تمام جہاں میں ایک دین ہوگا دین اسلام اور ایک مذہب ہوگا، مذہب اہلسنت۔ آپ کے زمانہ میں مال کی کثرت ہوگی اور برکت میں افراط۔ ساری زمین عدل سے بھر جائے گی۔ یہاں تک کہ بھیر ٹیے کے پہلو میں بکری بیٹھے گی اور وہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے گا اور بچے سانپ سے کھیلیں گے اور وہ انہیں حضرت نہ دے گا۔ نہ آپس میں مال کا لالچ رہے گا نہ حسد نہ کینہ۔

دجال لعین کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ اس لئے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کئے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع تمام ہمراہیوں کے پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے۔



## یاجوج ماجوج کا خروج

یہ یاقث بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے فساد کی گروہ ہیں قرآن کریم کی آیات کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے شورہ پشت، شورش پسند پہاڑی قبیلے تھے جو آبادیاں ان کی تاخت و تاراج کی زمین آئیں، ان کی طرف رخ کرتے، غارت گرانہ حملے کرتے اور انہیں تہ و بالا کر دیتے اور احادیث کریمہ سے یہ بات روشن ہے کہ وہ ربیع کے زمانہ میں نکلتے تھے تو کھیتیاں اور سب سے سب کھا جاتے تھے کچھ نہ چھوڑتے تھے۔ اور خشک چیزیں لا کر لے جاتے تھے، آدمیوں، درندوں، وحشی جانوروں، اور سانپوں بچھوڑوں تک کو کھا لیا کرتے تھے۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے ناخنوں کی جگہ، ان کے ہاتھوں میں درندوں کے سے پنچے ہیں، اور شیر کے سے کیلے، اور اونٹ کے سے پاؤں اور سارے بدن بالوں سے ڈھکا ہوا کہ انہیں ہردی گرمی سے بچاتے ہیں ہر ایک کے دو بڑے بڑے کان، کہ ایک اور ٹھنڈا ہے ایک بچھاتا ہے۔ ان کا نہ نہیں مرتا، جب تک خاص اس کے نطفے سے ہزار بچے نہ ہو لیں اور کوئی مادہ نہیں مرقی جب تک ہزار بچے نہ جن لے۔ کتوں کی طرح بھونکتے ہیں اور مرد عورت جہاں مل گئے چو پاؤں کی طرح جھتی کرتے ہیں (چابک لیث بحوالہ ابن جریر وغیرہ)

حضرت ذوالقرنین جو بڑے دیندار، مومن صالح، اللہ کے مقبول بندے فاتح کشور کشا بڑے شوکت و اقتدار کے صاحب، تمام دنیا پر حکمران اور بڑے جلیل القدر فرمانروا تھے، اپنے شاہی اداروں اور منصوبوں کی تکمیل کے لئے جب جانب مشرق روانہ ہوئے اور منہ تائے آبادی پر پہنچے تو وہاں آپکا واسطہ ایک ایسی قوم سے پڑا جن کی زبان، تلفظ، لب و لہجہ سب، ذوالقرنین اور ان کے لشکریوں کے لئے اجنبی تھے اور ان کے ساتھ اشارہ وغیرہ کی مدد سے بہ مشقت بات کی جاسکتی تھی اور ساتھ ہی ایسی وحشی قوم کی عمارتیں بنانا درکنار خیمے بنانا تک نہ جانتی تھی۔ انہوں نے آپ سے یاجوج ماجوج کی ہلاکت آفرینی، اور شورہ پشتی کی شکایت کر کے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک ایسی حد فاصل بنا دیں جسے توڑ کر یہ حملہ آور نہ آسکیں اور ہم ان کے شر و ایذا سے محفوظ رہیں۔

چنانچہ آپ نے بنیاد کھدوائی جب پانی تک پہنچی تو اس میں پتھر، پگھلائے ہوئے تانبے سے  
 جمائے گئے اور لوہے کے تختے اور نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر کر، اس میں  
 آگ دے دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان  
 کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ اوپر سے پگھلایا ہوا تانبہ دیوار میں پلادیا گیا یہ سب مل کر ایک سخت جسم بن گیا  
 اور اس دیوار کی بلندی واسطی کام کے باعث، ان وحشی و جنگجو قوموں کی تخت و تاراج سے امن ہو گیا  
 اس کی چوڑائی ساٹھ گز ہے اور لمبائی ڈیڑھ سو فرسنگ (یعنی ۲۵۰ میل) ایک فرسنگ ۳ میل۔ ایک میل  
 چار ہزار گز اور ہر گز = ۱۲۴ انگیل) ساتھ ہی حضرت ذوالقرنین نے یہ بھی فرمادیا **فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ  
 جَعَلَهُ دَكَاةً**۔ پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اور یا جوج ماجوج کے خروج کا وقت آپہنچے گا تو  
 قرب قیامت) اسے پاش پاش کر دے گا۔

چنانچہ احادیث شریف میں ہے کہ وہ ہر صبح دیوار پر آکر اسے چاٹتے ہیں (غالباً ان میں بہت  
 سی زبانیں ایسی سخت ہوں گی کہ پھاوڑے سے زیادہ کام دیں اور جو ایسے نہیں وہ) پھاوڑوں سے کھودتے  
 ہیں یہاں تک کہ اسے ایسا کر دیتے ہیں جیسے انڈے کا چھلکا۔ اور دن بھر محنت کرتے کرتے جب اس  
 کے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں گھبراہٹ ڈالتا ہے کہ خدا جانے ابھی کتنی ہو  
 گی اور ان کے افسر کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ ان سے کہتا ہے ”لوٹ چلو باقی کل توڑ ڈالیں گے“ اور  
 انشاء اللہ نہیں کہتا۔ وہ رات بھر میں پھر ویسی کی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ یہی حال رہے گا۔ جیسا اللہ  
 عزوجل چاہے گا کہ اب یہ لوگوں پر نکلیں تو ان میں ایک مسلمان لڑکا پیدا ہو گا جو ان کا افسر ہو گا اور وہ  
 افسر جب صبح چاٹے آئیں گے کہے گا ”بسم اللہ کہہ کر شروع کرو“ یہ بسم اللہ کہیں گے۔ جب شام کو  
 پلٹتے وقت کہیں گے ”کل آکر کھول لیں گے وہ کہے گا“ انشاء اللہ کہو۔ یہ انشاء اللہ کہیں گے۔ اب جو صبح  
 کو آئیں گے دیوار اتنی ہی رہی ہوگی جتنی کہ شام کو انڈے کا چھلکا سا کہ اس میں سے دھوپ کی چمک انہیں  
 نظر پڑے) چھوڑ گئے تھے۔ اب کھودیں گے اور دیوار کو کھول لیں گے اور پھر لوگوں پر خروج کریں گے۔

(چابک لیٹ بحوالہ مذکورہ)

سب میں پہلے ستر بزار تاج پوش نکلیں گے پھر فوج در فوج نکلتے آئیں۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے  
 کہ فرات و دجلہ جیسے دریا اور بحیرہ طبریہ جس کا طول دس میل ہو گا اس پر گزریں گے تو اسے پی جائیں

گے۔ کچھ باقی نہ رہے گا۔ اس کا پانی پی کر یہ جماعت اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت، بعد والی جب آئے گی تو اسے پانی کی جگہ کیچڑ ملے گی یہ اس کی کیچڑ چاٹ لے گی اور جب تیسرا گروہ آئے گا تو وہ کہے گا یہاں کبھی پانی نہ تھا۔ پھر یہ لوگ موردِ تلخ کی طرح ہر طرف پھیل کر فتنہ و فساد برپا کریں گے اور جب دنیا میں قتل و غارت سے فرصت پائیں گے تو کہیں گے زمین والوں کو تو قتل کر لیا آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر تیرا آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت کہ ان کے تیرا پر سے خون آلودہ کریں گے۔

یہ اپنی انہیں حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے یہاں تک کہ ان کے نزدیک، گائے کے سر کی، وہ وقعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک سوا شرفیوں کی نہیں۔

اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے نغف نام پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مرجائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے۔ ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے اور ان کے تیر و کمان و ترکش کو مسلمان سات برس تک جلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑے گی اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکات انڈیل دے۔ زمین کو حکم ملے گا کہ اپنی برکتیں اگل دے۔ پھر تو یہ حالت ہوگی کہ پتھر کی چٹان پر دانہ بکھیر دو تو کھیتی ہو جائے اور اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی۔ اور اس کے چھلکے کے سائے میں دس آدمی بیٹھیں گے۔ ایک بکری کے دودھ سے ایک قوم کا پیٹ بھرے گا۔ ایک گائے کا دودھ قبیلہ بھر کو کافی ہوگا اور ایک اونٹنی کا دودھ جماعت بھر کو کافی ہوگا۔

آپ کے عہد مبارک میں روئے زمین پر کوئی محتاج نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ دینے والا شرفیوں کے توڑے لئے پھرے گا اور کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔ ہر طرح کا امن چین ہوگا۔ لالچ بغض حسد دنیا سے اٹھ جائے گا۔ شیر کے پہلو میں بکری چرے گی اور بھڑیٹے کی بغل میں بکری بیٹھے گی۔ سائب

کو ہاتھ میں لے کر بچے کھیلیں گے اور کوئی کسی کو ضرر نہ پہنچائے گا۔ جبکہ روئے زمین کے تمام کفار مسلمان ہوں گے یا قتل کر دیئے جائیں گے۔ یوہیں یہودی گن گن کر موت کے گھاٹ اتار دیئے جائیں گے یہاں تک کہ پیڑ اور پتھر مسلمان سے کہیں گے کہ اے مسلمان آ۔ یہ میرے پیچھے یہودی ہے۔

غرض سوادین اسلام کے تمام مذاہب یکسر نیست و نابود ہو جائیں گے۔ انہیں ایام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحا کے راستے سے حج یا عمرے کو جائیں گے اور مزار اقدس سید اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر سلام کریں گے اور قبر انور سے جواب پائیں گے چالیس سال زمین میں اقامت دین، حکومت عدل آئیں فرما کر، وفات پائیں گے۔ مسلمان ان کی تجہیز کریں گے نہلائیں گے خوشبو لگائیں گے کفن دین گے۔ نماز پڑھیں گے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں حضور کے پہلو میں آپ دفن کر دیئے جائیں گے۔ نزول کے بعد آپ شادی بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "روز قیامت میں اور وہ (عیسیٰ بن مریم) ایک ہی مقبرے سے اس طرح اٹھیں گے کہ ابوبکر و عمر، ہم دونوں کے دائیں بائیں ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما

(الصارم الربانی)

مسئلہ ضروریہ: حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قرب قیامت آسمان سے نزول فرمانا دنیا میں دوبارہ تشریف فرما ہو کر، اس عہد کے مطابق جو اللہ عزوجل نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے لیا، دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، یہ مسئلہ ضروریات مذہب اہل سنت و جماعت سے ہے جس کا منکر گمراہ خاصر بد مذہب فاجر ہے۔ اور جس طرح اس کا راستا منکر گمراہ با یقین ہے۔ یوہیں اس کا بدلنے والا اور نزول عیسیٰ بن مریم رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کسی زید و عمرو کے خروج پر ڈھالنے والا بھی ضال مضل بد دین ہے کہ ارشاد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نے تکذیب کی۔

## تنبیہ جلیل

قرآن مجید سے اتنا ثابت اور مسلمان کا ایمان کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام یہود عنود کے مکر و کجبود سے بچ کر آسمان پر تشریف لے گئے ان کے رب جل و علا نے انہیں صاف سلامت

چاکر آسمان پر اٹھالیا اور ان کی صورت دوسرے پر ڈال دی کہ یہود ملائحت نے ان کے دھوکے میں سے سولی دی۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ قطعیہ یقینیہ ایمانیہ اور مسائل ضروریات دین سے ہے۔ جس کا منکر یقیناً کافر بہا یہ کہ تشریف لے جانے سے پہلے زمین پر ان کی روح قبض کی گئی اور جسم میں چھوڑ کر، صرف روح آسمان پر اٹھائی گئی یہ اہلسنت وجماعت کے مسئلہ قطعیہ یقینیہ کے سراسر خلاف۔ اس کا قول نہ کرے گا مگر گمراہ۔ مذہب مہذب اہلسنت وجماعت میں، اب تک ان پر موت طاری نہ ہوئی۔ زندہ ہی آسمان پر اٹھائے گئے اور بعد نزول، دنیا میں ساہا سال، تشریف رکھ کر، اتمام نصرت اسلام فرمائیں گے اور پھر کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ کے ماتحت وفات پائیں گے۔ اس کے ثبوت کو اسی قدر کافی ووفائی کہ رب جلّ و علا نے فرمایا: **وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ**۔ جس کی تفسیر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ ”ہر کتابی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ضرور ان پر ایمان لانے والا ہے اور وہ، وہ یہود و نصاریٰ ہیں جو بعد نزول عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے زمانہ میں ہوں گے تو تمام روئے زمین پر صرف ایک دن ہوگا دین اسلام و بس (بخاری و مسلم) یہی تفسیر بسند صحیح دوسرے صحابی جلیل الشان ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی اور یہی تفسیر امام حسن بصری سے مروی ہوئی۔ اور یہی احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور یہی اجماع اہل حق ہے۔ اور اسی لئے امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد ذہبی نے تجرید الصحابہ اور امام تاج الدین سبکی نے کتاب القواعد اور امام ابن حجر عسقلانی نے اصحابہ میں، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہمارے نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابیوں میں شمار کیا کہ وہ شب معراج، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے بہرہ اندوز ہوئے ظاہر ہے کہ ان کی تخصیص اسی بنا پر ہے کہ انہیں یہ دولت، موت کے طاری ہونے سے قبل نصیب ہوئی۔ ورنہ شب معراج حضور کی زیارت کس نبی نے نہ کی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا سیدنا محمد و علیہم وبارک وسلم۔

امام سبکی نے اس مضمون کو ایک چیتاں (پہیلی) میں ادا فرمایا کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے وہ کون سا جوان ہے جو بالاتفاق، تمام جہاں کے حضرت افضل الصحابہ صدیق اکبر و فاروق اعظم و عثمان غنی و علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب سے افضل ہے؟ اور اس کا جواب ہے۔

سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

بلکہ امام ذہبی کی عبارت میں یہ بھی تصریح ہے کہ ”عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے صحابی ہیں جن کا انتقال، سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد ہوگا۔“  
 لہذا یہ بالیقین ثابت کہ وہ زندہ بیدار اٹھائے گئے نہ ان کا انتقال ہوا اور نہ اس وقت وہ سوتے تھے۔ قول صحیح ہی ہے۔ اور یہ کہ وہ عنقریب قیام قیامت سے پہلے ضرور نزول فرمائیں گے۔ رہا یہ سوال کہ کس وقت آسمان سے رجوع کریں گے اس کا جواب وہی ہے کہ ما الہستول عنہا با علم من السائل۔ اتنا یقینی ہے کہ وہ وقت بہت قریب آپہنچا ہے کہ وہ آفتاب ہدایت و کمال، افق رحمت و جمال و قہر و جلال سے طلوع فرما کر، اس زمین تیرہ و تار پر بجلی فرمائے اور ایک جھلک میں تمام کفر و بدعت نصرانیت، یہودیت، شرک، مجوسیت، نیچریت، قادیانیت، رخص و غیرہا اقسام ضلالت، سب کا سویرا کر دے۔ تمام جہاں میں ایک دین اسلام ہو اور دین اسلام میں صرف ایک مذہب اہلسنت، باقی سب تہ تیغ۔ مگر تعین وقت کہ آج سے کئی سال کے ماہ باقی ہیں نہ ہمیں بتائی گئی نہ ہم جان سکتے ہیں جس طرح قیامت کے آنے پر ہمارا ایمان ہے اور اس کا وقت معلوم نہیں (الصائم الربانی ملتفتاً)

## تین خسف ہوں گے

یعنی آدمی زمین میں دھنس جائیں گے جیسے کوئی پانی میں غرق ہو جائے۔ ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں لہو تیسرا جزیرۃ العرب میں، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مابین ”البیداء“ میں۔ حدیث مرفوعہ میں ہے کہ اہل مکہ ایک خلیفہ راشد کے ہاتھوں پر اسلام کے لئے بیعت کریں گے تو ان پر ایک لشکر، جانب شام سے حملہ آور ہوگا وہ ابھی ”البیداء“ پر ہی ہوگا کہ زمین دھنس جائے گی اور وہ سب لشکر اسی سرزمین پر فنا ہو جائے گا۔

## دھواں ظاہر ہوگا

جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا۔ مشرق سے مغرب تک تمام دنیا تاریک ہو جائے گی۔ یہ کیفیت چالیس روز رہے گا۔ یہ ایام مسلمانوں پر ایسے گزریں گے جیسے کسی روز کا سورج ہو

جائے اور آواز بیٹھ جائے اور کافروں پر ایک قسم کی بے ہوشی اور مستی سے طاری رہے گی۔

## دَابَّةُ الْأَرْضِ كَانُكَلْبًا

دَابَّةُ الْأَرْضِ، یہ ایک عجیب شکل کا چوپایہ ہوگا جو کوہ صفا سے برآمد ہو کر، تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا اور ایسی تیزی سے دورہ کرے گا کہ کوئی اسے پانہ سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے بچ نہ سکے گا۔ وضاحت کے ساتھ کلام کرے گا اور بزبان فصیح کہیگا۔ هَذَا الْوَعْدُ (یہ صاحب ایمان) وَ هَذَا الْكَافِرُ (یہ کافر ہے) اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی خط کھینچے گا جس سے تمام چہرہ نورانی ہو جائے گا۔ اور انگشتری سے ہر کافر کی پیشانی پر سیاہ مہر لگائے گا۔ جس سے اس کا چہرہ سیاہ بے رونق ہو جائے گا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر علانیہ ظاہر ہوں گے۔ یہ علامت کبھی نہ بدے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم رہے گا۔

**تشریح:**۔ قرب قیامت، بہت سی عجیب و غریب چیزوں کا ظہور صحیح احادیث کریمہ سے ثابت ہے اور ایسی عجیب و غریب چیزوں کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنے ظہور سے قبل سمجھ میں نہیں آتیں۔ ریل، مار ٹیلیفون، ریڈیو، واٹر لیس وغیرہ تمام مادی ایجادیں ایسی ہیں جو پہلے سمجھ ہی میں نہیں آتی تھیں اور جب ظہور میں آگئیں اور انسانی احساس و شعور نے انہیں پایا تو سمجھ میں بھی آگئیں۔ دَابَّةُ الْأَرْضِ کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ الْآیۃ اور احادیث بیان فرماتی ہیں کہ اس کا ظہور انتہائی قرب قیامت کی علامات میں سے ہے یعنی اس کا ظہور بالکل آخر میں ہوگا اور الفاظ قرآنی بھی اسی معنی پر رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ آخر ترین علامت اگر عجیب ترین بھی ہو تو اس میں عجب کیا ہے۔

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزٍ۔

اور آیت کریمہ میں مِّنَ الْأَرْضِ کا لفظ بہت قابل غور ہے۔ اس سے ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ اس حیوان کی پیدائش، عام حیوانات کی طرح بہ طریق توالد و تناسل نہ ہوگی بلکہ یہ از خود ہو جائے گا۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کے دوسرے روز، لوگ اسی کا چرچا کرتے ہوں گے کہ کوہ صفا لرزلہ سے پھٹ جلتے گا اور یہ جانور نکلے گا۔ پہلے یمن میں، پھر نجد

میں ظاہر ہو کر غائب ہو جائے گا اور تیسری بار مکہ معظمہ میں کوہ صفا سے ظاہر ہوگا۔

مسلم شریف میں ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آتے گا۔ ان میں سے جو نشانی بھی پہلے ہو وہ بہر حال دوسری سے قریب ہی ظاہر ہوگی۔ اور دوسری روایات میں ہے کہ قیامت کے قریب زمانے میں دجال کا خروج۔ دابة الارض کا ظہور، دخان، اور آفتاب کا مغرب سے طلوع، وہ نشانیاں ہیں جو یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی۔

رہا کسی جانور کا انسانوں سے، انسانی زبان میں کلام کرنا تو یہ بھی خدائے قدیر کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے نطق و گویائی کی طاقت بخش سکتا ہے۔ قیامت سے پہلے تو دابة الارض ہی کا بزبان فصیح گویا ہونا، اور کلام کرنا منقول ہے مگر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ جل جلالہ کی عدالت میں خود انسانی اعضاء، گویا ہو کر، اس کی بدکاری کے گواہ ہوں گے۔ جس پر قرآن گواہ ہے۔

## آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا

روزانہ آفتاب، بارگاہِ الہی میں سجدہ کر کے اِذِنِ طُلُوعِ چاہتا ہے جب طلوع ہوتا ہے قرب قیامت جب حسب معمول، طلوع کی اجازت چاہے گا تو اجازت نہ ملے گی اور حکم ہوگا کہ واپس جا۔ وہ واپس ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ماہ ذی الحجہ میں یوم نحر کے بعد رات اس قدر طویل ہو جائے گی کہ بچے چلا اٹھیں گے۔ مسافر تنگدل اور مویشی چراگاہ کے لئے بے قرار ہوں گے۔ یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے نالہ و زاری کریں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے۔ آخر تین چار رات کی مقدار، دراز ہونے کے بعد، اضطراب کی حالت میں، آفتاب مغرب سے، چاند گرہن کی مانند، آب و تاب اور تیز روشنی سے محروم، تھوڑی روشنی کے ساتھ نکلے گا اور نصف آسمان تک آکر لوٹ جائے گا اور جانب مغرب غروب ہوگا۔ اس کے بعد بدستور سابق، مشرق سے طلوع کیا کرے گا۔

**تشریح:** قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يٰٓاْتِيٰ دُبُّكَ اَوْ يٰٓاْتِيٰ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ الْاٰیة - (توحید و رسالت اور بعث پر ایمان نہ لانے والے) کا ہے کے انتظار میں ہیں۔ مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے (ان کی ارواح قبض کرنے کے لئے) یا تمہارے رب کا عذاب یا تمہارے رب کی ایک نشانی آئے (قیامت کی نشانیوں میں ہے)



جس دن تمہارے رب کی وہ نشانی آئے گی، کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا، جو پہلے ایمان نہ لائی تھی یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی۔

جمہور مفسرین کے نزدیک "رب کی اس نشانی" سے آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا مراد ہے۔  
 ترمذی کی حدیث میں بھی ایسا ہی وارد ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہ کرے۔ اور جب وہ مغرب سے طلوع کرے گا اور اسے لوگ دیکھیں گے تو سب ایمان لائیں گے اور یہ ایمان نفع نہ دے گا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قیامت کی ہولناک علامتوں کے مشاہدے سے، عالم غیب شروع ہو گیا تو ایمان اختیاری اب باقی ہی کہاں رہا۔ یہ تو ایمان اضطراری ہوا اور ایمان اضطراری معتبر نہیں۔ جیسا کہ نزع و سکرات کے موت، فرشتوں کو دیکھ کر ایمان کا دم بھرنا کہ شرعاً مقبول و معتبر نہیں تو آفتاب کا مغرب سے طلوع کرنا بھی انہیں نشانیوں میں سے ہے جنہیں دیکھ لینے کے بعد اگر کوئی کافر اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے تو اس کا ایمان لانا بے معنی ہے۔ اس لئے کہ ایمان کی قدر و قیمت اور اس کا اعتبار و قبول تو اسی وقت تک ہے جب تک حقیقت پردے میں ہے۔ مہلت کی رسی دراز نظر آرہی ہے اور دنیا اپنی تمام تر آرائشوں آسائشوں اور متاع غرور کے ساتھ آنکھ میں بس رہی ہے اور جب پردے اٹھ جائیں گے اور غیب، شہادت میں بدل جائے گا تو ایمان بالغیب کہاں رہا۔

## تنبیہ جلیل

مغرب سے طلوع آفتاب کو، ہیئت و فلکیات کے کسی قاعدے کے ماتحت محال قرار دینا بجائے خود ایک جہالت ہے۔ ہیئت و فلکیات کے تو جتنے بھی قوانین ہیں، سب موجودہ نظام تکوینی ہی کے ماتحت ہیں۔ لیکن جب خودیہ نظام ہی شکست کھا جائے گا تو اس کے کسی مخصوص جزئیہ کے باقی رہ جانے پر اصرار سراسر بے معنی ہے (ماخوذ)

## (۹) توبہ کا دروازہ بند ہونا

آفتاب کے مغرب سے طلوع ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کسی کافر کا اسلام لانا

اور کسی نافرمان و بدکار کو اپنی نافرمانیوں اور بدکاریوں سے باز آکر، اطاعت گزار بن جانا بارگاہ الہی میں مقبول نہ ہوگا۔ جیسا کہ ابھی گذرا۔

## (۱۰) آگ کا نمودار ہونا

ان تمام علامات کے وقوع میں آجانے کے بعد، یمن کی طرف سے ایک آگ نمودار ہوگی جو لوگوں کو سمیٹ کر، سرزمین شام کی طرف ہانکتی نے جائے گی۔ جب شام کے وقت لوگ ٹھہر جایا کریں گے۔ یہ بھی ٹھہر جایا کرے گی اور جب آفتاب بلند ہوگا یہ آگ پھر ان کے پیچھے پیچھے چلے گی یہاں تک کہ لوگ جب میدان حشر میں پہنچ جائیں گے یہ غائب ہو جائے گی۔

اور اب حشر و نشر کا سلسلہ قائم ہوگا۔

اللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ كُلِّ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ الْجَمِيلِ آمِينَ

# عالم آخرت کے کچھ تفصیلی اشارے

## (۱) قیام قیامت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات شریفین کے بعد جب قیام قیامت کو صرت چالیس رہ جائیں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغل کے نیچے سے نکلیں گی جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اگرچہ وہ کسی پہاڑ کی گھاٹی میں موجود ہو۔ یہاں تک کہ کوئی اہل ایمان اہل خیر سے روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ کافر ہی کافر رہ جائیں گے جو فسق و فجور اور نفسانی خواہشات کی تکمیل میں بڑے بڑے تیز رو، اور ظلم و خون ریزی میں درندوں کے مانند ہوں گے۔ ان کی نگاہوں میں نہ نیکی نیکی ہوگی نہ برائی برائی۔ کفار حبشہ کا غلبہ ہوگا اور انہیں کی حکومت، انہیں کا قبضہ حتیٰ کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھادیں گے۔ خدا ترسی اور حیا و شرم اٹھ جائے گی۔ حکام کا ظلم رعیت پر، اور رعایا کے ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی۔ عوام و خواص میں باغواستے شیطان بت پرستی عام ہو جائے گی۔ قحط و وبا کا ظہور ہوگا۔ اس وقت ملک شام میں کچھ ارزانی و امن ہوگا۔ دیگر ممالک کے لوگ اہل و عیال سمیت شام کو روانہ ہوں گے۔ اسی اثناء میں ایک بڑی آگ جنوب سے نمودار ہوگی۔ وہ ان کا تعاقب کرے گی یہاں تک کہ وہ شام میں پہنچ جائیں گے اور وہ آگ غائب ہو جائے گی۔

یہ چالیس سال کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی یعنی چالیس سال سے کم کا کوئی نہ ہوگا۔ دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کوئی اپنی دیوار لیتا ہوگا کوئی کھانا کھاتا ہوگا۔ غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعۃً جمعہ کے روز جو یوم عاشوراء بھی ہوگا۔ اسرافیل علیہ السلام کو صور بھونکنے کا حکم ہوگا اور کافروں پر قیامت ہوگی۔

## ایک عجوبہ

### امام الوہابیہ کا اقراری کفر

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے ایک حدیث میں ختم دنیا کا حال

ارشاد فرمایا ہے کہ زمانہ فنا نہ ہو گا جب تک لات و عزی (دو بڑے بتوں) کی پھر پرستش نہ ہو اور وہ یوں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھالے گی۔ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو گا وہ اٹھالیا جائے گا۔ جب زمین میں نرے کافرہ جائیں گے پھر بتوں کی پوجا بدستور شروع ہو جائے گی۔ تفتویۃ الایمان مطبع فاروقی دہلی ۱۹۳۳ء صفحہ ۴۴ پر یہ حدیث نقل کی اور خود اس کا ترجمہ کیا کہ ”پھر بھیجے گا اللہ ایک باڈا اچھی، سو جان نکال لے گی جس کے دل میں ہوگا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان۔ سورہ جائیں گے وہی لوگ کہ جن میں کچھ بھلائی نہیں۔ سو پھر جائیں گے اپنے باپ دادوں کے دین پر۔“ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی صراحتاً ارشاد فرمادیا تھا کہ وہ ہوا، خروج دجال لعین و نزول عیسیٰ مسیح علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے بعد آئے گی۔ تفتویۃ الایمان میں حدیث کے یہ لفظ بھی خود نقل کئے اور اس کا ترجمہ کیا صفحہ ۴۵۔ ”نکلے گا دجال، سو بھیجے گا اللہ، عیسیٰ بیٹے مریم کو۔ سو وہ ڈھونڈیگا اس کو۔ تباہ کر دے گا اس کو۔ پھر بھیجے گا اللہ ایک باؤ ٹھنڈی، شام کی طرف سے۔ سو نہ باقی رہے گا زمین پر کوئی۔ کہ اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو مگر کہ مار ڈالے گی اسکو بایں ہمہ حدیث مذکور لکھ کر اسی صفحہ پر صاف لکھ دیا ”سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا۔“

اب نہ خروج دجال کی حاجت رہی۔ نہ نزول مسیح کی ضرورت۔ بلکہ ان کے نصیبوں کے لئے وہ ہوا بھی چل گئی۔ تمام مسلمانوں کو کافر مشرک بنانے کے لئے ختم دنیا کی حدیث، صاف صاف اپنے زمانہ موجودہ پر جمادی اور کچھ پرواہ نہ کی کہ جب یہ وہی زمانہ ہے جس کی اس حدیث نے خبر دی اور وہ ہوا چل چکی اور جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان تھا مگر گیا۔ اب تمام دنیا میں نرے کافر ہی کافر رہ گئے ہیں تو یہ شخص خود اور اس کے سارے پیرو، کیا دنیا کے پروے سے کہیں الگ بستے ہیں۔ تو یہ خود اپنے اقرار سے ٹھیٹ کافر پکے بت پرست ہیں۔ اور یہ خود ان کا اقرار ہی کفر تھا اور ہے کہ جو اپنے کفر و الحاد کا اقرار کرے وہ کافر ہے اگرچہ کہے کہ میں نہ جانتا تھا۔ (الکوئبۃ الشہابیہ)

## (۲) نفخہ اولیٰ

قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ آيَةً  
”اور راہ نہیں دیکھتے (منکرین قیامت) مگر ایک چیخ کی، کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں

پھنسے ہوں گے۔ تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں (قیامت فرست دہلت نہ دے گی)۔

آیہ کریمہ میں قیامت کے فوری اور ناگہانی وقوع اور اس کی ہولناکیوں کا بیان ہے۔ اور مراد صِبْحَةَ وَآجْدَاةً (ایک صبح) سے، صور کا نغمہ، اولیٰ (پہلی بار پھونکنا) ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ لوگ خرید و فروخت میں، کھانے پینے میں، اور بازاروں مجلسوں میں، دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوں گے پورے اطمینان کے ساتھ اپنی دنیا کے کاروبار چلا رہے ہوں گے اور ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ دنیا کے خاتمے کی گھڑی آ رہی ہے۔ اسکا حالت میں اچانک ایک زور کا کڑا اکا ہوگا اور جو جہاں تھا وہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ یہاں تک کہ لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانے کی بھی ہمت نہ ملے گی۔

حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”خریدار اور بائع کے درمیان کپڑا پھیلا ہوگا۔ نہ سودا تمام ہونے پلے گا نہ کپڑا لپیٹ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی یعنی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور وہ کام ویسے ہی ناتمام رہ جائیں گے۔ نہ انہیں خود پورا کر سکیں گے نہ کسی دوسرے سے پورا کرنے کو کہہ سکیں گے اور جو گھر سے باہر گئے ہوں گے وہ واپس نہ آ سکیں گے وہیں مر جائیں گے اور قیامت فرست دہلت نہ دے گی۔“

حدیث شریف میں ہے کہ اسرافیل، صور پر منہ رکھے، عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور گوش برآواز منتظر ہیں کہ کب نغمہ صور (صور میں پھونک مارنے) کا حکم ہوتا ہے۔“

عقیدہ :- اسی حالت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام بحکم الہی صور پھونکیں گے۔ شروع شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت تیز اور بلند ہوتی جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، آسمان زمین سپاڑ۔ سارا عالم کائنات جو اس وقت تک آباد ہوگا صور کی پہلی آواز پر یوں ہلاک و برباد ہونا شروع ہوگا کہ بڑی سے بڑی مضبوط و مستحکم موجودات درہم برہم اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی یہاں تک کہ صور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا وہ فرمائے گا لَمِنَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ آج اس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں جبارین؟ کہاں ہیں متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب

وے پھر خود ہی فرمائے گا **لِلّٰهِ الْوَاٰحِدِ الْقَهَّارِ** صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔

**تشریح :-** جمہور اہلسنت کا مسلک یہ ہے کہ ملائکہ اجسام لطیفہ ہیں جن سے نفوس شریفہ متعلق ہیں اور احادیثِ کریمہ سے ثابت کہ بے شمار فرشتے جو روزانہ بنتے ہیں قیامت تک زندہ رہیں گے اور اصلاً کسی حدیث سے یہ ثابت نہ ہو کہ کسی فرشتے کو موت لاحق ہوئی ہو۔ یہ لوہیں ملائکہ مقررین کا روز قیامت تک زندہ رہنا معلوم و ثابت ہے بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے صاف ظاہر ہے کہ آیہ کریمہ **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ** کے نزول تک فرشتے اپنی موت سے خبردار ہی نہ تھے کہ ہمیں بھی موت ہوگی۔ لہذا ظاہر یہی ہے کہ ملائکہ کے لئے قیامت سے پہلے موت نہیں۔

ہمارے روز قیامت ان کی موت کا حال۔ تو بیہقی و فریبی نے بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں تفصیلاً ان کی کیفیتِ موت روایت کی ہے کہ جب سب فنا ہو جائیں گے (اور ملک الموت مسلمانوں اور فرشتوں کی روحمیں قبض کر لیں گے اور) جبرائیل و میکائیل و ملک الموت باقی رہ جائیں گے رب تبارک و تعالیٰ کہ دانا تر ہے ارشاد فرمائے گا "اے ملک الموت! اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے "باقی ہے تیرا وجہ کریم کہ ہمیشہ رہے گا اور تیرے بندے جبرائیل و میکائیل و ملک الموت" حکم ہوگا "میکائیل کی روح قبض کر" وہ عظیم پہاڑ کی طرح گریں گے۔ پھر فرمائے گا اور وہ خوب جانتا ہے "اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے "تیرا وجہ کریم کہ ہمیشہ رہے گا۔ اور تیرے بندے جبرائیل و ملک الموت" فرمائے گا "جبرائیل کی روح قبض کر" وہ اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہوئے سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر فرمائے گا اور وہ خوب جانتا ہے "اب کون رہا؟ عرض کریں گے "تیرا وجہ کریم کہ ہمیشہ رہے گا اور تیرا بندہ ملک الموت کہ وہ بھی مرے گا" فرمائے گا "مُتٌ۔ مرجاً۔ وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر فرمائے گا ابتداء میں میں نے خلق بنائے اور میں پھر اسے زندہ کروں گا۔ کہاں ہیں سلاطین مغرور؟ جو ملک کا دعویٰ کرتے تھے۔ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا خود فرمائے گا **لِلّٰهِ الْوَاٰحِدِ الْقَهَّارِ**۔ آج بادشاہی ہے اللہ غالب کی۔ اور یہ جو کہا گیا کہ صور کی آواز جب دمبدم بلند ہوگی تو لوگ اسے سن کر بے ہوش ہو جائیں گے اور جیسا کہ خود قرآن عظیم میں فرمایا گیا **فَصَبِّحْ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ**۔

(اور صور پھونکا جانے کا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں) تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس نغمہ اولیٰ سے جو بے ہوشی طاری ہوگی اس کا یہ اثر ہوگا کہ ملائکہ اور زمین والوں میں سے اس وقت تک جو لوگ زندہ ہوں گے جن پر موت نہ آئی ہوگی وہ اس سے مر جائیں گے اور جن پر موت وارد ہو چکی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات عنایت کی اور وہ اپنی اپنے قبروں میں زندہ ہیں جیسے کہ انبیاء و شہداء، ان پر اس نغمہ سے بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوگی۔ اور جو لوگ قبروں میں پڑے ہیں انہیں اس نغمہ کا شعور بھی نہ ہوگا (خزائن العرفان)

### (۳) نغمہ ثانیہ

عقیدہ ۵: ساری کائنات کے فنا ہو جانے کے بعد، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرائیل کو زندہ فرمائے گا اور صور کو پیدا کرے، دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ صور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، ملائکہ، انس و جن و حیوانات موجود ہو جائیں گے۔

تشریح ۱: اول حاملان عرش، پھر جبرئیل، پھر میکائیل پھر عزرائیل علیہم السلام جی اٹھیں گے پھر ازسرنو، زمین، آسمان اور چاند سورج موجود ہو جائیں گے۔ پھر ایک مینبر سے گا جس سے سبزہ کے مثل، زمین کا ہر ذی روح، جسم کے ساتھ زندہ ہوگا۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر سے یوں برآمد ہوں گے کہ آپ کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور ان دونوں حضرات علیہ کے دائیں بائیں ابوبکر و عمر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہما اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پھر مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔

عقیدہ ۶: قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے، ننگے بدن ننگے پاؤں اور ناختہ شدہ اٹھیں گے۔ کوئی پیدل کوئی سوار۔ اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے۔ اور کسی سواری پر دو۔ کسی پر تین۔ کسی پر چار اور کسی پر دس ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر، ملک شام کی زمین

پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارہ پر رائی کا دانا گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب ایک میل کے فاصلہ پر ہوگا۔ راوی حدیث نے فرمایا "معلوم نہیں میل سے مراد سیرمہ کی سلائی ہے یا میل مسافت" اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے۔

سورج اب چاہنزار برس کی راہ کے فاصلہ پر ہے اور اس طرف اس کی پیٹھ ہے پھر بھی جب سر کے مقابل آجاتا ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس وقت کہ ایک میل کے فاصلہ پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف کو ہوگا تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا۔ اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھڑ میں، زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت جب زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا اس کی تپش کون بیان کر سکے۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ بھیجے کھولتے ہوں گے پیاس کی وہ شدت ہوگی کہ خدا نہ دکھائے۔ گرمی وہ قیامت کی کہ اللہ بچائے بانسوں پسینہ زمین میں جذب ہو کر اوپر چڑھے گا یہاں تک کہ گلے گلے سے بھی اونچا ہوگا۔ جہاز چھوڑیں تو بہنے لگیں۔ لوگ اس میں غوطے کھائیں گے گھبرا گھبرا کر دل حلق میں آجائیں گے اور زبانی پیاس سے باہر نکل آئیں گی۔

پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائی سے بھائی بھاگے گا۔ ماں باپ اولاد سے بیچھا چھڑائیں گے۔ بی بی بچے الگ جان چرائیں گے۔ ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار۔ کون کس کا مددگار ہوگا۔ لوگ انبیائے کرام کے پاس حاضر ہوں گے لیکن جبار آری نہ ہوگی اور آخر میں دستگیر بکیساں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیاز مندوں اور امیدواروں کے شفاعت فرمائیں گے۔

### خلاصہ احادیث شفاعت

روز قیامت اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو ایک میدان وسیع و ہموار میں جمع کرے گا کہ سب دیکھنے والے کے پیش نظر ہوں اور پکارنے والے کی آواز سنیں۔ دن طویل ہوگا اور آفتاب کو اس روز، دس برس کی گرمی دیں گے۔ پھر لوگوں کے سروں سے نزدیک کریں گے۔ یہاں تک کہ بقدر دوکانوں کے فرق رہ جائے گا۔ پسینے آنے شروع ہوں گے۔ قد آدم پسینہ تو زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر



اوپر چڑھنا شروع ہو گا یاں تک کہ آدمی غوطے کھانے لگیں گے اور غرٹپ غرٹپ کریں گے جیسے کوئی ڈبکیاں لیتا ہے۔ قرب آفتاب سے غم و کرب اس درجہ کو پہنچے گا کہ طاقت طاق ہوگی۔ تاب تحمل باقی نہ رہے گی۔ رہ رہ کر گھبراہٹیں لوگوں کو اٹھیں گی۔ آپس میں کہیں گے دیکھتے نہیں تم کس آفت میں ہو۔ کس حال کو پہنچے کوئی ایسا کیوں نہیں ڈھونڈتے جو رب کے پاس شفاعت کرے کہ ہمیں اس مکان سے نجات دے۔

پھر خود ہی تجویز کریں گے کہ آدم علیہ السلام ہمارے ماں باپ ہیں ان کے پاس چلنا چلہیے پس آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور پسینہ کی وہی حالت ہے کہ منہ میں لگام کی طرح ہو اچاہتا ہے۔ عرض کریں گے "اے باپ ہمارے! اے آدم! آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دست قدرت سے بنایا اور اپنی روح آپ میں ڈالی اور اپنے ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور اپنی جنت میں آپ کو رکھا۔ اور سب چیزوں کے نام آپ کو سکھائے اور آپ کو اپنا صغی کیا آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں اس مکان سے نجات دے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس آفت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے؟"

آدم علیہ السلام فرمائیں گے "میں اس قابل نہیں" مجھے آج اپنی جان کے سوا کسی کی فکر نہیں۔ آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ نہ ایسا پہلے کبھی کیا نہ آئندہ کبھی کرے۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ مجھے اپنی جان کا خوف ہے تم اور کسی کے پاس جاؤ۔" عرض کریں گے پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے "اپنے پدر ثانی نوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا۔ وہ خدا کے شاگردے ہیں۔"

لوگ نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے "اے نوح! اے نبی اللہ! آپ اہل زمین کی طرف پہلے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کا نام "عبد شکور" رکھا۔ اور آپ کو برگزیدہ کیا اور آپ کی دعا قبول فرمائی کہ زمین پر کسی کافر کا نشان نہ رکھا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس بلا میں ہیں آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال کو پہنچے۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیوں نہیں کرتے کہ ہمارا فیصلہ کر دے؟"

نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے "میں اس قابل نہیں۔ یہ کام مجھ سے نہ نکلے گا۔ آج مجھے

اپنی جان کے سوا کسی کی فکر نہیں۔" میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا ہے جو نہ اس سے پہلے کیا اور نہ اس کے بعد کرے۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ مجھے اپنی جان کا کھٹکا ہے۔ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ۔" عرض کریں گے "پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں۔ فرمائیں گے خلیل الرحمن ابراہیم کے پاس جاؤ کہ اللہ نے انہیں اپنا دوست کیا ہے۔" لوگ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس حاضر ہوں گے۔ عرض کریں گے "اے خلیل الرحمن! اے ابراہیم! آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں اس کے خلیل ہیں۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ ہمارا فیصلہ کر دے آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال کو پہنچے۔"

ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے "میں اس قابل نہیں۔ یہ کام میرے کرنے کا نہیں آج مجھے بس اپنی جان کا تردد ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ۔" عرض کریں گے "پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں۔" فرمائیں گے "تم موسیٰ کے پاس جاؤ وہ بندہ جسے خدا نے توراہ دی اور اس سے کلام فرمایا۔ اور اپنا راز دار بنا کر قرب بخشا اور اپنی رسالت دے کر برگزیدہ کیا۔"

لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کریں گے۔ اے موسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے لوگوں پر فضیلت بخشی۔ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال کو پہنچے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس صدمہ میں ہے۔" موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے "میں اس لائق نہیں۔ یہ کام مجھ سے نہ ہوگا۔ مجھے آج اپنے سوا دوسرے کی فکر نہیں میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا کبھی نہ کیا تھا اور نہ کبھی کرے۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ مجھے اپنی جان کا خیال ہے۔ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ۔" عرض کریں گے "پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں۔" فرمائیں گے "تم عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول۔ اور اس کے کلمہ۔ اور اس کی روح کہ مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتے اور مردے جلاتے تھے۔"

لوگ مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کریں گے "اے عیسیٰ! آپ اللہ کے رسول اور اس کے وہ کلمہ ہیں کہ اس نے مریم کی طرف القا فرمایا۔ اور اس کی طرف کی روح ہیں۔ آپ نے گہوارے میں لوگوں سے کلام کیا۔ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ

فرما رہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس اندوہ میں ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال کو پہنچے۔" مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے: "میں اس لائق نہیں۔ یہ کام مجھ سے نہ نکلے گا۔ آج مجھے اپنی جان کے سوا کسی کا غم نہیں۔ میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا ہے کہ نہ کبھی ایسا کیا نہ کرے۔ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ مجھے اپنی جان کا غم ہے۔ مجھے اپنی جان کا سوچ ہے۔ تم اور کسی کے پاس جاؤ۔"

عرض کریں گے "پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے: "تم اس بندے کے پاس جاؤ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح رکھی ہے۔ اور آج کے دن بے خوف و مطمئن ہے۔ اس کی طرف چلو جو تمام بنی آدم کا سردار اور سب سے پہلے زمین سے باہر تشریف لانے والا ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ بھلا کسی سر بھر طرف میں کوئی متاع ہو۔ اس کے اندر کی چیز بے مہراٹھائے مل سکتی ہے؟ لوگ عرض کریں گے: "نہ" فرمائیں گے: "اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے خاتم ہیں (تو جب تک وہ فتح باب نہ فرمائیں گے باب شفاعت نہ کھولیں گے کوئی نبی کچھ نہیں کر سکتا) اور آج وہ یہاں تشریف فرما ہیں تم انہیں کے پاس جاؤ چاہیے کہ وہ تمہارے رب کے حضور، تمہاری شفاعت کریں۔ صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔"

اب وہ وقت آیا کہ لوگ تھکے ہارے مصیبت کے مارے۔ ہاتھ پاؤں چھوڑے چار طرف سے اغیسیں توڑے، بارگاہ عرش جاہ، بیکس پناہ، خاتم دورہ رسالت فاتح باب شفاعت، محبوب باوجہات مطلوب بلند عزت، بلجاء عاجزاں، ماوائی بیکساں، مولائے دو جہاں، حضور پر نور محمد رسول اللہ، شفیع یوم النشور، افضل صلوات اللہ واکمل تسلیمات اللہ واذکی تحیات اللہ وانفی برکات اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وعلیٰہم۔ میں حاضر آئے۔ اور باہزاراں ہزار، ناہلتے زار، و دل بیقرار، وحشیم اشکبار یوں عرض کرتے ہیں:-

"اے خدا! اے اللہ کے نبی! آپ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتح باب کیا، اور آج آپ آمن و مطمئن تشریف لاتے حضور اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے کہ ہمارا فیصلہ فرمادے حضور نگاہ تو کریں ہم کس درد میں ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اِنَّكُمْ دَنَا صَاحِبُكُمْ میں شفاعت کے لئے ہوں۔ میں تمہارا وہ مطالبہ ہوں جسے تمام موقف میں ڈھونڈتے پھرے۔ (تجلی ایقین)

حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اذن چاہوں گا اور مجھے حضور صلی کی اجازت ملے گی جب میں اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گا سجدہ میں گر جاؤں گا اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اسی حال میں رہوں گا۔ پھر فرمائے گا۔

يَا مُحَمَّدُ اَرْفَعُ رَاسَكَ وَقُلْ سَمِعَ وَاسْتَفْعُ تَشْفَعُ

”اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور کہئے آپ کی بات سنی جائے گی۔ اور سوال کیجئے جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی،“ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم ”پھر میں اپنے رب کی ان محامد کے ساتھ حمد کروں گا جو اس نے مجھے تعلیم فرمائی۔ پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لئے حد مقرر کی جائے گی۔ پس میں ان لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر میں رجوع کروں گا اور جب مجھے میرے رب کا دیدار ہو گا سجدہ میں گر جاؤں گا اور جب تک وہ چاہے گا سجدہ میں رہوں گا۔ پھر کہا جائے گا ”اے محمد سر اٹھائیے جو فرمانا ہو فرمائیے سنا جائے گا جو مانگنا ہو مانگیے دیا جائے گا۔ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔“ پھر میں اپنے رب کی ان محامد کے ساتھ حمد کروں گا جو میرے رب نے مجھے تعلیم فرماتے۔ پھر میں شفاعت کروں گا۔ میرے لئے ایک حد مقرر فرمائی جائے گی۔ پس میں ان کو جنت میں داخل کروں گا پھر رجوع فرماؤں گا۔ پھر جب مجھے اپنے رب کا دیدار ہو گا سجدہ میں گر جاؤں گا اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا سجدہ میں رہوں گا۔ پھر فرمایا جائے گا ”اے محمد سر اٹھائیے جو کہنا ہو کہئے سنا جائے گا۔ شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ مانگیئے جو آپ مانگیں گے دیا جائے گا۔“

پھر میں اپنے رب کی ان محامد کے ساتھ حمد کروں گا جو اس نے مجھے تعلیم فرمائی۔ پھر میں شفاعت کروں گا۔ پھر میرے لئے حد مقرر کی جائے گی۔ پھر میں لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر اپنے رب کی طرف رجوع کر کے عرض کروں گا ”یا رب دوزخ میں سوائے ان کفار کے کوئی باقی نہ رہا جو بحکم قرآن جہنمی ہیں اور جن کا خلود یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنا واجب ہے۔“

حضور نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو برابر بھی نیکی ہے وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ پھر وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس

کے دل میں دانہ گندم کی برابر بھلائی ہو۔ پھر وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ کی برابر بھلائی ہو یعنی ایمان۔ (بخاری شریف وغیرہ)

احادیث شفاعت کے راوی بیسیوں صحابہ صدباتا بعین۔ ہزار ہا محدثین ہیں اور احادیث کی ہر گونہ کتابیں ان سے مالا مال۔ اہلسنت کا ہر متنفس یہاں تک کہ عورتیں بچے بلکہ دیہقان جہلا بھی اس عقیدے سے آگاہ اور خدا کا دیدار، محمد کی شفاعت ایک ایک بچے کی زبان پر جاری ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبارک وشرق و مجد و کرم۔ اب بھی اگر کوئی بد بخت کلمہ پڑھ کر انہیں شفیع المذنبین نہ مانے، اور ان سے شفاعت نہ چاہے اسے بد بختی کی آگ میں جلنا مبارک۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے آمین برحمتک یا رحم الراحمین۔

## چند لطیف اشارے

(۱) حق جل و علا کی یہ حکمت جلیلہ مسلمان بنگاہ ایمان دیکھے اور خیال کرے کہ کیونکر اہل محشر کے دلوں میں، ترتیب دار انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں جانا الہام فرمائے گا اور دفعۃً بارگاہ اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہ لائے گا کہ حضور تو یقیناً شفیع مشفع ہیں ابتداءً یہیں آتے تو شفاعت تو پاتے مگر اولین و آخرین، موافقین و مخالفین، خلق اللہ اجمعین پر کیونکر کھلنا کہ یہ منصب انعم، اسی سید اکرم، مولائے اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ خاصہ ہے جس کا دامن رفیع، جلیل و منیع، تمام انبیاء و مرسلین کے دست ہمت سے بلند و بالا ہے اور شفاعت اسی سرکار کا خاصہ ہے دوسرے کی مجال نہیں کہ اس کا دروازہ کھول سکے واللہ رب العالمین۔

(۲) پھر خیال کیجئے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں کان، اس حدیث سے آشنا، اور بے شمار بندے اس حال کے شناسا، عرصات محشر میں صحابہ و تابعین و ائمہ محدثین و اولیائے کاملین و علمائے عالمین سبھی موجود ہوں گے۔ پھر کیونکر یہ جان پہچانی بات، دلوں سے ایسی بھلائی جائے گی کہ اتنی کثیر جماعتوں میں ان طویل مدتوں تک، کسی کو اصلایا دنہ آئے گی۔

(۳) پھر نوبت بہ نوبت حضرات انبیاء سے جواب سنتے جائیں گے جب بھی مطلق دھیان نہ آئے گا کہ یہ وہی واقعہ ہے جو سچے مخبر نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔

(۴) پھر حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دیکھئے وہ بھی یکے بعد دیگرے انبیائے مابعد کے پاس بھیجتے جائیں گے یہ کوئی نہ فرمائے گا کہ کیوں بیکار ہلاک ہوتے ہو تمہارا مطلوب اس پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ سارے سامان اسی انہار عظمت و اشتہار و جاہلیت محبوب باشرکت کی خاطر ہیں۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا صلی اللہ علیہ وسلم وبارک و شرف و کرم

(۵) سوال شفاعت پر حضرات انبیاء کے جواب اور ہمارے حضور کا مبارک ارشاد، ملا دیکھئے، ہمیں مقام محمود کا مزا آتا اور ابھی کا لشمس کھلا جاتا ہے کہ سب نجوم رسالت و مصابیح نبوت میں افضل و اعلیٰ واجل و اجل و اعظم و اولیٰ و بلند و بالا، وہی عرب کا سورج، حرم کا چاند ہے جس کے نور کے حضور ہر روشنی ماند ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبارک و شرف و مجد و کرم۔

(۶) اور انبیائے خمسہ کی وجہ تخصیص ظاہر کہ حضرت آدم اول انبیاء و پیر انبیاء ہیں اور مرسلین اربعہ اولوا العزم مرسل اور سب انبیائے سابقین سے اعلیٰ و افضل، تو ان پر تفضیل سب پر تفضیل والحمد للہ الملک الجلیل۔

## (۲) مقام محمود

حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں "میں شفیع مقرر کر دیا گیا اور شفاعت خاص مجھی کو عطا ہوگی۔ میرے سوا کسی کو یہ منصب نہ ملا" اور ابھی آپ سن چکے پڑھ چکے کہ جب تک حضور فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی۔ علمائے کرام فرماتے ہیں بلکہ حقیقۃً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور کے دربار میں شفاعت لائیں گے اور اللہ عزوجل کے حضور مخلوق میں صرف حضور شفیع ہیں (اشعۃ اللہات) اور یہی شفاعت کبریٰ ہے۔ اور یہ شفاعت کبریٰ مومن کافر مطیع عاصی، سب کے لئے ہے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جانگزا ہوگا جس کے لئے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے۔ اس بلا سے چھٹکارا۔ کفار کو بھی حضور کی بدولت ملے گا۔ جس پر اولین و آخرین، موافقین و مخالفین، مومنین و کافرین، سب حضور کی حمد کریں گے۔ اسی کا نام مقام محمود ہے۔ جہاں تمام اولین و آخرین میں حضور کی تعریف و حمد و ثنا کا غلغلہ پڑ جائے گا اور موافق مخالف سب پر کھل جانے گا کہ بارگاہ الہی میں جو جہت

ہمارے آقا کی ہے کسی کی نہیں۔ اور ملک عظیم جل جلالہ کے یہاں جو عظمت ہمارے مولیٰ کے لئے ہے کسی کے لئے نہیں۔ قرآن کریم گولہ ہے کہ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْشُوًّا ۱۔ قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود میں بھیجے۔ اور احادیث کریمہ سے ثابت کہ مقام محمود یہی مرتبہ شفاعت کبریٰ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کئی قسم پر ہے مثلاً (۱) شفاعت کبریٰ۔

(۲) بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے جن میں ستر ہزار در ستر ہزار یعنی چار ارب نوے کروڑ کی تعداد، احادیث سے ثابت ہے۔ اور اس سے بہت زائد اور ہیں جو اللہ و رسول کے علم میں ہیں (۳) بہترے وہ ہوں گے جو مستحق جہنم ہو چکے ان کو جہنم سے نکالیں گے (۴) بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے (۵) بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے (۶) جن کے حسنات (نیکیاں) و سیئات (بدیاں) برابر ہوں گی انہیں بہشت میں داخل فرمائیں گے (۷) اہل مدینہ کی خصوصیت سے شفاعت فرمائیں گے (۸) قبر انور کی زیارت کرنے والوں کی امتیازی شفاعت فرمائیں گے (۹) دروازہ جنت کھولنے کے لئے شفاعت فرمائیں گے۔ (اشعة اللمعات)

اللهم انما امدنا بشفاعة حبيبتك محمد صلى الله عليه وسلم فاجعلنا  
من اهلها في الدنيا والاخرة يا اهل المعقرة -

عقیدہ: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو "لواء  
الحمہ" کہتے ہیں۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک، سب اسی کے نیچے ہوں گے۔

## انبیاء و صلحاء وغیرہم کی شفاعت

فتح باب شفاعت کے بعد تمام انبیائے کرام اپنی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اولیائے کرام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا، اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ نابالغ بچے جو مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آکر عرض کریں گے ہم نے آپ کے وضو کے لیے ذرا وقت میں پانی بھر دیا تھا۔ کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجے کے لئے ڈھیلیا دیا تھا۔ علماء ان تک کشف عت کریں گے۔ اور مولائے کریم اپنے فضل و کرم سے، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کے توسل سے ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ بلکہ حدیث شریفین میں ہے کہ مومن جب آتش دوزخ سے خلاصی پائیں گے تو اپنے ان بھائیوں کی رہائی کے لئے جو آتش دوزخ میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت و سوال مغفرت میں مبالغہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اذن پاکر، مسلمانوں کی کثیر تعداد کو بچان بچان کر دوزخ سے نکالیں گے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب مومن آتش دوزخ سے خلاصی پائیں گے تو اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی اپنا حق پانے کے لئے اپنے مقابل سے ایسا سخت تقاضہ اور مخالفت کرنے والا نہیں ہے جیسا کہ مومن اپنے ان بھائیوں کی رہائی کے لئے جو آتش دوزخ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور، شفاعت و سوال میں مبالغہ کرینگے عرض کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے حج کرتے تھے۔“ فرمایا جائے گا جنہیں بچانوا نہیں نکال لو۔ پھر ان (دوزخ والوں) کی صورتیں آگ پر حرام کر دی جائے گی (تاکہ یہ ان کو بچان لیں) پھر خلق کثیر کو وہ دوزخ سے نکالیں گے۔ (مسلم شریف)

## ایک عظیم فائدہ

صحیح مسلم میں مروی کہ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے تین سوال عطا فرمائے۔ میں نے دوبار تو دنیا میں عرض کر لی اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ۔ الہی میری امت کی مغفرت فرما الہی میری امت کی مغفرت فرما وَاخْرَجْتُ النَّاسَ لِمَا رَزَقْتَهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ يَتَدَابَّرُونَ وَيَتَذَكَّرُونَ۔ اور تیسری عرض اس دن کے لئے اٹھا رکھی جس میں تمام مخلوق الہی میری طرف نیاز مند ہوگی۔ یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

## اللہ اکبر! اے گناہگار ان امت

کیا تم نے اپنے مالک و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ کمال رافت و رحمت اپنے حال پر دیکھی کہ بارگاہ عزت جل جلالہ سے تین سوال حضور کو مانگے کہ جو چاہو مانگ لو عطا ہوگا حضور نے ان میں سے کوئی سوال اپنی ذات پاک کے لئے نہ رکھا سب تمہارے ہی کام میں صرف فرمادیئے



دوسواں دنیا میں کئے۔ وہ بھی تمہارے ہی واسطے۔ تیسرا آخرت کو اٹھا رکھا وہ تمہاری اس عظیم حاجت کے واسطے جب اس مہربان مولیٰ، رؤف و رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی کام آنے والا، بگڑی بنانے والا نہ ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حق فرمایا حضرت حق عزوجل نے عَزِيزٌ عَلَیْہِ مَا عَنِتُّمْ طَحْرِیْضٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَؤْفٌ رَّحِیْمٌ۔ واللہ العظیم قسم اس کی جس نے انہیں آپ مہربان کیا کہ ہرگز ہرگز کوئی ماں، اپنے عزیز پیارے اکلوتے بیٹے پر زہارتی مہربان نہیں، جس قدر وہ اپنے ایک امتی پر مہربان ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

الہی تو ہمارا عجز و ضعف اور ان کے حقوق عظیمہ کی عظمت جانتا ہے۔ اے قادر! اے واحد!  
اے ماجد ہماری طرف سے ان پر اور ان کی آل پر وہ برکت والی درودیں نازل فرما جو ان کے حقوق کو وافی ہوں اور ان کی رحمتوں کو مکافی۔ اللہم صل وسلم وبارک علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ قدر رافتہ ورحمتہ بامتہ و قدر رافتک ورحمتک بہ امین امین الہ الحق امین۔

## (۵) نامہ اعمال

ہر مسلمان جانتا ہے کہ انسان کے سراٹ و ضمائر جنہیں وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں روپوش رکھتا ہے کبھی زبان پر نہیں آنے دیتا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپے ہوتے نہیں۔ رب قدیر بندوں کے احوال کو خود ان سے زیادہ جانتا ہے اور انسان کی حرکات و سکنات بلکہ اس کے خیالات تک اس سے پوشیدہ نہیں سب کچھ اس کے احاطہ علم میں ہے لیکن وہ مولائے کریم، آخرت کی عدالت میں کسی کو محض اپنے علم ذاتی، ازلی، ابدی، حضوری، کی بنا پر جہاں سزا نہ دے گا۔ بلکہ وہ احکم الحاکمین عدل کی تمام شرائط محض اپنے فضل و عدل سے پوری فرمائے گا۔ اسی لئے دنیا میں ہر شخص کے اقوال و افعال کا مکمل ریکارڈ تیار کر لیا جا رہا ہے تاکہ اس کی کارگزاریوں کا پورا ثبوت، ناقابل انکار شہادتوں سے پورا پورا فراہم کر دیا جائے اور کسی کو عذر تراشیوں، بہانہ جوئیوں کی مجال نہ رہے۔ احادیث کریمہ بلکہ خود آیات قرآنیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ دو فرشتے ہر وقت اور ہر حال میں، انسان کے ساتھ رہتے اور اس کے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو، نیک ہو یا بد، دیکھتے رہتے ہیں۔ اور کسی حال میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اس کا کوئی قول و فعل۔ ان کے ریکارڈ سے نہیں چھوٹتا۔ منہ سے

ادھر بات نکلی اور ادھر فرشتوں نے اسے نوٹ کیا۔ عرض یہ فرشتے آدمی کی ہر بات سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ بیماری کا کراہنا تک جی داہنی طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا بدیاں۔ امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ جب آدمی ایک نئی کتاب لکھتا ہے تو داہنی طرف والا فرشتہ دس لکھتا ہے اور جب بدی لکھتا ہے تو داہنی طرف والا فرشتہ، بائیں جانب والے فرشتے سے کہتا ہے کہ ابھی توقف کر، شاید یہ شخص استغفار کر لے۔“

تو انہیں اچھے برے تمام اعمال کے مکمل ریکارڈ کا نام ”اعمال نامہ“ ہے فرشتوں کی، حسب اقتضائے حکمت ہے کہ روز قیامت، نامہ ہائے اعمال ہر شخص کے، اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں اس کے معنی یہ ہیں کہ جس وقت اس احکم الحاکمین کی عدالت میں انسان کی پیشی ہوگی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود بھی معلوم ہوگا اور وہ آج بھی جانتا ہے کہ کون کیا کر کے لایا اور آیا ہے اور اس پر شہادت دینے کے لئے دو گواہ بھی موجود ہوں گے جو اس کے تمام نیک و بد اعمال و اقوال کا دستاویزی ثبوت لا کر سامنے رکھ دیں گے اور اس کا عمر بھر کا کیا دھرا اس کے روبرو ہوگا۔ جن کی صحت سے انکار کرنا اس کے لئے ممکن نہ ہوگا۔

**عقیدہ بد قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نیکوں کے دہنے ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں۔ اور کافر کا سینہ توڑ کر، اس کا بایاں ہاتھ اس کے پس پشت نکال کر، پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا کہ خود پڑھ کر فیصلہ کر لے کہ جو کام عمر بھر اس نے کئے تھے کوئی رہا تو نہیں یا زیادہ تو نہیں لکھا گیا۔ ہر آدمی اس وقت یقین کرے گا کہ ذرہ ذرہ بلا کم و کاست اس میں موجود ہے۔ اس میں اپنے گناہوں کی فہرست پڑھ کر مجرم خوف کھائیں گے کہ دیکھئے آج کیسی سزا ملتی ہے اور کافر کا تو خوف کے مارے برا حال ہوگا۔ پھر میزان پر لوگوں کے نیک و بد اعمال تو لے جائیں گے۔**

## (۶) میزان

اللہ تعالیٰ کی عدالت عالیہ میں کل بروز محشر، جزاء و سزا کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ آدمی اعمال کی جبروتی لے کر آیا ہے وہ وزنی ہے یا بے وزن۔ یا اس کی بھلائیوں کا وزن، اس کی برائیوں

کے وزن سے زیادہ ہے یا کم۔ اور اعمال کے وزن یا تول کے لئے جو میزان ترازو قیامت میں نصب کی جائے گی اس کا کچھ اجمالی مفہوم جو شریعت نے بیان فرمایا ہے یہ ہے کہ وزن ایسی میزان سے کیا جائے گا جس میں کفایتین (یعنی پتے) اور لسان (یعنی چوٹی) وغیرہ موجود ہیں اور اس کا ہر پتہ اتنی وسعت رکھے گا جیسی مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ ابن جوزی نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں میزان دیکھنے کی درخواست کی۔ جب میزان دکھائی گئی اور آپ نے ان کے پتوں کی وسعت دیکھی تو عرض کیا "یارب کس کا مقدر ہے کہ ان کو نیکیوں سے بھر سکے" ارشاد ہوا کہ "اے داؤد! میں جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو ایک کھجور سے اسے بھر دیتا ہوں" یعنی تھوڑی نیکی بھی مقبول ہو جاتی تو فضل الہی سے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ میزان کو بھر دے۔ اسی لئے علمائے کرام فرماتے ہیں کہ "ہر شخص کے عمل، وزن کے موافق لکھے جاتے ہیں۔ ایک ہی کام ہے اگر اخلاص و محبت سے کیا اور حکم شرعی کے موافق کیا اور بر محل کیا تو اس کا وزن بڑھ گیا۔ اور دکھاوے کو یاریس کو کیا حکم شرعی کے موافق نہ کیا یا موقع و محل پر نہ کیا تو وزن گھٹ گیا۔"

الغرض اتنا تو معلوم اور نصوص سے ثابت ہے کہ اعمال کا وزن، میزان سے کیا جائے گا لیکن وہ میزان کس نوعیت کی ہوگی اور اس کے دونوں پتے کس کیفیت پر ہوں گے اور ان سے وزن معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، یہ وہ باتیں ہیں جن کا ادراک واسطہ کرنا اور اس کی حقیقت کا دریافت کر لینا ہماری رسالت سے باہر ہے۔

اسی دنیا میں وزن و مقدار معلوم کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ سونے چاندی اور جواہرات تولنے کی میزان جدا ہے۔ غلہ وغیرہ اجناس اور ایسی ہی دوسری چیزوں کی میزان اور ہے۔ ایک میزان، وزنی چیزوں کو تولنے کی وہ ہے جو عام ریلوے اسٹیشنوں پر ہوتی ہے۔ جس سے مسافروں کا سامان تولتے ہیں۔ ایک میزان کانٹے کے نام سے یاد کی جاتی ہے اس سے بھی عموماً وزنی چیزیں تولی جاتی ہیں۔ ان کے سوا "مقیاس الہوا" یا "مقیاس الحرارة" وغیرہ بھی ایک طرح کی میزانیں ہیں جن سے ہوا اور حرارت وغیرہ کے درجات اور ان کی مقدار معلوم کی جاتی ہے۔ تھرمامیٹر ہمارے بدن کی اندرونی حرارت کو جو اعراض میں سے ہے اور کوئی جسم یا وزن بظاہر اس کا معلوم نہیں ہوتا تول کرتا ہے کہ اس وقت ہمارے بدن میں اتنے ڈگری حرارت پائی جاتی ہے۔

جب دنیا میں بیسیوں قسم کی میزانیں جو جسمانی ہیں روزانہ ہمارے مشاہدہ میں آتی ہیں اور اور ہمیں ان پر ایمان و یقین ہے کہ ان سے اعیان و اعراض، جسمانی و غیر جسمانی اشیاء کے اوزان اور درجات کا تفاوت و فرق معلوم ہو جاتا ہے تو اس قادر مطلق کے لئے کیا مشکل ہے کہ ایک ایسی میزان قائم کر دے جس سے ہمارے اعمال و درجات کا تفاوت، صورت و حسن ظاہر ہو کر، نگاہوں کے روبرو آجائے اور ہر شخص پر اس کے اعمال حسنہ کی حقیقت اور برے کرتوتوں کا حال روشن ہو جائے۔ جبکہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یوم حشر، کشف حقائق کا دن ہوگا اور ہر مجازہ عینے حقیقت بن جائے گا اور اس عالم میں مجرّات بھی، محسوسات کے لباس میں ملبوس ہوں گے۔ اعمال کی صفت وزن آج ہمارے موجودہ قوی کے لئے غیر محسوس ہے یہی کل ہمارے لئے مدرک و محسوس ہو جائے گی۔ غرض وزن خود اعمال و عقائد کا ہو یا ان صحیفوں کا جو کراما کا تبین لکھتے ہیں۔ وہ برحق ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں اعمال حسنہ کسی نورانی شکل و جسم میں تبدیل کر دیئے جائیں اور اعمال قبیحہ کسی ظلمانی شکل و جسم میں۔ اور پھر ان اجسام کا وزن کیا جائے نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اوپر اٹھے۔ دنیا کا سامعہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے یا درکھنا چاہیے کہ یہ سارے انتظامات بندوں کے مزید اطمینان کے لئے ہوں گے کہ کسی کو کوئی مجال عذر نہ رہے ورنہ رتی رتی کے حساب سے تو وہ علیم وخبیر خود ہی واقف ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کل کیلے کر آئے گا۔

## (۷) حساب کتاب

عقیدہ ۱۔ حساب حق ہے اعمال کا حساب ہونے والا ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔  
 تشریح ۱۔ قرآن نے جا بجا، احوال محشر کے سلسلہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ قیامت کا دن کافروں کے حق میں بڑا سخت دن ہوگا، علی الکافرین غیر یسیرو۔ "اور یہ کہ ان کے نامہ اعمال، ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یوں کہ اس کا داہنا ہاتھ تو، اس کی گردن کے ساتھ ملا کر، طوق میں باندھ دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ پس پشت دبا جائے گا اس میں اس کا نامہ اعمال تھما دیا جائے گا۔ اس حال کو دیکھ کر وہ خود ہی جان لے گا کہ وہ اہل نار سے ہے۔ انہیں کے حق میں وارد ہوا کہ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ۔ ان کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔

اور بری حساب نہیں یا سخت حساب نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہر امر پر اس سے مواخذہ کیا جائے گا اس کی کسی خطا کسی لغزش کو معاف نہ کیا جائے گا اور کوئی قصور جو اس نے کیا ہو مواخذے کے بغیر نہ چھوڑا جائے گا۔

اسکے برخلاف اطاعت گزار مسلمان بندوں کے حق میں وارد ہوا کہ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَكْتَسِبُوهُ۔ اس سے عنقریب سہل حساب لیا جائے گا ان کی طاعات اور اطاعت گزاروں کے مقابلہ میں ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا۔ اور ان کے مجموعی طرز عمل کی بھلائی کو ملحوظ رکھ کر ان کی بہت سی کوتاہیوں سے صرف نظر کر لیا جائے گا اور ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھوں میں دیا جائے گا جو علامت ہوگی بارگاہ الہی سے عزت و کرامت کی اور یہ اعمال نامہ اس کے لئے گویا قبائلی بخشش ہوگا۔ مولائے کریم روز قیامت ہیں اور تمام اہلسنت کو اس عزت و کرامت سے نوازے آئیں

## حِسَابًا يَكْتَسِبُوهُ كِي چند جلوہ طرازیوں

(۱) بندہ مسلمان پر اس کے اعمال پیش کئے جائیں گے کہ وہ اپنی طاعت و معصیت اپنی خدمت گزاروں اور نافرمانی کو پہچانے۔ پھر طاعت پر ثواب دیا جائے گا اور معصیت سے تجاوز فرمایا جائے گا۔ نہ اس میں شدت مناقشہ ہے کہ اس سے سخت باز پرس ہو اور گریہ گریہ کربات پوچھی جائے کہ ایسا کیوں کیا۔ نہ عذر کی طلب ہوگی۔ نہ اس پر حجت قائم کی جائے گی۔ کیونکہ جس سے مطالبہ کیا گیا اسے کچھ ہاتھ نہ آئے گا اور سوا ہوگا۔

(۲) کسی سے یوں حساب لیا جائے گا کہ خفیۃً اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ کیا اور یہ کیا، عرض کرے گا "ہاں اے میرے رب یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار لے لے گا۔ یہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب گئے۔ اور مولائے کریم فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور آج بھی بختے ہیں۔

(۳) اس امت میں وہ مسلمان شخص بھی ہوگا جس کے ننانوے دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ہر دفتر اتنا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچے۔ وہ سب کھولے جائیں گے۔ اور رب عزوجل فرمائے گا۔

سے تجھے کسی امر کا انکار تو نہیں ہے۔ میرے فرشتوں کو امانا کا تبین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ عرض کرے گا "نہیں اے میرے رب" پھر فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے۔ عرض کرے گا "نہیں اے رب میرے" فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے حضور میں ہے اور تجھ پر آج ظلم نہ ہوگا۔ اس وقت ایک پرچہ میں الشہدا ان لا اله الا الله واشہدا ان محمدا عبدا ورسولہ۔ لکھا ہوگا۔ نکالا جائے گا اور حکم ہوگا "جاتلو" عرض کرے گا "اے رب یہ پرچہ ان دفتروں کے سامنے کیا ہے۔ فرمائے گا "تجھ پر ظلم نہ ہوگا" پھر ایک پتے پر یہ سب دفتر رکھے جائیں گے اور ایک میں وہ پرچہ۔ وہ پرچہ ان دفتروں سے بھاری ہو جائے گا۔ بالجملہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں جس پر رحم فرمائے تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے۔

## ایک حدیث شریف

حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے نزدیک سب سے زیادہ دہشت انگیز وہ آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا من یعمل سوءً یجذبہ۔ جو بھی کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "کیا تم یہ بات نہیں جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور اطاعت گزار بندوں کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی جو اس کو چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی کسی نہ کسی لغزش یا کوتاہی کا بدلہ قرار دے کر، دنیا ہی میں اس کا حساب صاف فرمادیتا ہے۔ آخرت میں جس سے بھی محاسبہ (سخت حساب) ہوگا وہ سزا پاتے بغیر نہ بچ سکے گا۔" عرض کیا "پھر اس ارشاد ربانی کا کیا مطلب ہے فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابًا بِیْمٰنٍ فَنَسُوۡنَ حِسَابًاۙ اٰتٰیۡنًا۔ کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے سہل حساب لیا جائے گا؟ ارشاد فرمایا اس سے مراد بارگاہ الہی میں "عرض" (پیشی) ہے (یعنی اس کی برائیاں بھلائی سب بارگاہ احادیث میں پیش ہوں گی) مگر جس سے سختی سے باز پرس ہوئی (ایک ایک بات کی بس سمجھ لو کہ وہ مارا گیا"۔

## حساب جانگزا کی چند جھلکیاں

(۱) کسی سے اس طرح حساب لیا جائے گا کہ اس سے فرمائے گا "اے فلاں! کیا میں نے تجھے عزت نہ دی۔ تجھے سردار نہ بنایا۔ اور تیرے لئے گھوڑے اور ادنیٰ وغیرہ کو مسخر نہ کیا۔ ان کے علاوہ اور نعمتیں یاد دلائے گا۔ عرض کرے گا: "ہاں تو نے سب کچھ دیا تھا۔" پھر فرمائے گا "تو کیا تیرا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا ہے؟" عرض کرے گا کہ "نہیں" فرماتے گا تو جیسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا، ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں۔"

(۲) بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یاد دلا کر فرماتے گا کہ "تو نے کیا کیا؟ عرض کرے گا۔ تجھ پر اور تیری کتاب اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا۔ نماز پڑھی روزے رکھے۔ صدقہ دیا۔ اور ان کے علاوہ جہاں تک ہو سکے گا نیک کاموں کا ذکر کر جائے گا۔" ارشاد ہوگا "تو اچھا ٹھہر جا تجھ پر گواہ پیش کئے جائیں گے۔" یہ اپنے جہنم میں سوچے گا مجھ پر میرے خلاف کون گواہی دے گا۔ اس وقت اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور اعضا کو حکم ہو گا بول چلو۔ اس وقت اس کی ران اور ہاتھ پاؤں، گوشت، پوست، ہڈیاں سب اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ تو ایسا تھا اور پھر وہ جہنم میں ڈالیا جائے گا انہیں سے روز قیامت فرمایا جائے گا اَنْطَبَعُوا اِلَىٰ ظِلِّ ذِي تَلْحِظٍ شُعْبٍ۔ چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی تین شاخیں کہ نہ سایہ دیں۔ نہ آتش دوزخ کی لپٹ سے بچائیں۔ جس سے اس دن کی گرمی سے کچھ امن پاسکیں۔ اس سے مراد جہنم کا دھواں ہے جو اپنی شدت اور کثرت کے باعث اوپر جا کر تین ٹکڑوں میں پھٹ جائے گا۔ ایک کفار کے سروں پر۔ ایک ان کے دائیں اور ایک ان کے بائیں اور حساب سے فارغ ہونے کے وقت تک، کافر ای دھوئیں کے احاطہ میں گھرے رہیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے عرش عظیم کے سایہ میں ہوں گے۔ دھوئیں کے بادل سے جو صورت، سایہ کے پیدا ہو جاتی ہے کافروں کے حق میں وہ بھی کام سایہ کا نہ دے گی بلکہ اور ازیت رساں ہی ہوں گی اور وبال جان بن کر انہیں ہر طرف سے گھیر لے گی اور جہنم کی ہولناکیوں کا جہنم آج انکار ہے کل انہیں کوئی عذر و حیلہ بھی ہاتھ نہ آئے نہ آئے گا کہ پیش کر سکیں۔

فائدہ: محققین نے کہا ہے کہ علم صحیح کی راہ میں حجابات تین ہوتے ہیں۔

حس۔ خیال۔ و تم اور عمل صحیح کی راہ میں بھی تین جہات ہوتے ہیں۔ قوت و ہمت۔ قوت  
غضبیہ اور قوت شہویہ۔ جدید نفسیات کی اصطلاحات میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کو غذاب الہی  
کی طرف لے جانے والی تین ہی قوتوں کے غلط استعمال ہیں۔ عقل و ادراک کی گمراہیاں۔ جذبات  
و شہوات کی لغزشیں اور قوت ارادی کی کجراہیاں۔

## قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ الْآيَةَ . آج ہم ان  
کے مونہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کئے کی  
گواہی دیں گے۔ یہ حکم ایسے ہیکٹر مجرموں کے معاملے میں ہے جو اپنے جرائم کا اقبال کرنے سے  
انکار کر دیں گے۔ گواہوں کو بھی جھٹلا دیں گے اور نامہ اعمال کی صحت بھی تسلیم نہ کریں گے۔ حالانکہ عمر  
بھر خدا کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ مگر اس بات سے غافل رہے کہ بدکاریوں اور گناہ کوشیوں کا یہ سارا  
انبار خود انہیں کی ذات میں محفوظ ہے جو وقت پر کھول دیا جائے گا اور ہر عضو اس کے خلاف شہادت  
دے گا اور جن جرائم کا اس نے ارتکاب کیا تھا، اعضاء بدن ان جرموں کی شہادت دیں گے۔ اور  
اس کے سارے کرمات، اس کے سامنے آجائیں گے۔ غرض یہ کہ ان کافروں کی پوری زندگی کی روئداد  
رتی رتی حق تعالیٰ کے سامنے انہیں کی زبانوں، ہاتھوں پیروں اور دوسرے اعضاء کی زبانی پیش ہوگی  
مثلاً زبان یوں کہے گی کہ اس نے میرے ذریعے سے فلاں فلاں باتیں کہلوائیں فلاں فلاں قولی کفر صادر  
کئے۔ ہاتھ پیر یہ کہیں گے کہ اس نے فلاں فلاں کام ہم سے کرایا فلاں فلاں کفر عملی میں ہم سے مدد  
لی۔ تو آج جو اعضاء خاموش اور غیر گویا ہیں کل بحکم ایزدی گویا ہو کر اس کا کچا چھٹا دربار احکم الحاکمین  
میں پیش کر دیں گے اور اہل دوزخ دنگ رہ جائیں گے۔

## فوائد جلیلہ

وقوع قیامت کے بعد اپنے انجام اور ثمرات عمل کے لحاظ سے، نسل انسانی، آخرت میں تین  
طبقتوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔



(۱) خواص مقربین یعنی اپنی اپنی طاعت و عبودیت کے لحاظ سے درجہ اول والے یا یوں کہئے کہ اپنے اجر و صلہ اور مرتبہ اخروی کے لحاظ سے سب میں پیش پیش۔ جو جنت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے اور بارگاہِ خداوندی میں اعلیٰ درجہ کے مقامات قرب پر متمکن۔ یعنی حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اور پھر ان کے بعد اولیائے امت اور متقین کاملین۔ انہیں متقین کاملین کے بارے میں فرمایا گیا کہ میری امت سے ستر ہزار بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار۔ اور رب عزوجل ان کے ساتھ تین جماعتیں اور دے گا۔ معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے۔ اس کا شمار وہی جانے۔ تہجد پڑھنے والے بھی انہیں میں ہیں جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔

(۲) عوام مومنین ۱۔ جنہیں قرآن کریم میں جا بجا اصحابِ الیمین اور اصحابِ الیمینہ فرمایا گیا یعنی وہ لوگ جن کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔ وہ بڑی شان رکھتے ہیں سعید ہیں جنت میں داخل ہوں گے اور نجات پا جانے والے، نیک بخت خوش نصیب اہل ایمان۔

(۳) منکرین یا کفار ۲۔ جنہیں قرآن کریم میں کہیں اصحابِ الشمال اور کہیں اصحابِ المشئمہ فرمایا گیا یعنی وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ شقی و بد بخت اور بد نصیب، جن کو کفر و کفر دوستی و سرکشی کی پاداش میں ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔

روزِ خمی جنہیں قرآن کریم نے اصحابِ الشمال فرمایا ہے یعنی بائیں جانب والے، اور جو میثاق کے وقت آدم علیہ السلام کے بائیں پہلو سے نکالے گئے، عرش کی بائیں جانب کھڑے کئے جائیں گے۔ ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ہوگا اور فرشتے بائیں طرف سے ان کو پکڑیں گے۔ ان کی بد بختی اور نحوست کا کیا ٹھکانا۔ اور عام جنتی جنہیں قرآن مجید میں اصحابِ الیمین فرمایا گیا ہے اور جن کو اخذ میثاق کے وقت آدم علیہ السلام کے دائیں پہلو سے نکالا گیا تھا، وہ عرشِ عظیم کے دائیں طرف ہوں گے۔ ان کا اعمال نامہ بھی داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتے بھی ان کو داہنی طرف سے ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اس روز ان کی خوبی و برکت کا کیا کہنا۔ حسن عشرت کے ساتھ، با شان و شوکت ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور و دل شاد ہوں گے اور من مانی مسرتوں میں شاداں و فرجاں۔

شب معراج حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دونوں گروہوں کی نسبت دیکھا تھا

کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی داہنی جانب دیکھ کر منتے ہیں اور بائیں طرف کو دیکھ کر روتے ہیں اور خواص مقربین جنہیں قرآن کریم میں التَّيَقُّونَ فرمایا وہ تو سبقت لے ہی گئے، اگلے وہ حق تعالیٰ کی رحمتوں اور مراتب قرب و وجاہت میں آج سب سے آگے ہیں کل سب سے پیش پیش رہینگے (۲۱) حدیث شریف میں وارد ہے کہ اہل محشر کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی جن میں چالیس پہلی تمام امتوں کی اور انہی اس امت مرحومہ کی۔

(۳) یہ قیامت کا دن کہ حقیقتہً قیامت کا دن ہے جو پچاس ہزار برس کا دن ہوگا اور جس کے مصائب بے شمار ہوں گے۔ مولیٰ عزوجل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لئے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہو اس میں اتنا وقت صرف ہو جتنا ایک وقت کی نماز فرض میں صرف ہوگا۔ بلکہ اس سے بھی کم۔ یہاں تک کہ بعضوں کے لئے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا وَامْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلِمَةٍ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جھپکنا بلکہ اس سے بھی کم یعنی ایسا ہی اَنَا فَا نَا۔

## (۸) الْكُوْتْرُ

عقیدہ :- حوض کوثر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کو مرحمت ہوا، حق ہے۔ اس حوض کی مسافت ایک مہینے کی راہ ہے۔ اس کے کنارے پر موتے پر موتی کے قبے ہیں۔ چاروں گوشے برابر یعنی زاویہ قائمہ ہیں۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار، مشک کی سی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور اس پر برتن، ستاروں سے بھی زیادہ۔ جو اس کا پانی پئے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس میں جنت سے دو پر تالے ہر وقت گرتے ہیں۔ ایک سونے کا دوسرا چاندی کا۔

تشریح :- قرآن کریم کا نازل فرمانے والا رب عزوجل ارشاد فرماتا ہے۔ اَنَا اعْطَيْتُكَ الْكُوْتْرَ۔ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ یعنی مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت دونوں میں فضائل کثیرہ، انعامات لاشناہیہ اور عطیات غیر محدودہ، محامد جمیلہ اور نعوت متکاثرہ عنایت فرما کر تمام خلایق سے افضل و اکمل

احسن واجمل، اکرم واجمل کیا۔ حسن ظاہر بھی دیا حسن باطن بھی اور نسبت عالی بھی۔ نبوت جامعہ ریاست عامہ اور دعوت کاملہ و ہدایت بالغہ بھی۔ مقام محمود بھی۔ شفاعت کبریٰ بھی اور لوہار الحمد بھی۔ کثرت امت بھی، کثرت فتوحات بھی اور عدلے دین پر غلبہ بھی۔

غرض کوثر کے لفظی معنی خیر کثیر کے ہیں اور یہ لفظ دنیا و آخرت دونوں کی ساری بھلائیوں کا جامع ہے اور اس کے تحت میں دنیا و عقبیٰ کی ساری نعمتیں سارے انعامات، الہی آجالتے ہیں اور مفسرین نے اس کے ذیل میں کثرت علوم، کثرت معارف، کثرت حسنات وغیرہا جو معانی و مفاہیم ذکر کئے ہیں سب ہی اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔

لفظ کوثر تو خود ہی فراوانی افزونی کے معنی کے لئے ہو اور جب اسے بھی فوعل کے وزن پر، جو مبالغہ کے لئے آتا ہے استعمال کیا گیا تو اس کے معنی کثرت باللئے کثرت، فراوانی بیش از فراوانی اور افزونی پر افزونی ٹھہرے۔ اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ دینے والے نے انہیں دونوں جہاں کے خزانوں کی کنجیاں دے کر مختار کل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ حوض کوثر بھی ہے جو اسی نام سے مسلمانوں میں مشہور ہے اور اس کا ثبوت بعض محدثین کے نزدیک حد تو اتر تک پہنچ چکا ہے۔ ہر مسلمان کو اس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے۔ حضرت ابو بزرہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حوض کوثر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا "ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، بار بار سنا ہے اور جو اس کو جھٹلائے اللہ اسے اس کا پانی پینا نصیب نہ کرے۔" (ابوداؤد)

### تنبیہ

روایات اس باب میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں فرماتی ہیں کہ یہ حوض، میدان حشر میں ہے دخول جنت سے قبل جیسا کہ احادیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت بروز قیامت وارد ہوگی۔ (مسلم) میں تم سے پہلے اس حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا (بخاری) میں تم سے پہلے حوض پر پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہی دوں گا اور خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں (بخاری) میں قیامت کے روز حوض کے وسط کے

پاس ہوں گا (مسلم) خبردار ہو میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ میرا حوض ہے (احمد) ایک حدیث میں ہے کہ اس میں جنت سے دو پر نالوں کے ذریعے پانی ڈالا جاتا ہے (مسلم) ایک روایت میں ہے کہ جنت کی نہر کوثر سے، ایک نہر اس حوض کی طرف کھول دی جائے گی (احمد) اس مضمون کی بکثرت روایات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حوض میدان حشر میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام لیووں کو اس سے سیراب فرمائیں گے جبکہ ہر شخص پیاس کی شدت میں اَلْعَطَشُ اَلْعَطَشُ (پیاس پیاس) پکارتا ہوگا۔

جبکہ بعض احادیث کہتے ہیں اس باب میں صریح ہے کہ کوثر ایک نہر کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائی ہے (احمد) حدیث معراج بھی اسی کی تائید فرماتی ہے کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے صحابہ اور تابعین کے بکثرت اقوال بھی اسی قول کی تائید میں ہیں۔ ان روایات کی تطبیق میں کہا گیا ہے کہ اصل نہر کوثر، جنت میں ہے اور اسی کا پانی میدان حشر میں لاکر کسی حوض میں جمع کر دیا جائے گا۔ غالباً اسی کو ملحوظ رکھ کر نبی اس، شرح شرح العقائد میں فرمایا دَالْحَسَنِ اَنَّ الْمُرُوْدَ عَلَيَّ الْحَوْضِ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ الْقَرَابِطِ وَبَعْدَهَا بِهَيْئَةِ قَوْلِ اِسِي بَابٍ فِيْهِ يَهِيءُ كِه حَوْضِ كُوْثِرٍ وَّرُوْدٍ دُوْرًا هُوْكَ - صراط پر گزرنے سے پہلے (میدان حشر میں) اور دوسری بار صراط پر گذر کر دخول جنت کے بعد، واللہ سبحانہ اعلم وعلمہ جل بعدہ التور و احکمہ

## ایک نفیس و جلیل فائدہ

بعض احادیث میں وارد ہے کہ جو حوض کوثر پر میرے حضور حاضر ہو گا وہ پئے گا اور اور جو پئے گا، کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے۔ پھر مجھ تک پہنچنے سے روک دیئے جائیں گے میں فرماؤں گا یہ بھی مجھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس پر عرض کیا جائے گا۔ حضور کو خبر نہیں کہ انہوں نے حضور کے بعد کیا کیا۔ میں فرماؤں گا دور ہو دور ہو وہ جس نے میرے بعد تبدیلی کر دی۔ اس حدیث شریف سے بعض ائمہ و ہابیین نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم نہ ذاتی تھا نہ عطائی۔ حالانکہ ہر ذی عقل جانتا ہے کہ یہ حدیث کس کی ہے۔ اس کی خبر دینے والے کون ہیں۔ بات خود حضور پر نور سید یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو فرما رہے ہیں کہ یوں

ہوگا اور یوں ہوگا۔ توجب حضور ہی خود اس واقعہ کی آج اطلاع دے رہے ہیں تو علم نہ ہوگا کیا معنی بلکہ کہئے کہ قطعاً علم ہے۔ تو حدیث ان کے مخالف ہے نہ کہ مؤید جبکہ یہی حدیث صحیح مسلم شریف میں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "کچھ لوگ مجھ تک پہنچنے سے پہلے پکڑ لئے جائیں گے۔ میں عرض کروں گا۔ اے میرے رب! یہ میرے ہیں اور میرے امتی اس پر کہا جائے گا اَمَا شَعِرَتْ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ۔ کیا حضور کو معلوم نہیں کہ انہوں نے حضور کے بعد کیا کیا؟ اس کے صاف معنی یہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ یہ استفہام انکاری ہے اور نفی کی نفی اثبات۔ دوسری حدیث صحیح مسلم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُحْيِيَنِي مَلِكٌ فَيَقُولُ وَهَلْ تَدَارَى مَا حَدَثُوا بَعْدَكَ۔ بھی بلا دقت اس کے موافق ہے۔ کلمہ هل اثبات میں بکثرت اخبار و تقریر کے لئے آتا ہے۔ یہی حدیث اسماء صحیح بخاری میں بلفظ هَلْ شَعِرَتْ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ ہے معلوم ہوا کہ یہاں هل کا وہی مفاد ہے جو استفہام انکاری اَشَعِرَتْ کا یعنی اثبات علم غرض سب حدیثوں کا مطلب یہ ہو گیا کہ فرشتہ عرض کرے گا حضور کو تو خود معلوم ہے کہ انہوں نے حضور کے بعد کیا کیا؟

بالخصوص جبکہ احادیث کریمہ سے روشن ہوا کہ امت کا ہر عمل بارگاہِ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں تین بار عرض کیا جاتا ہے۔ ہر رات کے عمل صبح کو۔ اور ہر دن کے شام کو۔ پھر جمعرات سے اتوار تک کے اعمال پیر کو۔ اور پیر سے بدھ تک کے جمعرات کو۔ پھر ہفتہ بھر کے اعمال جمعہ کو۔ تو جو لوگ اپنی بد اعمالیوں کے باعث حوض سے روکے جائیں گے ان کے وہ اعمال کم از کم تین بار حضور پر پیش ہوئے۔ پھر یہ کہنا کہ قیامت تک یہ باتیں حضور پر ظاہر نہیں ہوں گی کیسا صریح جھوٹ اور حدیثوں کی تکذیب ہے۔ خصوصاً جبکہ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت مجھ پر پیش کی گئی یہاں تک کہ میں ان میں ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسا تم میں سے کوئی اپنے یار کو (طبرانی) مسلمانوں! دیکھا تم نے کہ دہا بیہ میں نفی فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی خوئے ناپاک ہے۔

(ادخال السنان ملخصاً)

## (۹) الصراط

عقیدہ ۱۔ صراط حق ہے۔ یہ ایک پل ہے۔ کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا۔ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے پھر اور انبیاء و مرسلین۔ پھر یہ امت مرحومہ۔ پھر اور امتیں گزریں گی۔ اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسی تیزی سے گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا۔ کہ ابھی چمکا ابھی غائب ہو گیا۔ اور بعض تیز ہوا کی طرح۔ کوئی ایسے جیسے پرند اڑتا ہے۔ اور بعض ایسے جیسے گھوڑا دوڑتا ہے اور بعض ایسے جیسے آدمی دوڑتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض شخص سرینا پر کھسکتے ہوئے اور کوئی چیونٹی کی چال جانے گا اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے (اللہ ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے) لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے۔ مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے اور یہ ہلاک ہوا۔

تشریح:۔ مولیٰ عزوجل ارشاد فرماتا ہے **وَأَنْ تَقُنُّكُمْ إِلَّا دَارُهَا** "اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو"۔ یعنی دوزخ سے گذر تو بہر حال سب ہی کا ہوگا۔ نیک ہو یا بد یہ اور بات ہے کہ نیک سلامت رہیں اور اس سے انہیں ضرر ذرا بھی نہ پہنچے جس طرح خود ملائکہ دوزخ کو دوزخ سے تکلیف مطلق نہ ہوگی جیسا کہ بعد والی آیت بتا رہی ہے کہ جو مومن کامل ہیں انہیں تو کسی تکلیف کی ہوا بھی نہ لگنے پلے گی۔ بلکہ دوزخ کی حالت کا معائنہ، اور پھر اس سے اپنی محفوظیت کا تقابل، تو اور زیادہ ان میں فرح و سرور کی کیفیت پیدا کر دے گا۔ بلکہ جب ان کا گزر دوزخ پر ہوگا تو دوزخ سے صدا اٹھے گی کہ **جُزِيَا مَوْمِنٌ فَإِنَّ نَوْمًا أَطْفَالًا مَسْجِي** (البرانی) اے مومن گزر جا کہ تیرے نور نے میری لپٹ سرد کر دی؟ البتہ جو مومنین ناقص ہیں، انہیں کچھ تکلیف اٹھانے کے بعد ہی نجات ملے گی۔ اور وہ جو بالکل ظالم ہیں کافر ہی ہیں وہ اس میں جھونک دینے جائیں گے وہ اس میں پڑے سڑا کریں گے۔ حسن و قنادہ سے مردی ہے کہ دوزخ پر گزرنے سے مراد پل صراط سے گزرنا ہی ہے جو دوزخ پر ہے۔ (خزائن العرفان وغیرہ)

## کرم مصطفیٰ کی تجلیاں

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم

یہ تمام اہل عشرت تو پل سے گزرنے میں مشغول۔ مگر وہ بے گناہ، گناہگاروں کا شفیع، پل سے کنارے کھڑا ہوا ہو یہ کمال گریہ وزاری، اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہے  
رَبِّ سَلِّمْ وَسَلِّمْ۔ الہی انہیں سلامتی سے پار اتار۔ الہی ان گناہگاروں کو بچالے۔ الہی ان سیاہ کاروں  
کو سلامت رکھ۔

اور ایک اسی جگہ کیا، حضور اس دن، کہ باپ بیٹے سے بھاگتے۔ بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا  
جن سے کچھ امید تھی وہ سب جواب دے چکے۔ ہاتھ پاؤں چھوٹ گئے۔ ٹوٹی ہوئی کمری اور اوپر سے  
گناہوں کا بوجھ۔ گرے تو اٹھانہیں جاتا۔ پھسلے تو سنبھلنا کیسا، اب ان سب کا بار ان پر آن پڑا۔ ایک  
اکیلی جان اور جہان بھر کا سامان، وہ اس روز تمام موطن کا دورہ فرماتے رہیں گے۔ کبھی میزان پر  
تشریف لے جائیں گے۔ میزان قائم ہے نامہ اعمال کھولے جا رہے ہیں، سنگامہ دار و گیر گرم ہے اور وہ  
وہاں، جس کے حسنت میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے۔ اور فوراً ہی دکھو تو  
حوض کوثر پر جلوہ فرما ہیں پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں۔ پانی پلاؤں تو یہی پلاؤں۔ ادھر نہیں جلتے  
تو خدا جانے آنت رسیدوں پر کیا نذرے کون سا پلہ بھاری ٹھہرے۔ ادھر نہ آئیں تو یہ بکس بے یار  
و بے مددگار، برباد ہو جائیں۔ پھر وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔ غرض ہر جگہ انہیں  
کی دہائی۔ ایک ان کا دم، اور جہاں بھر کی خیر گیری۔ اتنا عظیم اثر دہام اور اس قدر مختلف کام۔ اور اس  
درجہ فاصلوں پر مقام۔ اور انہیں ایک ایک، اس سے زیادہ پیلا، جیسے ماں کا اکلوتا بچہ۔ دل پر نجوم  
آلام۔ زبان پر خدا کا نام۔ آنکھوں سے اشک رواں اور ہر طرف بتیا بانہ دواں۔ ادھر گرتے کو سنبھالا  
ادھر دوتے کو نکالا۔ یہاں روتے کے آنسو پونچھے وہاں جلتے کو بچایا۔ غرض ہر جگہ انہیں کی دھائی  
ہر شخص انہیں کو پکارتا۔ انہیں سے فریاد کرتا ہے۔ اور ان کے سوا کس کو پکارے کہ ہر ایک اپنی فکر میں  
ہے۔ دوسروں کو کیا پوچھے۔ نہ تو ایک ہی میں جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں اور تمام عالم کا بار ان کے ذمے۔  
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ كُلِّ مَنْ هُوَ مَحْبُوبٌ وَ مَرَحِيْقٌ لِّدَائِيهِ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ

ان تمام مرحلوں کے بعد اب بنی آدم کو ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں اس کو جنت کہتے ہیں۔ کسی کو تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں۔ اسے جہنم کہتے ہیں۔

## جنت کا بیان

اہل ایمان کے لئے ان کی طاعات پر ثواب اور انعامات کی خاطر، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بنائی ہے جس میں تمام قسم کی جسمانی و روحانی لذتوں کے وہ تمام سامان مہیا فرمائے ہیں جو شاہاں بہفت اقلیم کے تصور و خیال و وہم میں بھی نہیں آسکتے۔ اسی کا نام جنت ہے۔ جو کوئی مثال ان نعمتوں کی تعریف میں دی جائے وہ محض تقریب فہم یعنی سمجھانے کے لئے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ ظاہر ہے کہ جن نعمتوں کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا۔ نہ کسی آدمی کے دل پر بے دیکھے ان کا خطرہ گذرا تو وہ تمثیل و تشبیہ سے اپنی پوری حقیقت ثابتہ کے ساتھ کیونکر ننگا ہوں میں سما سکتی اور ذہنوں میں جگہ پاسکتی ہیں اس لئے کوئی انسانی دماغ پورا تصور بھی ان راحتوں اور مسرتوں کا نہیں کر سکتا اور جنت کی نعمتوں کا پورا اندازہ، انسان کو اپنے ان ناسوتی حواس کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔

جنت کے لفظی معنی ہر اس باغ کے ہیں جس کے درخت زمین کو چھپالیں۔ اور اصطلاح شرعی میں مراد وہ عظیم الشان باغ ہے جو بے شمار نعمتیں لئے ہوئے، عالم آخرت میں اہل ایمان کے لئے مخصوص ہے اور آج ہماری نگاہوں سے مستور۔ اس کا نام 'جنت' اس لئے پڑا کہ وہ دنیا کے باغوں سے مشابہ ہے، گو مشابہت، بہت دور کی تھی۔ اور یا اس لئے کہ اس کی نعمتیں ابھی مستور ہیں۔

عقیدہ، جنت و دوزخ حق ہیں۔ ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔

عقیدہ، جنت و دوزخ کو بنے ہوئے ہزار ہا سال ہوئے اور وہ اب موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ اس وقت مخلوق نہ ہوئیں۔ قیامت کے دن بنائی جائیں گی۔

عقیدہ، قیامت و بعث و حشر و ثواب و عذاب و حساب کتاب و جنت و دوزخ۔ سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ جو شخص ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے نئے معنی گڑھے مثلاً



نشاب کے معنی، اپنے حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا اور عذاب کے معنی اپنے برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا۔ بتائے یا کہے کہ حشر فقط رحوں کا ہوگا، وہ حقیقتہً ان چیزوں کا منکر ہے اور ایسا شخص کافر ہے۔ ہمارے بلا دیا دیگر ممالک و امصار میں جن جدید اہل علم نے جنت کی جسمانی لذات کے تاویلیں کر کے انہیں خواہ مخواہ بدل دینا چاہا ہے وہ درحقیقت خود مسیحیت اور دوسرے باطل نظریات سے کسی حد تک مرعوب و ادنیٰ ضلالت و کفر میں محصور اور روشنی اسلام سے محروم ہیں۔ قرآن کریم بار بار صراحتاً یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ اہل جنت کو ہر نعمت، ہر سرور، ہر لذت، مادی و معنوی جسمانی و روحانی ہر قسم کی حاصل ہوگی۔ اس میں کوئی استثناء نہیں۔ پھر یہ نعمتیں علاوہ بے اندازہ و بے حساب ہونے کے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دائمی ہوں گی جن کے قطع ہونے اور جن سے بے دخل کئے جانے کا کبھی خطرہ ہی نہیں۔

## جنت کی نعمتیں

اس باب میں یہ بات خوب ذہن نشین رکھیں کہ اہل جنت کو دی جانے والی نعمتوں کے متعلق قرآن کریم کی گواہی ہے اور صاف صریح الفاظ میں کہہ دے: **وَفِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ فِيهَا الْأَنْفُسُ وَتَكُنُّ الْأَعْيُنُ**۔ "اور وہاں وہ سب کچھ ہے جو جی چاہے اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے، نفس اور عین کی لذات، اور ہر من بھاتی اور آنکھوں میں سماقی لذتوں، کا اہل جنت کے لئے میسر آنا، اس آیت کریمہ میں صاف صریح الفاظ میں بیان فرمانا، بتا رہا ہے کہ وہاں ہر حسی اور بصری نعمتیں موجود ہوں گی اور اس صراحت نے ان باطل پرستوں، مغرب کی خوشنودی کے لئے، من گڑھ جنت تفسیریں کرنے والوں کی جڑ کاٹ دی جو یہ سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ جنت صرف روحانی کیفیات کا محل ہے اور لذات مادی کا وہاں وجود بھی نہ ہوگا۔

یوہیں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ **وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ فِيهَا الْأَنْفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ** اور تمہارے لئے ہے اس (جنت) میں جو تمہارا جی چاہے اور تمہارے لئے اس میں (ہر وہ کرامت و نعمت اور لذت و راحت) ہے جو تم مانگو۔

ان الفاظ کا عموم اور جامعیت تو ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم طلب کرو گے

ہر چیز تمہارے لئے حاضر و مہیا ہوگی۔ اور اس میں ساری ہی ماری و روحانی لذتیں اور حسی و معنوی راحتیں آگئیں۔ اس پر مزید کرم یہ کہ فرمایا کہ ”جو کچھ تمہارا جی چاہے گا وہ بھی۔“ خواہ زبان سے مانگو یا نہ مانگو۔ حق ہے کہ مومن ناظران بشارتوں کو پڑھ کر وجد میں آجائے ”مَا تَشْتَهِيْ اَنْفُسُكُمْ“، اس کے اندر وہ ساری لذتیں اور راحتیں آگئیں، جن کی طلب انسان کے لئے طبعی و اضطراری ہے۔ اور مَا تَدْعُوْنَ کے تحت میں وہ ساری نعمتیں۔ کرامتیں، عزتیں، مرحمتیں شامل ہیں، جن کی طلب انسان کے لئے عقلی و اختیاری ہے۔

توجنت کی ایک خاص اور امتیازی خصوصیت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ جگہ ایسی ہوگی جہاں سب کچھ انسان کی اپنی مرضی و خواہش کے مطابق ہوگا۔ جو ہوا بھی چلے گی اس کی مرضی کے موافق جو موسم بھی وہ چاہے گا وہی پیدا ہو جائے گا۔ جو غذا بھی وہ چاہے گا وہی حاضر ہوگی۔ جو مشغلہ اسے پسند ہوگا وہی اس کے لئے موجود ہوگا۔ وعلیٰ ہذا۔

پھر یہ بے انداز و بے حساب ملیں گی بھی، تو اس طرح نہیں جیسے سائل یا گداگر کو بھیک مل جایا کرتی ہے بلکہ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ملیں گی جیسے معزز مہمان کو، کریم مہربان کی طرف سے پیش ہوتی رہتی ہیں نَزُلًا مِّنْ غَافِقُوْرٍ دَجِيْبٍ۔ مہربانی بخشش دل لے مہربان کی طرف سے۔ غفور رحیم کی مرحمتوں، مہربانیوں اور بخششوں کا لون اندازہ کر سکتا ہے۔ اب ان بخششوں کرامتوں۔ مہربانیوں اور نعمتوں کا قدرے بیان بھی سن لیں، جن کا ذکر، احادیث کریمہ کے علاوہ قرآن کریم کی صد آیات میں آیا ہے۔

(۱) جنتی لوگ ہمیشہ کے سایوں میں ہوں گے۔

(۲) ایک ایک جنتی کے لئے چار چار باغ ہوں گے۔

(۳) اور ان باغوں میں شرابِ طہور، کبھی خراب نہ ہونے والے دودھ، صاف کئے ہوئے شہد اور ٹھنڈے خوشگوار پانی کی نہریں ہیں۔

(۴ تا ۱۱) ان میں کھجور۔ انار۔ انگور۔ کیلے۔ اور ہر قسم کے میوے ہیں۔

(۱۲ تا ۱۳) ان باغوں میں خیمے اسادہ ہیں اور ان میں بالا خانوں کے اوپر بالا خانے بنے ہیں۔

(۱۴) ان باغوں میں پردہ نشین، نونیز، بڑی بڑی آنکھوں والی، ایک عمر دالی حوریں ہیں جو اپنے شوہروں پر

پیاری، انہیں پیار دلاتی ہیں۔ ان کو ان کے شوہر ہمیشہ کو آری پائیں گے، عادت کی نیک، صورت کی حسین ہوگی۔ حسن و لطافت میں یا قوت و مرجان کی مثل ہوں گی۔ ان کے حسن کی چمک دمک تھپے ہوئے موتیوں کی آب و تاب کی طرح ہوگی۔ ان کو ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے۔ (۱۵) ان میں جنتیوں کی خدمت کے لئے، نہایت خوبصورت، کمرن، لڑکے ہوں گے جو کبھی جنتیوں کی خدمت سے نہ ٹھکیں گے اور نہ کبھی ان کی خوبصورتی و کسب میں فرق آئے گا۔

(۱۶ تا ۲۰) وہ غلمان جنتیوں کے گرد، کوزے، آفتابے، جام، اور چاندی سونے کے برتن لئے پھر رہیں گے (۲۱) ان باغوں میں آنکھوں کے سامنے بہتی شراب ہوگی جس سے نہ تو سر میں درد ہوگا نہ ہوش میں فرق آئے گا۔

(۲۲ تا ۲۳) ان میں پسند کے مطابق میوے، مرضی کے موافق پرندوں کے گوشت ہوں گے۔

(۲۴) ہر ایک برتن میں کھانا پینا، اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ جو خواہش سے نہ تو زائد ہوگا نہ کم۔

(۲۵) وہ باغ نہایت سبزی کے سبب، سیاق کی جھلک دے رہے ہوں گے۔

(۲۶) ان کے سلتے جنتیوں پر جھکنے والے ہوں گے کہ جنتی جس طرف جائے گا۔ جنت کے درخت کا سایہ، اسی طرف جھک جایا کرے گا۔

(۲۷) ان کے گچھے، جھکا کر نیچے کر دیئے گئے ہوں گے کہ جب جنتی کوئی میوہ کھانا چاہے گا، اس کی شاخ اس کے منہ تک، جھک کر نیچے ہو جایا کرے گی۔

(۲۸) ان باغوں میں نہ دھوپ کی حدت ہوگی۔ نہ سردی کی شدت۔

(۲۹ تا ۳۲) جنتیوں کو سبز کرب کے قریب اور قنادیز کے دبیز ریشمی کپڑے۔ اور سونے چاندی کے کنگن اور موتیوں کے زیور پہناتے جائیں گے۔

(۳۵ تا ۳۷) اونچے اونچے جڑاؤ تختوں پر، ایسے ریشمی نرم بچھونوں پر، جن کا اسٹر قنادیز کا ہوگا۔ اور خوبصورت منقش چاندنیوں پر تیکے لگائے بیٹھے ہوں گے۔

(۳۸) اہل جنت، جنت میں پہلی موت کے سوا، پھر موت نہ چکھیں گے۔

(۳۹) ان کے سینے کینہ و کدورت سے پاک ہوں گے اور سب اہل جنت، آپس میں ایک دوسرے

کی طرف سے بالکل صاف دل ہو کر، آپس میں شیر و شکر ہو کر رہیں گے۔

(۳۰) اہل جنت سے ارشاد خداوندی ہوگا کہ تمہیں اس وقت بھی ہر مکروہ سے سلامتی ہے اور آئندہ بھی کسی شرکاء اندیشہ نہیں عیش جنت کے دوام کے باوجود، وہاں مکان مطلق نہ ہوگا اور چین کی تازگی ہمیشہ ان کے چہروں سے روشن ہوگی۔

قرآن کریم کی آیات کریمہ کے ان مضامین بالالہی روشنی میں یہ بات بالکل عیاں، اور آفتاب نصف النہار کی طرح روشن ہے کہ جنت کو روحانی مسرت قرار دے کر اس کا راگ الاپنے والے، اسلام سے دور کفر و ضلالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اور ایسوں کی پیروی کرنے والے، بھی ان کے ساتھ عذاب الہی کے مستحق ہیں۔ مولائے کریم صدقہ اپنے حبیب رؤف و رحیم کا، ایسے "دوست نما دشمنان اسلام سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہر فتنہ و فتنین سے ہمیشہ بچائے۔ آمین۔"

فائدہ: مسلمان عمر بھر کتنی ہی تنگی و مصائب میں رہے ایک ہوا جنت کی دیں گے اور پوچھیں گے تم نے دنیا میں کیا تکلیف کھائی ہے گا، واللہ کون تکلیف نہ اٹھائی، اور کافر کو ہزار برس تک ناز و نعم میں رکھا جائے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ گرم ہوا بھی نہ لگنے پائے۔ قبر میں ایک جھونکا اسے جہنم کا دیں گے۔ کہے گا۔ "واللہ مجھے دنیا میں کونئی آرام نہ ملا" (المذفوظات)

## اور احادیث کریمہ کے مطالعہ سے روشن کہ

(۱) جنت میں سو درجے ہیں۔ ہر دو درجوں میں وہ مسافت ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اور خود اس درجہ کی مسافت کے بارے میں وارد کہ اگر تمام عالم (ارب درارب، کھرب در کھرب) ایک درجہ میں جمع ہو تو سب کے لئے وسیع ہے۔

(۲) جنت میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں۔ ایسے صاف شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔

(۳) جنت کی دیواریں، سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ زمین زعفران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔

(۴) جنت میں ایک ایک موتی کا نیمہ ہوگا۔ جس کی بلندی ساٹھ میل ہوگی۔

(۵) جنت کی نہریں جو ہر ایک جنتی کے مکان میں جاری ہیں، ان کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت

کا ہے اور نہروں کی زمین، خالص مشک کی۔

(۶) وہاں نجاست گندگی پاخانہ پیشاب وغیرہ بلکہ بدن کا میل اصلانہ ہوگی۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا اور سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔

(۷) ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر، بالقصد اور بلا قصد، مثل سانس کے جاری ہوگی۔

(۸) ہر شخص کے سر ہانے، کم از کم دس ہزار خادم کھڑے ہوں گے۔ قسم قسم کی نعمتوں کے ساتھ۔

(۹) ہر نولے میں ستر مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے سے ممتاز۔

(۱۰) پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودھویں رات کا چاند۔ اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔

(۱۱) سر کے بال اور پلکوں اور بھوڑوں کے سوا، جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے۔ سببے

ریش ہوں گے۔ سر نگین آنکھیں ہمیشہ تیس برس کی عمر کے معلوم ہوں گے۔

(۱۲) ادنیٰ جنتی کے لئے اسی ہزار خادم اور بہتر بیبیاں ہوں گی اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ ان میں کا

ادنیٰ موتی، مشرق و مغرب کو روشن کر دے۔

(۱۳) اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل اور پوری عمر (یعنی تیس سال کی) خواہش کرتے

ہی ایک ساعت میں ہو جائے گی۔

(۱۴) جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سر ہانے اور پائنتی میں، دو حوریں نہایت اچھی آواز

سے گائیں گی۔ مگر ان کا گانا، یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عزوجل کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوش گلہ ہوں

گی، کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں۔ کبھی نہ مرے

گے۔ ہم چین والیاں ہیں کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے۔ ہم راضی ہیں ناراض نہ ہوں گے۔ مبارکباد اس کے

لئے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔

(۱۵) جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں۔

(۱۶) جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تحت دوسرے کے پاس چلا جائے گا یا نہایت اعلیٰ درجہ کی

سواروں پر۔

۱۷) سب سے کم درجہ کا جو جنتی ہے اس کے باغات بی بیوں اور نعمتیں اور خدام، ہزار برس کی مسافت تک ہوں گے۔

## وجہ کریم کی زیارت

سب سے اعظم و اعلیٰ نعمت جو مسلمانوں کو نصیب ہوگی وہ اللہ عزوجل کا دیدار ہے کہ اس کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا۔ ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا۔ کبھی نہ بھولے گا۔ سب سے پہلے دیدار الہی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوگا۔

جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے۔ ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی انتہا نہیں۔ پھر انہیں دنیا کے ایک ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں۔ اور عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عزوجل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمانے گا۔ جنتیوں کے لئے منبر بچھائے جائیں گے۔ نور کے منبر۔ موتی کے منبر۔ یاقوت کے منبر۔ زبرجد کے منبر۔ سونے کے منبر۔ چاندی کے منبر۔ اور ان میں کا ادنیٰ مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا۔ اور ان میں ادنیٰ کوئی نہیں اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے۔ اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا۔ جیسے آفتاب اور چاند رات کے چاند کو، ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کیلئے مانع نہیں۔ اللہ عزوجل ہر ایک پر تجلی فرمانے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمانے گا اے فلان بن فلان! تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا۔ دنیا کے معاصی یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا "تو اے رب! کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟" فرمانے گا "ہاں میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبہ کو پہنچا!"

وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو۔ ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی اور عزوجل فرمانے گا کہ "جاؤ اس کی طرف، جو میں نے تمہارے لئے عزت تیار کر رکھی ہے۔ جو چاہو لو۔" پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں۔ اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی۔ نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی۔ اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا۔ اس کا لباس پسند کرے گا ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا

میرا لباس اس سے اچھلے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لئے غم نہیں۔

پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے۔ ان کی بی بیایاں استقبال کریں گی اور مبارکباد کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال پہلے سے بہت زائد ہے کہ آپ ہمارے پاس سے گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ اور ان میں اللہ عزوجل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے صبح شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ عزوجل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں۔ عرض کریں گے "تو نے ہمارے منہ روشن کئے۔ جنت میں داخل کیا۔ جہنم سے نجات دی۔" اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔

## لطائف الاحادیث

۱) قیامت کے روز دہندے، دوزخ سے نکلے جائیں گے رب عزوجل فرمائے گا جو کچھ تمہیں پہنچا تمہارے اعمال کا بدلہ تھا میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تم پھر جہنم میں چلے جاؤ۔" ان میں سے ایک تو دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا اور دوسرا آہستہ۔ حکم ہوگا "واپس لاؤ اور اس شتابی اور آہستگی کا سبب پوچھو۔" جلدی کرنے والا عرض کرے گا تے رب میرے! نافرمانی کے سبب یہ سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ کیا اب بھی نافرمانی کرتا؟" دوسرا عرض کرے گا الہی مجھے امید نہ تھی کہ جہنم سے نکال کر مجھے پھر اس میں بھیجے گا؛ "حکم ہوگا۔" دونوں کو جنت میں لے جاؤ۔

(۲) ایک بندہ حاضر ہوگا رب العزت کا حکم ہوگا۔ اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا تو حدنگاہ تک طویل، اور سرایا، گناہوں سے بھرا ہوگا۔ اپنا نامہ اعمال خود پڑھے گا اس میں صفائے کبار سب لکھے ہوں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ظاہر کرے گا اور کبار کو چھوڑتا جائے گا۔ رب العزت فرمائے گا۔ پڑھ لیا۔ کہے گا ہاں سب پڑھ لیا۔ فرمائے گا "لے میرے فرشتو! اس کے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھو۔ اس وقت چلا اٹھے گا کہ الہی میرے بڑے گناہ تو رہ ہی گئے۔ میں نے تو صرف صفائے پڑھے۔" یہ سب صدقہ ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔

روز قیامت، داروغہ دوزخ علیہ الصلوٰۃ والسلام، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

شفاعتیں دیکھ کر عرض کر دیں گے۔ حضور نے اپنی امت میں غضب الہی کا کوئی حصہ نہ چھوڑا۔  
(المفوظ ۷۱)

(۳) اہل جنت کے جنت میں دخول کے بعد، ایک شخص ایسا بھی رہ جائے گا جو نہ جنت میں ہوگا نہ دوزخ میں، البتہ ان کا منہ جہنم کی طرف ہوگا۔ وہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا اے میرے رب! میرا منہ جہنم سے پھیر دے۔ اس کی بدبو نے مجھے بڑی اذیت میں ڈال رکھا ہے اور اس کی تپش مجھے جلانے دے رہی ہے۔ ارشاد ہوگا "ایسا تو نہیں ہوگا کہ تیرا مقصود، تجھے مل جائے تو پھر اور کچھ مانگنے لگے۔ عرض کرے گا: نہیں تیری عزت کی قسم (اور کچھ نہیں مانوں گا) اور اللہ سے عہد و پیمان کرے گا مولا کریم اس کا رخ، جہنم کی بجائے جنت کی طرف کر دے گا۔ اب وہ جنت کی تروتازگی دیکھے گا۔ اور جب تک اللہ چاہے گا وہ خاموش رہے گا۔ اور پھر عرض کرے گا۔ اے میرے رب بس ذرا جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ مولا کریم فرمائے گا "کیا ابھی تو نے عہد و پیمان نہ کیا تھا کہ اور کچھ طلب نہ کروں گا عرض کرے گا۔ یارب مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بڑھ کر بد بخت تو نہ بنا۔" ارشاد ہوگا: اچھا اگر ایسا کر دیا جائے تو پھر اور کچھ تو نہ طلب کرے گا۔ عرض کرے گا۔ نہیں میرے مولا نہیں۔" اور پھر عہد و پیمان کرے گا۔ چنانچہ اسے دروازہ جنت کے قریب کر دیا جائے گا۔ اب اس کے سامنے جنت کی بہاریں اور نعمتیں اور خوشیاں ہوں گی۔ لیکن خاموش رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ آخر عرض کرے گا۔ اے میرے خدا! مجھے جنت ہی میں داخل فرما دے۔" ارشاد ہوگا "آخر کون سی چیز تھے اس عہد شکنی پر آمادہ کر رہی ہے۔ ابھی تو نے عہد و پیمان کیا تھا کہ کچھ اور نہ مانگے گا۔" عرض کرے گا "ابھی مجھے مخلوقات میں سب سے بڑا، بد بخت نہ بنا کہ سب جنت میں ہوں اور میں اس سے باہر، وہ برابر دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ رحمت الہی کو جوش آئے گا اور اسے جنت میں داخلہ کی اجازت مل جائے گی اور پھر اس سے فرمایا جائے گا "اور جو خواہش ہو وہ ظاہر کر۔ اب وہ اپنی خواہشات بیان کرے گا یہاں تک کہ کوئی خواہش باقی نہ رہے گی تو ارشاد ہوگا "فلاں فلاں خواہش اور کر۔ رحمت الہی اس کے دل میں خواہشیں پیدا فرمائے گی اور انہیں پورا فرما کر ارشاد ہوگا۔ اتنی ہی نعمتیں تیرے لئے اور ایک روایت میں ہے۔ اس سے دس گنا اور تیرے لئے۔"



## (۱۲) دوزخ کا بیان

یہ ایک مکان ہے کہ اس قبار و جبار کے بلال و قہر کا منظر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں، اسی طرح اس کے غضب و قہر کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف و اذیت جو سرکشوں، باغیوں اور ڈھیٹ نافرمانوں کے لئے ادراک کی جاسکتی ہے ایک ادنیٰ حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ جہنم یعنی دوزخ میں تمام قسم کے اذیت دہ طرح طرح کے وہ عذاب مبیہ کئے گئے ہیں جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو اس گم۔

البتہ وہ سب گناہگار جنہوں نے سچے اعتقاد سے کلمہ طیبہ پڑھا تھا اور ایمان و یقین کا انہیں حصہ ملا تھا، کچھ مدت کے بعد اپنے اپنے عمل کے موافق، سزا پا کر، یا انبیائے کرام و ملائکہ و صالحین کی شفاعت سے اور آخر میں راست اس ارحم الراحمین کی مہربانی سے، دوزخ سے نکال لئے جائیں گے صرف کافر باقی رہ جائیں گے اور دوزخ کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ دوزخیوں کے چہرے سیاہ، بے رونق اور آنکھیں نیلی ہوں گی۔

قرآن مجید اور احادیث میں دوزخ کی جو سختیاں مذکور ہیں اور جن کا اجمالاً بیان آگے آتا ہے اسے مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم کہتا ہے، تلے رب! یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو۔ دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا و مولیٰ کہ سید المعصومین میں ہماری تعلیم کے لئے بکثرت جہنم سے پناہ مانگتے۔

جہنم کے شرارے (پھول) اونچے اونچے محلوں کی برابر اڑیں گے گویا زرد اونٹوں کی قطار کہ پیہم آتے رہیں گے۔ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے ستر جزوں میں سے ایک جز ہے۔ جس کو سب سے کم درجہ کا عذاب ہو گا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اسی پر ہو رہا ہے حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے۔ سب سے ہلکے درجہ کا جس پر عذاب ہو گا۔ اس سے اللہ عزوجل پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لئے تو سب فدیہ میں دے گا

عرض کرے گا۔ ہاں۔ فرمائے گا: جب تو پست آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا۔ مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کی آگ ہزار برس تک رہنکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی پھر ہزار برس اور۔ یہاں تک کہ سفید ہو گئی۔ پھر ہزار برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ تو اب وہ بالکل سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جلنے کے کتنی گہری ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات، مختلف وادیاں اور مختلف کوئیں ہیں۔ بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز ستر مرتبہ یا زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے اگر اس میں کچھ اور عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا مگر کفار کی سزائیں کے لئے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کئے گئے ہیں۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن وانس جمع ہو کر اس کو نہیں اٹھا سکتے۔

## جہنم میں عقوبتوں کا مجمل بیان

قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں صد ہا مقامات پر، مصائب جہنم کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے

ان کا مختصر اور اجمالی ذکر یہ ہے:-

- (۱) دوزخیوں کے لئے، آگ کے کپڑے، آگ کے پھونے اور آگ کے اوڑھنے ہوں گے۔
- (۲) ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اوپر آگ کے پہاڑ۔ نیچے آگ کے پہاڑ۔
- (۳) ان کے چہروں کو دوزخ کی آگ جھلس دے گی اور ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔
- (۴) تلچھٹ کی مثل، سخت کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی۔

(۵) سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔

(۶) جنمیوں کے بدن سے جو پیپ نکلے گی وہ انہیں پلائی جائے گی۔

(۷) جہنم کا خاردار عتوہر کھانے کو دیا جائے گا اور زخموں کا دھوواں ان کی خوراک ہوگی۔

(۸) وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا تو اس کے اتارنے کے لئے پانی مانگیں گے اور ان کو وہ کھولتا

ہوا پانی دیا جائے گا جو پیٹ میں جلتے ہی آنتوں کو ٹکڑے کر دے گا۔

(۹) لوہے کے گرزوں سے ان کے سروں کو کچلا جائے گا۔

(۱۴) اسے جہنم کی ایک پیڑھی صعود پر چڑھایا جائے گا پھر گرایا جائے گا پھر چڑھے گا پھر گرے گا اور عذاب کی یہ صورت بھی دائمی رہے گی۔

(۱۵) دوزخیوں کو آگ کی بیڑیوں میں ایک دوسرے کیساتھ جکڑ دیا جائے گا۔

(۱۶) آتشیں زنجیروں میں جکڑ کر، گلوں میں آگ کا طوق ڈال دیا جائے گا۔

(۱۷) سختی اونٹ کی گردن برابر بچھو، اور بڑے بڑے اتر دے انہیں ڈستے ہوں گے۔ اس قدر بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش ہزار برس رہے۔

(۱۸) دوزخی طرح طرح کی بڑی بڑی دردناک آوازوں سے چیخیں چلائیں گے۔

(۱۹) جان سے عاجز آ کر، باہم مشورہ کر کے، جہنمی کفار، مالک داروغہ، جنت کو پکاریں گے کہ ہمارا قصہ ہی تمام ہو جائے اور موت ہی آجائے اور اس اذیت کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن ان کی شنوائی نہ ہوگی۔ آخر ان کی چیخ پکار پر ہزار برس کے بعد جواب دیں گے کہ مجھ سے کیا کہتے ہو اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔

(۲۰) ہزار برس تک رب العزت کو اس کے رحمت کے ناموں سے پکاریں گے۔ وہ ہزار برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا اور ہو جاؤ۔ جہنم میں پڑے رہو۔ مجھ سے بات نہ کرو، اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے ناامید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتداءً آنسو نکلیں گے۔ جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہو گا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔

(۲۱) جہنمیوں کی شکلیں ایسی کریمہ ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بد صورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں۔

(۲۲) جہنمیوں کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے سے دوسرے تک، تیز سوار کے لئے، تین دن کی راہ ہے۔

(۲۳) ایک ایک دارٹھ، احد کے پیڑ برابر ہوگی۔

(۲۴) کھال کی موٹائی بیالیس ذراع (ہاتھ) ہوگی۔

(۲۵) زبان ایک کوس دو کوس تک منہ سے باہر گھسٹی ہوگی کہ لوگ اسے روندیں گے۔

(۲۶) بیٹھنے کی بگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک (اور وہ بھی اس پر تنگ پڑے گی)

۱۷۳) جہنمی جہنم میں منہ سکڑے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کر، بیچ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آگے گا۔

**فائدہ:** ان مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں، انسانی شکل نہ ہوگی کہ یہ شکل احسن تقویم ہے اور یہ اللہ عزوجل کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب سے مشابہ ہے بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو اوپر مذکور ہوا۔

## عذاب بالائے عذاب

پھر آخر میں کفار کے لئے یہ ہوگا کہ اس کے قدر برابر، آگ کی صندوق میں، اسے بند کریں گے پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل لگائیں گے۔ پھر یہ صندوق، آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں آگ کا قفل لگایا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کو ایک صندوق میں رکھ کر اور آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اور کوئی آگ کے عذاب میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے۔

## یاد دہانی

کافروں کے کفر اور ان کے ہر ایک عمل کے بدلے میں جہنم کی دو عقوبتیں اور سزائیں قرآن و حدیث میں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ ان کے بارے میں اتنا اور ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح جنت کے دودھ، شہد، بہشت کی شراب اور نہروں اور عورتوں کا نام تو وہی دودھ شہد شراب نہر اور عورت ہی ہے مگر وہاں کے دودھ شہد وہاں کی شراب، اور نہروں اور عورتوں کی کیفیت، دنیا کی نہروں، عورتوں اور شراب اور دنیا کے دودھ اور شہد سے بالکل علیحدہ ہے اور اسی بیان پر جنت کی دوسری لذیذ نعمتوں اور بہشت کے لطیف میوؤں کو قیاس کر لیا جائے۔ اسی طرح جہنم میں جو تھوہر کا درخت، اور زنجیریا اور سانپ بچھو وغیرہ ہیں ان کے نام تو یہی تھوہر کا درخت اور زنجیریا اور سانپ بچھو وغیرہ ہیں۔ لیکن دوزخ کے تھوہر کے اور زنجیروں اور سانپ بچھو وغیرہ کی حقیقتیں، دنیا کی زنجیروں اور دنیا کے تھوہر کے درخت اور دنیا کے سانپ بچھو وغیرہ کی ماہیتوں سے بالکل جدا ہیں۔ توجہ نہر پرست، مغرب کی دہریت والی حدیث کا شکار

یہ کہے کہ نہ دوزخ کا کوئی وجود خارجی ہے نہ دوزخ میں سانپ بچھو اور زنجیروں اور تھوہر کے درخت ہیں۔ بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جو کلفت روح کو ہوئی تھی بس اسی روحانی اذیت کا اعلیٰ درجہ پر محسوس ہونا۔ اسی کا نام دوزخ اور بہنم ہے۔ سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمانوں کو ملحد و زندیق بنانا اور انہیں صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اور مصداق ہے۔

”چہ دلا درست دزدے کہ بکت چراغ دارد“ کا۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ

## منافقوں کا مقام

قرآن میں جا بجا ایک ایسے گروہ کا بیان فرمایا گیا ہے جو کہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور تیا مت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن قرآن کریم ہی نے گواہی دی کہ **دَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِينَ**۔ یعنی ان کے دل میں ایمان کا گذر ذرہ برابر نہیں۔ ایمان انہیں چھو بھی نہیں گیا۔ درحقیقت وہ مفسد ہیں مگر اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں۔ وہ راست بازی کو بے وقوفی اور اپنے نفاق کو دانشمندی سمجھتے ہیں۔ راست بازوں کی تحقیر اور ایمان والوں کا تمسخر ان کا شیوہ ہے اور حق کی مخالفت، اہل حق کی تکذیب ان کا دستور، اور قرآن کریم ہی نے فرمایا کہ ان کے نفاق سے نقصان کسی اور کا نہیں۔ خود انہیں کا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ان کے منافقانہ چالوں کا وبال دنیا میں رسوائی، فضیحت اور منافقت کی پردہ پردہ کی صورت پر ان پر پڑے گا اور آخرت میں سخت اور دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ **إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَةِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ**۔ ”بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقہ میں ہیں“ تو منافق کا عذاب، کافر سے بھی زیادہ ہے۔ چونکہ ہر منافق اصلاً کافر ہی ہوتا ہے البتہ وہ اپنے جرم کفر پر، ایک مزید جرم مکر و فریب کا اصابہ کئے ہوئے رہا ہے اور کفر کے باوجود، مسلمانوں کو مغالطہ دینا اس کا شیوہ رہا ہے، اس لئے اسے کھلے ہوئے کافر کے مقابلہ میں سخت سے سخت پر، سزا ملے تو یہ عین تعاضلئے عدل ہے اور منافق اسی کا مستحق۔

## (۱۳) اعراف کا بیان

قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے **وَبَيْنَهُمَا جَبَابٌ** (جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے) یہ پردہ بطور دیوار کے ہے۔ جس کا خاصہ یہ ہو گا کہ نہ جنت کی لذتوں اور نعمتوں کا اثر دوزخ تک پہنچ سکے اور نہ دوزخ

کی سختیوں اور کلفتوں کا اثر جنت تک۔ اسی کا نام اعراف ہے اور یہ آڑ صرف اسی لئے ہوگی کہ ایک مقام کی لذت یا اذیت دوسرے مقام تک نہ پہنچ سکے۔ نظر کے لئے یہ آڑ رکاوٹ نہ بنے گی یعنی اسی نہ ہوگی کہ ایک جگہ کا حال، دوسری جگہ نہ دکھائی دے بلکہ ایک دوسرے کو صرف دیکھنا ہی نہیں قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مخالب بھی ہوں گے۔ باہم ان میں گفتگوئیں بھی ہوں گی۔

بہر حال قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ عَلٰی الْأَعْرَافِ رِجَالٌ ۝ اعراف پر کچھ مرد ہوں گے۔ یہ کس طبقہ کے ہوں گے اس میں اقوال مختلف ہیں اور ظاہر و مشہور تر قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے۔ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں وہ اعراف پر ٹھہرے رہیں گے۔ جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے اور دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے۔ یارب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کر۔ چنانچہ ان کی یہ آرزو پوری کر دی جائے گی اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔

یہی اعراف والے، غریب مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے، ان کافروں سے دجن کی پیشانیوں پر ظلمت و کدورت ہوگی اور ذریعہ شناخت بھی) کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا۔ اب دیکھ لو کہ یہاں انہیں کیسا اعزاز و تکریم کا مقام ملا ہے اور جنت کے دائمی عیش و راحت میں کس عزت و احترام کے ساتھ ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب اعراف والے جنت میں چلے جائیں گے تو دوزخیوں کو بھی طمع دامنگیر ہوگی اور وہ عرض کریں گے یارب جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اجازت فرما کہ ہم انہیں دیکھیں اور ان سے بات چیت کریں۔ اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے اور پہچانیں گے۔ لیکن اہل جنت ان دوزخی رشتہ داروں کو نہ پہچانیں گے کیونکہ دوزخیوں کے منہ کالے ہوئے صویریں بگڑ گئی ہوں گی تو وہ جنتیوں کو نام لے لے کر پکاریں گے۔ کوئی اپنے باپ کو پکارے گا۔ کوئی بھائی کو۔ اور کہے گا میں جل گیا مجھے پانی دو۔ اور تمہیں اللہ نے دیلے۔ ہمیں بھی کھانے کو دو۔ اس پر اہل جنت کہیں گے کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کیا ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا کہ حرام و حلال میں اپنے ہوائے نفس کے تابع ہوئے اور دنیا کی لذتوں میں ڈوب کر، آخرت کو بھول گئے۔ (خزائن العرفان وغیرہ)

## انجام کار

جب سب صفتی، جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لئے اس میں رہنا ہے اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان، موت کو مینڈھے کی طرح لاکر کھڑا کریں گے۔ پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا۔ وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی مل جائے۔ پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو۔ سب کہیں گے۔ ہاں یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دیئے گی اور منادی کہے گا اے اہل جنت ہمیشگی ہے۔ اب مرنا نہیں۔ اور اے اہل نار ہمیشگی ہے اب موت نہیں اس وقت ان کے لئے خوشی پر خوشی ہے اور ان کے لئے غم بالائے غم۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْرَعُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُدَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
فَرْتَبْنَا آيَتَنَا فِي الدُّنْيَا أَحْسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بِجَاهِ  
حَبِيبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْمُحْتَارِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمَاتُ إِلَى  
يَوْمِ الْقَرَارِ

## امامت کا بیان

امامت دو قسم ہے۔ صغریٰ۔ کبریٰ۔

امامت صغریٰ، امامت غازیہ ہے جس کا بیان فقہ کی کتابوں میں ہے۔

امامت کبریٰ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ کا نام ہے۔

یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت اور جانشینی سے مسلمانوں کے تمام دینی و دنیاوی امور میں، شریعت محمدیہ کے احکام کے مطابق، تصرف عام کا مختار ہونا۔ اس تصرف عام کا اختیار رکھنے والا امام المسلمین ہوتا ہے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری، تمام جہاں کے مسلمانوں پر فرض ہے بشرطیکہ وہ معصیت نہ ہو اور اس کا حکم، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ خلاف شرع کسی امر میں، کسی کی اطاعت نہیں۔

اس امام کے لئے: مسلمان۔ آزاد۔ عاقل۔ بالغ۔ قادر اور قرشی ہونا شرط ہے۔ باشمی، علوی۔ معصوم

ہونا اس کی شرط نہیں۔ ان کا شرط کرنا روافض کا مذہب ہے جس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ برحق امرائے مومنین: دائدہ مسلمین، خلفائے ثلاثہ ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خلافت سے جدا کر دیں۔ حالانکہ ان کی خلافتوں پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع ہے۔ خود مولیٰ علی کریم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم و حضرات حسنین کریمین (امام حسن و امام حسین) رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کی خلافتیں تسلیم کیں اور انہیں اپنا خلیفہ مانا۔

اور علویت کی شرط نے مولیٰ علی کو بھی خلیفہ ہونے سے خارج کر دیا۔ مولیٰ علی، علوی کیسے ہو سکتے ہیں رہی عصمت، تو یہ انبیاء و ملائکہ کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا روافض کا مذہب اور گمراہی و بددینی ہے۔ مسلمان کسی کے بہکائے میں نہ آئیں۔

محض مستحق امامت ہونا۔ امام ہونے کے لئے کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اصل و عقد نے اسے امام مقرر کیا ہو جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی امامت یا امام سابق نے جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ جنہیں حضرت صدیق اکبر نے مقرر فرمایا۔ امام ایسا شخص مقرر کیا جائے جو شجاع اور عالم ہو یا علماء کی مدد سے کام کرے۔



## عقائد متعلقہ

(۱) نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے بعد خلیفہ برحق و امام مطلق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم۔ پھر حضرت عثمان غنی۔ پھر حضرت مولیٰ علی۔ پھر چھ مہینے کے لئے حضرت امام حسن مجتبیٰ خلیفہ ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی سچی نیابت کا پورا حق ادا فرمادیا۔

(۲) منہاج نبوت پر خلافت راشدہ حقہ تیس سال رہی کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کے چھ مہینے پر ختم ہو گئی۔ پھر امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، راشدہ ہوئی اور آخر زمانہ میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہوں گے۔

(۳) بعد انبیاء و مرسلین، تمام مخلوقات الہی، انس و جن و ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ پھر عمر فاروق اعظم۔ پھر عثمان غنی۔ پھر مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو شخص مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو، صدیق یا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل بتائے گمراہ بد مذہب ہے کہ اس نے جمہور اہلسنت کا خلاف کیا۔

(۴) افضل کے یہ معنی ہیں کہ اللہ عزوجل کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو۔ اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی اعمال خیر پر، جزائے عظیم اگرچہ ان کی مقدار قلیل ہو۔ نہ کہ شرافت نسبی درجہ لازم ہے کہ نبی کا بیٹا، اس نبی سے افضل ہو جس کا باپ نبی نہ تھا۔ اور نہ طاعات ظاہرہ کی کثرت، کہ ثواب کا دار و مدار، طاعات کی مقدار پر نہیں۔ اس لئے کہ ہمارا کوہ احد کے برابر سونا، راہ مولیٰ میں خرچ کرنا صحابہ کرام کے ایک مدد بلکہ اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچتا۔ اور نہ کثرت اجراء کہ بارہا منفضول کے لئے ہوتی ہے۔ حدیث میں ہمراہیان سیدنا امام مہدی کی نسبت آیا کہ ان میں سے ایک ایک کے لئے پچاس کا اجر ہے صحابہ نے عرض کیا، ان میں سے پچاس کا یا ہم میں سے؟ فرمایا، "بلکہ تم میں سے؟" تو اجر ان کا زائد ہوا۔ مگر فضیلت میں وہ صحابہ کے ہمسر بھی نہیں ہو سکتے۔ زیادت درکنار۔ کہاں امام مہدی کی رفاقت اور کہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت۔ اس کی نظیر بلا تشبیہ یوں سمجھے کہ سلطان نے کسی ہم پر وزیر اور دیگر افسروں کو بھیجا اس کی فتح پر ہر افسر کو لاکھ لاکھ روپے انعام دیئے اور وزیر کو خالی پروانہ خوشنودی مزاج دیا تو انعام انہیں کو زیادہ ملا مگر کہاں وہ اور کہاں وزیر اعظم کا اعزاز۔

اور نکتہ اس میں یہ ہے کہ تمام اعمال خیر کی اصل ہے۔ عمل میں اخلاص۔ حق سبحانہ کی محبت اور اس کی بارگاہ میں دوام حضور۔ اور یہ امور باطنہ ہیں تو کثرت ثواب کا علم نہیں ہو سکتا جب تک شرع مطہرہ بیان نہ فرمائے۔ اور اس میں نہ عقل کا دخل ہے نہ مناقب ظاہرہ کا۔ یہ بات خوب ذہن نشین کر لیں۔ روافض نابکار کے بہت سے دوسووں سے نجات ملے گی۔ اور اس کی موید ہے وہ حدیث شریف جس میں فرمایا وَلٰكِنْ بَشْتَىٰ دُخْرًا فِي قَلْبِهِ۔ یعنی صدیق کو تم پر فضیلت کثرت صوم و صلوٰۃ کے باعث نہیں بلکہ اس چیز کے باعث ہے جو ان کے دل میں جاگزیں کی گئی۔ یعنی اخلاص عمل اور حق کی کما حقہ بلا تامل طرفداری اور صدیق تو صدیق اسی لئے ہیں کہ آپ نے بلا توقف اسلام قبول کیا۔ اور لوگوں کے شدت انکار کے باوجود واقعہ معراج کی بلا تردد تصدیق کی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه عننا۔

(۵) ان کی خلافت، برترتیب فضیلت ہے یعنی جو عند اللہ افضل و اعلیٰ و اکرم تھا وہی خلافت پاتا گیا۔ نہ کہ افضلیت برترتیب خلافت۔ یعنی یہ افضلیت ملک داری و ملک گیری میں زیادہ سلیقہ کے باعث نہیں۔ یوں ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہوتے کہ ان کی خلافت کو فرمایا لَمَّا اَدْبَقَتْ يَأْيُهَا يَغْرِي كَفَرِيَه حَتَّىٰ صَرَبَ النَّاسُ بِعِطِينِ۔ میں نے کسی قوس الجبہ کو اس طرح پانی کھینچتا نہیں دیکھا۔ جیسا عمر نے کھینچا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو بٹھانے کی جگہ ٹھیک ٹھاک کر لی اور صدیق اکبر کی خلافت کو فرمایا فِي نَزْعِهِ صُغْفٌ وَاَللّٰهُ يَخْفِرُ بِهِ۔ ان کے پانی کھینچنے میں کچھ کمزور تھی اللہ انہیں مغفرت سے نوازے۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ صدیق اکبر کی مدت خلافت قلیل ہوگی۔ اور عمر فاروق کا زمانہ خلافت طویل اور لوگ اس دور میں کثیر منافع حاصل کریں گے۔

## فائدہ مہمہ

امام کا مقرر کرنا کہ مسلمانوں کے تمام دینی و دنیاوی امور میں، شریعت مطہرہ محمدیہ کے احکام کے مطابق تصرف فرمائے، ہر مہم سے زیادہ مہم ہے۔ تمام انتظام دین و دنیا اسی سے متعلق ہے اسی لئے تمام اجلہ صحابہ کرام نے سب سے پہلے اس کی طرف توجہ فرمائی اور تقرر امام کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر مقدم رکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنازہ انور اگر قیامت تک رکھا رہتا

اصلاً کوئی خلل محتمل نہ تھا۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اجسام ظاہر اُگرتے نہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام بعد انتقال ایک سال کھڑے رہے سال بھر بعد دفن ہوئے۔ جنازہ مبارکہ حجرہ ام المؤمنین صدیقہ میں تھا جہاں اب مزار النور ہے۔ اس سے باہر لے جانا نہ تھا۔ چھوٹا سا حجرہ اور تمام صحابہ کو اس نماز اقدس سے مشرف ہونا۔ ایک ایک جماعت آتی اور پڑھتی اور باہر جاتی پھر دوسری آتی۔ پہلے کنبہ والوں نے، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، مردوں نے اور عورتوں نے، پھر بچوں نے ادا کی۔ یہ سلسلہ لگاتار شب و روز جاری رہا اور تیسرے دن ختم ہوا۔ اگر تین برس میں ختم ہوتا تو جنازہ اقدس تین برس یوں رکھا رہتا تھا کہ اس وجہ سے تاخیر دفن اقدس ضروری تھی۔ باطل پرستوں کے نزدیک یہ اگر خلافت کے لالچ کے سبب تھا تو سب سے سخت تر الزام امیر المؤمنین مولیٰ اعلیٰ پر ہے۔ یہ تو لالچی نہ تھے اور کفن کا انتظام گھر والوں ہی سے متعلق ہوتا ہے۔ یہ کیوں تین دن، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ انہوں نے یہ کام انجام دیا ہوتا۔ یہ کھپلی خدمت بجالائے ہوتے۔ تو معلوم ہوا کہ اعتراض ملعون ہے۔ اور جنازہ النور کا دفن نہ کرنا۔ اور امام المسلمین کے تقرر کی جانب متوجہ ہونا یہی مصلحت دینی تھا جس پر علی مرتضیٰ اور سب صحابہ نے اجماع کیا۔ فرضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رضام غنا۔

(۶) خلفائے اربعہ راشدین کے بعد۔ بقیہ عشرہ مبشرہ و اصحاب حنین و اصحاب بدر و اصحاب بیعتہ الرضوان کے لئے فضیلت ہے اور یہ سب قطعی جنتی ہیں۔

## عشرہ مبشرہ

صحابہ کرام میں وہ دس اصحاب کبار جن کے قطعی جنتی ہونے کی خبر، صادق و مصدوق صلے اللہ علیہ وسلم نے دی اور جیتے جی جنہوں نے جنت کا بشری پایا وہ یہ ہیں۔

خلفائے اربعہ۔ حضرت طلحہ۔ حضرت زبیر۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سعید بن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

## خلفائے راشدین

(۱) خلیفہ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد

خليفة برحق و امام مطلق ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ اور لقب صدیق و عتیق ہے۔ حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے دو سال چند ماہ بعد، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اپنی قوم کے بڑے متمول اور صاحب عزت و ثروت تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ سولہ برس کی عمر میں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پکڑے کہ عمر بھر نہ چھوڑے۔ اب بھی پہلوئے اقدس میں آرام کرتے ہیں۔ روز قیامت، دست بدست حضور اٹھیں گے سایہ کی طرح داخل خلد برس ہوں گے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے فوراً بے تامل اسلام لائے۔ ایک۔ آن ایک لمحہ کو ہرگز ہرگز منصف بکفر نہ ہوئے ہمیشہ توحید خالص پر قائم رہے اور اسلام لا کر فوراً اپنا اسلام سب پر ظاہر و آشکار کر دیا۔ بدستیں فرمائیں کہ کفار کے ہاتھوں سے اذیتیں پائیں مگر حق کا دامن نہ چھوڑا۔ اسلام سے منہ نہ موڑا۔ خود سیدنا مولیٰ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرماتے ہیں ”بے شک ابوبکر چار باتوں کی طرف سبقت لے گئے کہ مجھے نہ ملیں۔ انہوں نے مجھ سے پہلے اسلام آشکارا کیا۔ اور مجھ سے پہلے ہجرت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہوئے۔ اور نماز قائم کی اس حالت میں کہ میں ان دنوں گھروں میں تھا۔ وہ اپنا اسلام ظاہر کرتے اور میں چھپاتا تھا۔ (دارقطنی وغیرہ) اسلام کے لئے آپ کی خدمات اسی وقت سے گویا وقف تھیں جب ملت بظاہر حالات غایت ضعف و پستی میں تھی اور امت ہر طرف سے نرغہ اعداء میں گھیری ہوئی۔ جلیل القدر صحابی بڑی تعداد میں آپ ہی کی سعی و تبلیغ سے ایمان لائے۔

اور احادیث حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم و آثار صحابہ کرام و اہلبیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت کہ آپ کا اسلام، سب کے اسلام سے افضل اور ان کا ایمان، تمام امت کے ایمان سے اتزید و اکمل ہے۔ آپ کی شان میں بکثرت آیات و احادیث وارد ہیں جن سے آپ کے فضائل جلیلہ معلوم ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ابوبکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد جب مسئلہ خلافت درپیش ہوا تو باتفاق رائے آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آپ کا زمانہ خلافت مسلمانوں کے لئے ظل رحمت ثابت ہوا، جمادی الاخریٰ ۳ھ روز دوشنبہ کو آپ نے غسل فرمایا۔ دن سرد تھا۔ بخار آگیا۔ آخر کار ۱۵ روز کے

علاقت کے بعد ۲۲ جمادی الاخریٰ شب سہ شنبہ کو ۶۳ سال کی عمر میں آپ نے رحلت فرمائی۔  
فرائض خلافت دو سال اور سات ماہ کے قریب انجام دیئے۔

## یاد رکھنا چاہیے کہ

(۱) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے جو لوگ مشرف باسلام ہوئے ان میں سے کسی صحابہ عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔

(۲) یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنے مال سے حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ جیسے سات قدیم الاسلام بزرگوں کو، کفار کی غلامی سے آزاد کرایا تھا۔

(۳) یہی شب ہجرت کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھے۔

(۴) انہیں کا ذکر لہنا جبہ کے الفاظ میں صراحت کے ساتھ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔

(۵) انہیں کو جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ عریش میں ٹھہرایا تھا۔

(۶) انہیں کو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے، غزوہ تبوک میں جب سب سے زیادہ فوج کا اہتمام ہوا۔ نشان اعلیٰ عطا فرمایا تھا۔

(۷) انہیں کو صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرضیت حج کے بعد، پہلے ہی سال میں، امیر الحج مقرر فرمایا تھا۔

(۸) انہیں کو سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض و وفات شریف میں، اپنی جگہ، امام نماز مقرر فرمایا تھا حالانکہ مولیٰ علی روبرو تشریف فرما رہتے۔

(۹) یہی سب سے پہلے خلیفہ رسول اللہ، خلیفہ المسلمین کہلاتے اور حضور کے خلیفہ منتخب کئے گئے۔

(۱۰) انہیں کے انتظام سے جھوٹے مدعیان نبوت اپنے انجام کو پہنچے۔

(۱۱) انہیں کے انصرام میں مانعین زکوٰۃ کا فتنہ فرو ہوا۔

(۱۲) انہیں کے حکم سے قرآن پاک صحیفہ واحد میں لکھا گیا اور مصحف کے نام سے موسوم ہوا۔

(۲) خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا اسم گرامی عمر کینیت

ابو حفص اور لقب فاروق ہے۔ آپ عام فیل کے تیرہ برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ بھی اشراف قریش سے ہیں

نبوت کے چھٹے سال ۲۷ برس کی عمر میں مشرف باسلام ہوئے۔ آپ چالیسویں مسلمان ہیں۔ اسی واسطے آپ کا نام **مُتَمِّمُ الْأَرْبَعِينَ** ہے یعنی چالیس مسلمانوں کے پورا کرنے والے۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ**۔ اے نبی تجھ کو کافی ہے اللہ اور اس قدر لوگ جو اب تک مسلمان ہو گئے؛ کفار نے جب سنا تو کہا آج ہم اور مسلمان آدھوں آدھ ہو گئے۔ جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر ہوتے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم حضور کو خوشخبری ہو۔ آج آسمانوں پر عمر کے اسلام لانے کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ادھر یہ گھر سے نکلے جوش میں بپھرے، ننگی تلوار لئے اور قسم کھائی کہ جب تک اپنا مقصد پورا نہ کر لوں گا۔ اسے نیام نہ کر دے گا۔ اور جب درددلت پر پہنچے تو عظمت نبوت سے تھرا گئے۔ فوراً کلمہ شہادت پڑھا۔ یہ دیکھتے ہی مسلمانوں نے خوش ہو کر یاد از بلند تکبیریں کہیں جن سے پہاڑ گونج اٹھے، اسلام لانے کے بعد، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کو ہمراہ لے کر اعلان و شوکت کے ساتھ، مسجد حرام میں داخل ہوئے آپ کے اسلام لانے سے اسلام کی قوت و شوکت بڑھی۔ مسلمان نہایت مسرور ہوتے اور کافروں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔

آپ کے فضائل بہ کثرت احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر کی توفیر کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان ان کے خون سے لرزتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس سے بری دبیرا ہوں جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر بدی کے ساتھ کرے۔ ترمذی و حاکم کی صحیح حدیث میں وارد کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ممکن ہوتا تو عمر ہوتے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عساکر کی حدیث میں ہے کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی توفیر کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان ان کے خون سے لرزتا ہے۔ طبرانی نے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ابو اسامہ فرماتے ہیں جانتے ہو ابو بکر و عمر کون ہیں؟ یہ اسلام کے پدر و مادر ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیماری میں حضرت مولیٰ علی اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورہ سے آپ کو اپنے بعد خلافت کے لئے نامزد کیا۔

ماہ جمادی الاخری ۳۰ھ میں آپ نے امور خلافت کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا اور دس سال

چند ماہ امور خلافت کو انجام دیا۔ اس دس سالہ خلافت کے ایام میں دنیا بدل و داد سے بھر گئی۔ اسلام کے برکات سے عالم فیض یاب ہوا۔ فتوحات بکثرت ہوئیں اور ہر طرف اسلام کا پرچا ہونے لگا۔ ذی الحجہ ۲۳ھ کے اواخر میں آپ ابو لؤلؤہ مجوسی کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور روضہ النور میں پہلے صدیق میں دفن ہوئے آپ کی عمر شریف ۶۳ سال تھی۔

(۳) خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ام گرامی عثمان، ابو عمر و کنیت اور ذوالنورین لقب ہے۔ یہ سابقین اولین میں سے ہے۔ یہ ان دس میں سے ہیں جنہیں نام بنام جنت کی بشارت ملی نیز ان چھ میں سے ہیں جنہیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وصیت میں شایان خلافت ٹھہرایا تھا۔ شنبہ ۲۴ھ محرم الحرام ۲۴ھ کو خلیفہ اور امیر المومنین ہوئے۔

آغاز بعثت ہی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر اسلام لائے۔ اور غیر تو غیر اپنوں کے ہاتھوں بڑے صدمے اٹھائے تھے۔ حضرت عثمان ابتداء ہی سے حیا۔ حسن صورت و سیرت۔ اور دانائی و نرم مزاجی میں مشہور اور قریش میں ہر دل عزیز اور خوش خلقی۔ عبادت، تقویٰ اور فی سبیل اللہ مال صرف کرنے میں نہایت ممتاز تھے۔

مشرکین مکہ نے جب اذیت پہنچانی شروع کی تو آپ مع اپنی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبش کی طرف ہجرت کر گئے بلکہ کہنا چاہیے کہ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے جس نے اہل و عیال کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی وہ آپ ہی تھے۔ اور یہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بڑی وقیع تھی۔ آپ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور پھر حضرت ام کلثوم آئیں۔ آپ کے سوادنیا میں کوئی اور ایسا شخص نظر نہیں آتا جس نے یہ عظیم شرف پایا ہو کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی دو صاحبزادیاں آئی ہوں۔ اسی لئے ذی النورین اس کا لقب ہوا۔ تمام غزوات میں بجز بدر کے آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ بدر کے موقع پر چونکہ حضرت رقیہ سخت بیمار تھیں اس لئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لئے آپ کو چھوڑ گئے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت سے آپ کو بھی حصہ عنایت فرمایا اور شکر کا، جنگ میں ان کو شمار فرمایا۔

عمرہ حدیبیہ کے موقع پر آپ سفر بنا کر بھیجے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لشکر اسلامی میں یہ خبر پھیل

گئی کہ قریش نے حضرت عثمان کو قتل یا قید کر دیا ہے۔ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے سرو سامان جمعیت مسلمین سے جان نثاری کی بیعت لی کہ اگر لڑنا بھی پڑا تو ثابت قدم رہیں گے۔ اس بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو، عثمان کا داہنا ہاتھ قرار دیا اور ان کی جانب سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی۔

جیشِ عُسْرَة (بے سرو سامان لشکر جو تبوک پر جہاد کے لئے تیار کیا گیا تھا اس) کی امداد کے لئے ایک ہزار اونٹ، پچاس گھوڑے اور ایک ہزار درہم دیئے۔ بیئر رومہ، جو یہودیوں کی ملک میں بیٹھے پانی کا ایک چشمہ تھا اس کو بیس ہزار درہم پر خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کیا اور جنت خریدی۔ ۲۶ھ میں کعبہ معظمہ کے اردگرد کے مکانات خرید کر، مسجد حرم کو بڑھایا۔ اسی طرح ۲۹ھ میں مسجد نبوی میں اضافہ کیا۔ آپ کے فضائل میں بہ کثرت احادیث وارد ہیں جن سے آپ کی شان اور بارگاہ رسالت میں آپ کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ روز اسلام سے روز وفات تک کوئی جمعہ ایسا نہ گذرا کہ آپ نے کوئی غلام آزاد نہ کیا ہو۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخر عہد میں ایک جماعت مقرر فرما دی تھی اور خلیفہ کا انتخاب شورعی پر چھوڑا تھا۔ کثرت رائے آپ کے حق میں ہوئی اور آپ باتفاق رائے خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دفن کے تین روز بعد آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی گئی۔ ۱۲ سال امور خلافت انجام دے کر جمعہ ۱۷ ذی الحجہ ۳۵ھ میں باغیوں کے ہاتھوں شہادت پائی۔ عمر شریف ۱۳ سال کی ہوئی۔ مزار شریف جنت البقیع میں ہے۔

(۴) خلیفہ چہارم حضرت مولیٰ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ -

آپ کا نام نامی علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ نو عمروں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ حضرت مولیٰ علی نے حضور مولیٰ الکل سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے کنار اقدس میں پرورش پائی۔ حضور کی گود میں ہوش سنبھالا آنکھ کھلتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا۔ حضور ہی کی باتیں سنیں۔ عادتیں سیکھیں۔ اعلان نبوت کے وقت آپ کی عمر شریف ۸ سال کی تھی۔ آپ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں یعنی ابو طالب کے بیٹے۔ ہجرت سے تقریباً پانچ ماہ بعد مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کر دیا۔ عمر شریف اس وقت ۲۱ سال ۵ ماہ تھی اور حضرت



فاطمہ الزہراء کی اٹھارہ سال ۶ ماہ تھی۔

سوائے جنگ تبوک کے باقی تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کاب رہے اور بے نظیر شجاعت کا اظہار کیا۔ سخت سے سخت معرکہ میں بھی ان کے پائے ثبات کو لغزش نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر عہد نامے اور خطوط آپ ہی لکھتے تھے۔ فقہ میں آپ کا پایہ بہت بلند تھا۔ فطری طور پر آپ میں ہاشمی فہم و ذکاوت اور اصابت رائے و ذہانت تھی۔ پھر حضور کی صحبت میں رہے اور قرآنی تفقہ سیکھا۔ ان وجوہات سے احکام دینی کے استنباط صحیح کا بے نظیر ملکہ ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ خلفائے سابقین، خاص کر حضرت عمر فاروق اعظم آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے اور کسی دینی مسئلہ میں جب اختلاف واقع ہوتا تھا تو بیشتر انہیں کی رائے کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔

فصاحت و بلاغت میں آپ بے مثل تھے۔ اسی طرح زہد۔ ترک دنیا۔ ایثار و رضا جوئی، حق عبادت و ریاضت، کمال علم و حکمت میں صحابہ میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کی ہیبت و دبذبہ سے کج بھی جواں مردان شیر دل کانپ جاتے ہیں۔ کمر وڑوں اولیائے کرام آپ کے چشمہ علم و فضل سے سیراب ہو کر، دوسروں کی رشد و ہدایت کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سادات کرام اور اولاد رسول اللہ السلام کا سلسلہ پروردگار عالم نے آپ سے جاری فرمایا۔ آپ کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے حق میں بہت سی آیتیں نازل ہوئیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ کا دیکھنا عبادت ہے۔

امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دوسرے روز، مدینہ طیبہ میں تمام صحابہ کرام نے جو وہاں موجود تھے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ ۳۶ھ میں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا اور صفر ۳۷ھ میں جنگ صفین ہوئی جو ایک صلح پر ختم ہوئی۔ اس وقت خار جیوں نے سرکشی کی اور آپ نے ان کا قلع قمع فرمایا۔ ابن بطم خار جی نے جمعہ مبارک ۱۷ رمضان المبارک ۳۷ھ میں آپ کو شہید کر دیا۔ آپ نے تقریباً ۶۵ سال کی عمر پائی اور ۴ سال ۹ ماہ امور خلافت کو انجام دیا۔

## ضروری تنبیہ

اہل تشیع نے اپنی اذان وغیرہ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کلمہ خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل کہنا اختیار کیا ہے۔ یہ کلمہ مبغوضہ خالص تبرا ہے اور اس کا سننا، سنی کے لئے

بمنزلہ تبرائسنے کے نیس بلکہ حقیقۃً تبرائسناسے۔ والعیاذ باللہ رب العلمین۔ اس کلمہ جبیشہ میں بالتقریح حضرات خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خلافت راشدہ کی نفی ہے۔ اور اس نفی کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مسند نشین نہ ہوئے کہ ان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تخت خلافت پر جلوں فرمانا، فرمان و احکام جاری کرنا، نظم و نسق ممالک اسلامیہ، اور تمام امور ملک و مال، و رزم و بزم کی باگیں اپنے دست حق پرست میں لینا وہ تاریخی واقعہ مشہور متواتر اظہر من الشمس ہے جس سے دنیا میں موافق مخالف، یہاں تک کہ نصاریٰ دیہود و مجوس و ہنوز۔ کسی کو انکار نہیں۔ بلکہ ان مجبان خدا و نوابان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روافض کو زیادہ عداوت کا سبب یہی ہے کہ ان کے زعم باطل میں، استحقاق خلافت، حضرات مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسنی میں منحصر تھا۔ جب حکم الہی خلافت راشدہ اول ان تین سرداران مومنین کو پہنچی، روافض نے انہیں معاذ اللہ مولیٰ علی کا پھیننے والا ٹھہرایا۔ تو لاجرم لفظ بلا فصل میں جو نفی ہے، اس سے مراد، لیاقت و استحقاق کی نفی ہے تو اس مجمل لفظ میں غضب و ظلم و انکار حق و اصرار باطل، وغیرہ وغیرہ ہزاروں طعن موجود ہیں اور یہی تبرائسناسے (الادلة الطاعنة ملخصاً)

## تفصیل شیخین و حرب الختین

خلفائے اربعہ راشدین میں خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین۔ اور خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ چہارم حضرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو ختین کہتے ہیں۔

اور یہ اس لئے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عمر فاروق اعظم کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما کر انہیں ازواج مطہرات اور اہبات المومنین میں داخل فرمایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ اور یہ وہ شرف ہے جس نے حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شیخ و بزرگ ترو معزز تر بنا یا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازراہ عنایت اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ

عنا کو حضرت مولیٰ علی کے عقد نکاح میں دیا۔ اس نسبت سے یہ دونوں حضرات تختین کہلاتے ہیں اور وہ دونوں شیخین۔ ختن کے معنی داماد ہیں اور شیخ بمعنی خسر۔ لیکن شیخین کو حضور کا خسر اور تختین کو حضور کا داماد کہنا سخت ممنوع اور خلاف تعظیم ہے کہ یہ دونوں الفاظ (خسر و داماد) اردو محاورہ میں سب و شتم (گالی گلوچ) کے موقع پر بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔ اس کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ بلکہ بعض علماء کرام نے اسے کفر میں شمار فرمایا۔ (سراج العوارف وغیرہ)

تو کہنا یہ ہے کہ جس طرح خلفائے راشدین کو تمام صحابہ کرام پر برتری و فضیلت حاصل ہے یوں ان چاروں میں سے شیخین کو تختین پر فضیلت دنیا، اور ان دونوں کو ان دونوں سے افضل جاننا علامات مذہب اہلسنت سے ہے۔ یہی حق ہے اور اسی پر جمہور صحابہ کرام کا اجماع ہے جیسا کہ مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا جو مجھے ابو بکر و عمر پر تفضیل دے گا وہ میرے اور تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا منکر ہوگا (ابن عساکر) اللہ عزوجل کی بے شمار رحمت و رضوان و برکت امیر المومنین مولیٰ علی حیدر، حق گو، حق داں، حق پرور کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسبغی پر ہے کہ اس جناب نے، اپنے دور خلافت میں، برسہا برس یہ حکم و اشکات و مفسرے بے احتمال دگر، روشن و ابین طور پر حضرات شیخین کریمین و وزیرین جلیلین کو تمام امت مرحومہ سید لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل و بہتر ارشاد کیا جس میں کسی طرح کا شائبہ شک تردید نہ رہا۔ مخالف مسئلہ کو مفتری بتایا اور اسے اسی کوڑے کا مستحق ٹھہرایا۔ ان اقوال کے راوی، اسی سے زیادہ صحابہ و تابعین ہیں۔ اور یہی طریقہ مرضیہ تھا ان کی اولاد امجاد کا۔ چنانچہ ایک شخص نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت انور میں حاضر ہو کر عرض کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر و عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کا کیا مرتبہ تھا۔ فرمایا جو مرتبہ ان کا ہے کہ حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ (امام احمد)۔ امام دارقطنی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں کہ حضرت بتول زہرا کی اولاد و امجاد کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حق میں وہ بات کہیں جو سب سے بہتر ہو۔ ظاہر ہے کہ سب سے بہتر بات جس سے ان کے اوصاف کا اظہار ہو (غایۃ التحقیق)

## تذکارِ یارانِ علیؑ بزبانِ علیؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہم

نزال بن سبرہ فرماتے ہیں ایک دن ہم نے امیر المؤمنین مولیٰ علیؑ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو خوش دل پایا۔ عرض کی "یا امیر المؤمنین اپنے یاروں کا حال ہم سے بیان کیجئے" فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ میرے یار ہیں۔ ہم نے عرض کی "اپنے خاص یاروں کا تذکرہ کیجئے" فرمایا۔ "رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی صحابی نہیں کہ میرا یار نہ ہو" ہم نے عرض کی "ابوبکر صدیق کا حال بیان کیجئے" فرمایا "یہ وہ صاحب ہیں کہ اللہ عزوجل نے جبریل امین و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان کا نام صدیق رکھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارے دین (نماز جیسے شعار اسلام) کی امامت کو پسند فرمایا تو ہم نے اپنی دنیا میں بھی انہیں کو پسند کیا۔" ہم نے عرض کی "عمر بن خطاب کا حال بیان فرمایا" یہ وہ صاحب ہیں جن کا نام اللہ عزوجل نے فاروق رکھا۔ انہوں نے حق کو باطل سے جدا کر دیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے سنا کہ "الہی عمر بن خطاب کے سبب اسلام کو عزت دے" ہم نے عرض کی "عثمان کا حال کیجئے۔ فرمایا "یہ وہ صاحب ہیں کہ ملاء اعلیٰ و بزم بالا میں ذی النورین پکارے جاتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شاہزادیوں کے شوہر ہوتے۔ سرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت میں ایک مکان کی ضمانت فرمائی ہے۔ (الامن والعلی بحولہ ابن عساکر و ابو نعیم وغیرہما)

ایک اور حدیث طویل میں فرمایا "کئی دن رات حضور کو مرض میں گزرے۔ موزن آتا۔ نماز کی اطلاع دیتا۔ حضور ابوبکر کو امامت کا حکم فرماتے حالانکہ میں کہیں غائب نہ تھا۔ اور خدا کی قسم ازواج مطہرات سے ایک بی بی نے اس معاملہ کو ابوبکر سے پھیرنا چاہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مانا اور غضب کیا اور فرمایا "تم وہی یوسف والیاں ہو۔ ابوبکر کو حکم دو کہ امامت کرے" پس جبکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، ہم نے اپنے کاموں میں نظر کی تو اپنی دنیا یعنی خلافت کے لئے سے پسند کر لیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کے لئے پسند فرمایا تھا کہ نماز تو اسلام کی بزرگی اور دین کی درستی تھی۔ لہذا ہم نے ابوبکر صدیق سے بیعت کی اور وہ اس کے لائق تھے۔ ہم میں سے کسی نے اس بارہ میں خلافت نہ کیا" یہ سب کچھ ارشاد کر کے حضرت مولیٰ کرم اللہ

تعالیٰ وجہ الاثنیٰ نے فرمایا۔ "پس میں نے ابو بکر کو ان کا حق زیا اور ان کی اطاعت لازم جانی اور ان کے ساتھ ہو کر ان کے لشکروں میں جہاد کیا۔ جب وہ بیت المال سے کچھ دیتے۔ میں لے لیتا۔ اور جب مجھے لڑائی پر بھیجتے میں جاتا۔ اور ان کے سامنے اپنے تازیانہ سے حد لگاتا۔ پھر بعینہہ یہی مضمون امیر المؤمنین فاروق اعظم و امیر المؤمنین عثمان غنی کی نسبت ارشاد فرمایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین (غایۃ المحقق بحوالہ ابن عساکر دارقطنی وغیرہما)

## غشترہ ہیشترہ کے حق میں ایک اور حدیث شریف

جب امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو لولود مجوسی جبلیٹ نے نیزہ مارا اور امیر المؤمنین نے شورعی کا حکم دیا کہ میرے بعد عثمان غنی، علی مرتضیٰ و طلحہ و زبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم، چھ صاحبوں سے مسلمان جسے مناسب تر جانیں خلیفہ بنائیں، تو حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خدمت امیر المؤمنین میں آئیں اور کہا، اے میرے باپ میرے بعض لوگ کہتے ہیں یہ چھ شخص پسندیدہ نہیں۔

امیر المؤمنین نے فرمایا مجھے تکیہ لگا کر بٹھا دو۔ بٹھائے گئے تو ارشاد فرمایا۔

(۱) علی کی شان میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا "اے علی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں لا۔ تو روز قیامت میرے ساتھ میرے درجہ میں داخل ہوگا۔

(۲) بھلا عثمان کی شان میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس دن عثمان انتقال کرے گا۔ آسمان کے فرشتے اس پر نماز پڑھیں گے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فضیلت خاص عثمان کے لئے ہے یا ہر مسلمان کے لئے۔ فرمایا "خاص عثمان کے لئے۔"

(۳) طلحہ بن عبید اللہ کو کیا کہیں گے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ، پشت مرکب سے گر گیا تھا۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا "کون ہے کہ میرا کجاوہ ٹھیک کر دے اور جنت لے۔" یہ سنتے ہی طلحہ دوڑے اور کجاوہ درست کر دیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ان سے ارشاد فرمایا "اے طلحہ یہ جبرئیل ہیں تجھے سلام کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں قیامت کے ہولوں میں تمہارے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ ان سے تمہیں نجات دوں گا۔"

زبیر بن عوام کو کیا کہیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور آرام فرماتے تھے زبیر بیٹھے پنکھا جھلتے رہے۔ یہاں تک کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے۔ فرمایا اے ابو عبد اللہ (زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے) کیا جب سے تو جہل رہا ہے؟ عرض کی میرے ماں باپ حضور پر نثار۔ جب سے برابر جہل رہا ہوں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہ جہل یہ ہیں تجھے سلام کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں روز قیامت تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہاں تک کہ تمہارے چہرے سے جہنم کی اڑتی چنگاریاں دور کر دیں گا۔“

سعید بن ابی وقاص کو کیا کہیں گے۔ میں نے روز بدر دیکھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ بار ان کی کمان چلہ باندھ کر انہیں عطا کی اور فرمایا، تیرے قربان میرے ماں باپ؟“ عبدالرحمن بن عوف کو کیا کہیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تشریف فرما تھے۔ دونوں صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھوکے روتے بلکتے تھے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کون ہے کہ کچھ ہماری خدمت میں حاضر کرے؟“ اس پر عبدالرحمن بن عوف عیس رکھ پھور اور بنیر کو باریک کوٹ کر گھی میں گوندھتے ہیں) اور دو روٹیاں کہ ان کے زچ میں روغن رکھا بھالے کر حاضر ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تیرے دنیا کے کام درست کر دے اور تیری آخرت کے معاملہ کا تو میں ذمہ دار ہوں (الامن والعلی)

## اصحابِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے سالِ حدیبیہ یعنی ذی قعدہ ۶ سنہ میں مکہ معظمہ کا قصد فرمایا۔ تقریباً ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام ہمراہ تھے۔ سامانِ جنگ کوئی ساتھ نہ تھا۔ قربانی کے جانور ساتھ تھے اور سفر بھی ماہِ ذی قعدہ میں کیا جس میں عرب، قدیم رواج کی پابندی سے جنگ ہرگز نہ کیا کرتے تھے۔ ذوالحلیفہ میں پہنچ کر آپ نے عمرہ کا احرام باندھا جس سے صاف ظاہر تھا کہ آپ کا جنگ کا ارادہ نہیں ہے جب مکہ ۱۹ میل رہ گیا تو آپ نے مقامِ حدیبیہ سے قریش کے پاس اپنے آنے کی اطلاع بھیج دی اور آگے بڑھنے کی اجازت بھی ان سے چاہی۔ کفار قریش کی جانب سے تفتیشِ احوال کے لئے کسی شخص آئے اور سب نے جا کر سہی بیان کیا کہ حضور عمرہ کے لئے تشریف لائے ہیں جنگ کا ردہ

نہیں ہے۔ لیکن انہیں یقین نہ آیا، آخر کار انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو، جو طائف کے بڑے سردار اور عرب کے نہایت متمول شخص تھے تحقیق حال کے لئے بھیجا۔ انہوں نے آکر دیکھا کہ صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی شیفتگی رکھتے ہیں اور واپس جا کر، قریش سے بیان کیا کہ مجھے بارہا نجاشی (بادشاہ حبش) قیصر (بادشاہ قسطنطنیہ) اور کیسری (بادشاہ ایران) کے دربار میں جانے کا اتفاق ہوا ہے مجھے کوئی بھی ایسا بادشاہ نظر نہ آیا جس کی عظمت، اس کے دربار والوں میں کے دل میں ایسی ہو جیسی اصحاب محمد کے دل میں، محمد کی ہے۔ وہ تھوکتے ہیں تو ان کا آب دہن زمین پر گرنے نہیں پاتا۔ کسی نہ کسی کے ہاتھ ہی پر گرتا ہے اور وہ شخص اس آب دہن کو اپنے چہرہ پر مل لیتا ہے جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو تعمیل کے لئے سب ایک دوسرے پر سبقت کیے، لئے دوڑتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو آب مستعمل جیسے گرے پڑتے ہیں گویا لڑائی ہو پڑے گی۔ جب وہ کلام کرتے ہیں تو سب کے سب چپ ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اتنا ادب ہے کہ وہ اس کے سامنے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ میری رائے ہے کہ ان سے صلح کر لو جیسے بھی بن پڑے، ادھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ قریش نے آپ کو روک لیا اور مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ قریش نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے۔ اس پر مسلمانوں کو بہت جوش آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے سرد سامان جمعیت سے جاں نثاری اور کفار کے مقابل، جہاد میں ثابت قدم پر بیعت لی کہ اگر لڑنا بھی پڑا تو ثابت قدم رہیں گے۔ اس بیعت میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے بائیں ہاتھ کو، حضرت عثمان کا دہنا ہاتھ قرار دیا اور ان کی جانب سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد چودہ سو تھی۔ یہ بیعت ایک خاردار درخت کے نیچے ہوئی تھی جس کو عرب میں سمر کہتے ہیں۔ اس بیعت کا حال سن کر قریش ڈر گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا اور صلح پر آمادہ ہو گئے یہی صلح، صلح حدیبیہ کے نام سے موسوم ہے اور اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ (مسلم شریف)

## اصحابِ بدر

بدر مدینے کے جنوب و مغرب میں، مکہ اور مدینہ کے درمیان، مدینہ سے قریب، سلطانی راستہ پر واقع ہے اور ایک پڑاؤ اور منڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے اہمیت اس لئے حاصل تھی کہ یہاں پانی کی افراط تھی اور یہ عرب میں ایک بڑی چیز تھی۔ توحید اور شرک کے درمیان، یہیں سب سے پہلا قابل ذکر تصادم ہجرت جمعہ ۱۲، رمضان المبارک ۱؎ کو پیش آیا تھا۔ اس غزوہ نے اسلام کی اور اس طرح بالواسطہ ساری دنیا کی تاریخ کا رخ ہی پلٹ دیا تھا۔

ہجرت مدینہ، مشرکین کے لئے کچھ اس درجہ برہمی اور اشتعال کا باعث ہوئی کہ ان کے وطن چھوڑ کر سینکڑوں میل، دور چلے جانے پر بھی، انہیں چین نہ آیا اور انہوں نے طے کر لیا کہ جس قیمت پر بھی ہو سکے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس کے لئے انہوں نے ہجرت سے متصل ہی جنگِ معرکوں کی ابتدا کر دی مگر مشرکین مکہ کی آتشِ حسد کے لئے یہ کافی نہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ہو جائے اس ارادہ کی تکمیل کے لئے انہوں نے ابوسفیان کی سرکردگی میں ایک بڑا قافلہ تجارتِ شام کی منڈیوں میں بھجواتا کہ اس کے کثیر منافع سے سامانِ جنگ مہیا کیا جاتے۔ مشرکین کے جوش و خروش کا اندازہ اس سے دلت ہے کہ مکہ کے ہر مستنقین نے اپنے سرمایہ کا کچھ نہ کچھ حصہ اس تجارت کے لئے پیش کیا۔ اور تقریباً ستر قریشیوں پر مشتمل یہ قافلہ شام کو روانہ ہو گیا۔ قریش کا یہ تجارتی قافلہ جب نفع کثیر حاصل کر کے شام سے واپس ہو کر مکہ جا رہا تھا اور بدر سے قریب ہو کر گزرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور اس کا تعاقب فرمایا۔ ان مسلمانوں کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی اور چند تلواریں دو تین گھوڑے، ساٹھ زره، اور ساٹھ اونٹ ان کا متاعِ جنگ تھا۔ یہ کہنا چاہیے کہ یہ کوئی جنگی لشکر نہیں تھا بلکہ فداکارانِ اسلام کا ایک مختصر سا قافلہ تھا جو قریش کے حرب و ضرب کے سرمایہ پر قابض ہو کر دشمن کو بے مایہ بنانے نکلا تھا۔ ادھر جب کفار کو اس تعاقب کا علم ہوا تو تمام سردارانِ قریش آمادہ جنگ ہو کر اپنے اپنے لشکر کو لے کر نکل کھڑے ہوئے اور اس کروفر سے نکلے کہ تعداد میں ایک ہزار تھے۔ نیزے اور تلواریں بے شمار تھیں۔ سات سوزرہ، ستر گھوڑے اور بے شمار اونٹ تھے۔ غرض دونوں فریق جنگ کے لئے صف آراء



ہوئے اور مسلمانوں کو نصرت خداوندی نے بامراد و کامیاب کیا اور مشرکین قریش کے تمام سردار اور مشہور بزرگ آزما ہی قتل نہیں ہوئے بلکہ شرک و کفر کی اجتماعی طاقت ہی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس غزوہ میں شریک تمام صحابہ کرام کو مغفرت و بخشش عام کی دولت سے مالا مال فرمایا گیا۔

## مقام صحابیت

صحابی ہر وہ مسلمان ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، بحالت ایمان پائی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور تادم واپس ایمان پر قائم رہا۔ بلوغ اس کے لئے شرط نہیں۔ جو بھی ایمان کے ساتھ حضور کی صحبت و لقاء کا شرف پا جائے خواہ قبل البلوغ ہو یا بعد البلوغ وہ صحابی ہیں بشرط سلامتی ایمان۔

**عقیدہ:** تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہل خیر و اہل صلاح ہیں اور عادل ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔

**عقیدہ:** تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنیٰ (اور ان میں کوئی ادنیٰ نہیں) سب جنتی ہیں وہ جہنم کی جہنگ نہ سیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے۔ محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔

**عقیدہ:** صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انبیاء نہ تھے۔ فرشتے نہ تھے کہ معصوم ہوں ان میں بعض سے لغزشیں ہوئیں مگر ان کی کسی بات پر گرفت، اور ان میں سے کسی کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانا، اللہ و رسول کے خلاف ہے۔

**تشریح:** اللہ عزوجل نے سورہ حدید میں صحابہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو قسمیں فرمائیں۔ ایک وہ کہ قبل فتح مکہ مشرف بہ ایمان ہوتے اور راہ خدا میں مال خرچ کیا جہاد کیا۔ جبکہ ان کی تعداد بھی بہت قلیل تھی اور وہ ہر دنیاوی اعتبار سے ضعیف و در ماندہ بھی تھے۔ انہوں نے بڑی بڑی اذیتیں اٹھائیں ظلم جھیلے۔ اپنی جانوں کو خطرات میں ڈالا اور بلا دریغ اپنا سرمایہ اسلام کی خدمات کے لئے نذر کر دیا۔ یہ مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین ہیں۔ ان کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "اگر تم میں سے کوئی اُحد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، تو بھی ان کے

ایک مذ کے برابر نہ ہو۔ نہ نصف مذ کے برابر (مذ ایک پیمانہ ہے جس سے جو ناپے جاتے ہیں) دوسرے وہ کہ بعد فتح مکہ دولت ایمان سے مالامال ہوئے اور اپنے اخلاص کا ثبوت جہادِ مال و قتال سے دیا جب اسلام کا غلغلہ بلند ہوتا جا رہا تھا اور اسلامی سلطنت کی جڑیں مضبوط ہو چکی تھیں اور مسلمان کثرت تعداد اور جاہ و مال، ہر لحاظ سے بڑھ چکے تھے۔ پھر قرآن کریم نے مومنین کو فتح مکہ کو، مومنین بعد فتح مکہ پر تفضیل دی۔ اور پھر دونوں فریق کے بارے میں فرمایا **وَكَلَّا وَعَدَا** **اللَّهُ الْحُسْبَىٰ**۔ اور ان سب سے اللہ، بھلائی کا وعدہ فرما چکا۔ اور جن سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا ان کے بارے میں ارشاد ہے۔

۱۔ **أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُعَبَّدُونَ**۔ وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔

۲۔ **لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَاتِهَا** وہ اس کی بھنگ تک نہ سنیں گے۔

۳۔ **وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ**۔ اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے (خداوندی نعمتوں نوازشوں اور کرامتوں سے نوازے جائیں گے) اور پھر یہ کیفیت عارضی و وقتی

نہیں۔ دائمی و لازوال و غیر منقطع ہوگی۔

۴۔ **لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ** انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ۔

۵۔ **وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ**۔ اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے۔ (قبروں سے نکلنے وقت

مبارکبادیں دیتے تہنیت پیش کرتے اور یہ کہتے)

۶۔ **هَذَا يَوْمُ مَكْرُمٍ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ** یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ

تھا دہشت و ہول کا وہ انتہائی وقت یقیناً ہوگا لیکن انہیں دہشت کیوں ہونے لگی انہیں تو خواب

موت سے جل گئے ہی تسکین بخشی اور دلہی کے لئے فرشتے مل جائیں گے جو اعزاز و اکرام سے انہیں

ماحقوں ہاتھ لیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی یہ شان، کون بیان فرما رہا ہے؟ اللہ عزوجل

اور وہ کہاں بیان فرما رہا ہے؟ قرآن کریم میں۔ کہ کلمہ پڑھ کر اس میں کسی تردد و تذبذب کی گنجائش و

مجال ہی نہیں۔ تو جو کسی صحابی پر طعن کرے۔ آیات قرآنیہ کو جھٹلاتا اور تکذیب کرتا ہے رب العالمین کی۔

اور صحابہ کرام کے بعض معاملات، جن میں اکثر حکایات کا ذبہ ہیں، ارشاد الہی کے مقابل پیش

کرنا، اہل اسلام کا کام نہیں۔ رب عزوجل نے اسی آیت میں اس کا منہ بھی بند کر دیا کہ دونوں فریق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھلائی کا وعدہ کر کے، ساتھ ہی ارشاد فرمادیا **وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ** اور اللہ کو خوب خبر ہے جو کچھ تم کرو گے۔ باایں ہمہ میں تم سب سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا۔ تو جب اس نے ان کے تمام اعمال جان کر، حکم فرمادیا کہ ان سب سے ہم جنت بے عذاب، وکرامت و ثواب کا وعدہ فرما چکے، تو دوسرے کو کیا حق رہا کہ ان کی کسی بات پر طعن کرے۔ کیا طعن کرنے والا، اللہ عزوجل سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جو کوئی کچھ بکے اپنا سر کھائے اور جہنم میں جائے۔ اسی لئے علامہ شہاب الدین خفاجی، نسیم الریاض، شرح شقلے قاضی عیاض میں فرماتے ہیں کہ **دَاهَمْتَن يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مَعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّنْ كَلَابِ الْهَادُوِيَّةِ**۔ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اور اسی لئے علمائے کرام فرماتے ہیں کہ ”صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں باہم جو واقعات رونما ہوتے ان میں پڑنا، ان کی کنکاش کرنا، ان کا محاسبہ کرنا، بحث و مباحثہ میں پڑنا۔ حرام حرام سخت حرام اور چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جاں نثار اور سچے غلام ہیں اور پاک دامن و راستباز۔ پھر یہ جان نشاری، پاک دامن اور راستبازی بھی کیسی؟ جس پر خود قرآن عظیم گواہ ہے۔ آخر انہیں کے بارے میں تو فرمایا کہ **اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى**۔ ”یہ وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لئے پرکھ لیا۔“ انہیں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے **وَلٰكِنَّ اللّٰهَ جَبَّبَ اِلَيْكُمْ اِلْيٰدَانِ رَبِّيۡنَ فِي قُلُوْبِكُمْ ذٰكِرًا لِّبِكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ لَوْلَاۤ اَنَّكُمُ الرَّاشِدُوْنَ**۔ ”لیکن اللہ نے تمہیں دین پیارا کر دیا ہے اور تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا۔ اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں۔“ یہ آیات کریمہ صاف بتا رہی ہے۔

ایمان صحابہ کرام کا محبوب مشغلہ ہے۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں ایمان کے لئے، ایمان کی خاطر کرتے ہیں۔

ایمان صحابہ کرام کے دلوں کی زینت ہے اور ان کے سینے انوار ایمان سے معمور و مزین۔ کفر و کینار، فسق و فجور یعنی گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی ان کے نزدیک سخت قابل نفرت ہے۔

اور معصیت یعنی گناہ صغیرہ بھی ان کے ذہنوں میں مکروہ و نفرت خیز ہے۔

تو حکم عدولی و نافرمانی کا صدور ان سے عمل میں آ نہیں سکتا کہ قوت ایمانی، ان کے سینوں میں مستحکم ہے اور ان کا تقویٰ انہیں ہر ایسے محل سے صاف بچا لیتا ہے جہاں اوروں کے قدم ڈگمگائیں۔ اور کیوں نہ ہو آخر ان کے دلوں میں جاگزیں تقویٰ وہ تقویٰ ہے جو آزمودہ خداوندی ہے۔ اسی لئے فرمادیا کہ یہ لوگ راہِ راست پر ہیں۔ اور اسی باعث ان کے حق میں ارشاد ہوا **دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ دَضُوا عَنْهُ**۔ اللہ ان سے راضی اور وہ سب اللہ سے راضی۔

صحابہ کرام میں دو طبقے ہیں مہاجرین و انصار۔

مہاجرین وہ اہل ایمان ہیں جو اپنا وطن مکہ چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و متابعت اور نصرت میں ہجرت کرنے کے لیے مدینہ آ گئے۔

انصار وہ اہل ایمان جنہوں نے مدینہ میں ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی ہر طرح خدمت و نصرت کی۔

اور قرآن کریم انہیں کے بارے میں صاف ارشاد فرماتا ہے۔ **وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ** الایہ

”اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے اللہ ان سے راضی (اس کو ان کے نیک عمل مقبول) اور وہ اللہ سے راضی (اس کے ثواب و عطا سے خوش) آیت کریمہ میں تمام مہاجرین و انصار کے ساتھ، رضائے الہی کا پروانہ ان مسلمانوں کو بھی ملا جو بھلائی کے ساتھ ان صحابہ کے پیرو ہوئے اور اس میں امت کے سارے طبقات قیامت تک کے لئے آگئے اور اتباع صحابہ بالاحسان نے انہیں بھی عظیم بشارتوں سے نوازا۔

تو کہنا یہ ہے کہ باہمی مشاجرات صحابہ کی جو روایتیں ہم تک پہنچتی ہیں ان سے ہمارے لئے یہ روا نہیں ہو جاتا کہ ایک کے اتباع کے زور میں ہم دوسرے کی عیب جوئی کرنے لگیں۔ پس امیر المؤمنین حضرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تو خیر اجل اصحاب نبی اور خلفائے راشدین میں ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی جو یہ مرتبہ نہیں رکھتے وہ بھی بہر حال صحابی ہیں ان کے حق میں بھی زبان طعن کھولنا اور ان کی ذات مبارک صفات کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانا ہرگز ہرگز درست نہیں۔

**عقیدہ بد کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت (بد عقیدگی و بدگمانی) بد مذہبی و گمراہی و استحقاق جہنم ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے۔ ایسا شخص رافضی ہے اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سنی کہے۔ مثلاً حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابوسفیان، اور والدہ ماجدہ حضرت ہند، اسی طرح حضرت سیدنا عمرو بن العاص و حضرت مغیرہ بن شعبہ و حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حتیٰ کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قبل اسلام، حضرت سیدنا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور بعد اسلام انہیں انہیں خبیث مسیلمہ کذاب (کہ مدعی نبوت ہوا اس) کو واصل جہنم کیا۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خیر الناس و شر الناس کو قتل کیا۔ ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی تبرا ہے اور اس کا قاتل رافضی اور توہین کا مرتکب ہے اگرچہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی توہین کے مثل نہیں ہو سکتی کہ ان کی توہین، بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہائے کرام کے نزدیک کفر ہے۔**

**عقیدہ بد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے۔ ان کا مجتہد ہونا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث صحیح بخاری میں بیان فرمایا ہے۔ مجتہد سے صواب و خطا دونوں صادر ہوتے ہیں۔ خطا دو قسم پر ہے۔ خطا عنادی جس کی بنیاد عناد و اتباع ہوائے نفس پر ہوتی ہے نہ کہ تحقیق حق پر۔ یہ مجتہد کی شان نہیں۔**

**خطا اجتہادی۔ یہ مجتہد سے ہوتی ہے اور اس میں اس پر عند اللہ اصلاً مواخذہ نہیں۔ مگر احکام دنیا میں وہ دو قسم پر ہیں۔ خطا مقررہ۔ خطا منکر۔ خطا مقررہ، یہ وہ خطائے اجتہادی ہے جس سے دین میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہوتا ہو۔ اس کے صاحب پر ابکار نہ ہوگا۔ اور نہ اس کی تفسیل و تفسیق کی جائے گی جیسے ہمارے نزدیک، مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کہ خطا مقررہ ہے۔ اور خطائے منکر یہ وہ خطائے اجتہادی ہے جس کے صاحب پر انکار کیا جائے گا کہ اس کی یہ خطا باعث فتنہ ہے۔**

**حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے خلافت اسی قسم کی خطا کا تھا۔ اور فیصلہ وہ، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولیٰ علی کی حق کے لئے قتال پر تصویب اور امیر معاویہ کی مغفرت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔**

**مسئلہ اور یہ جو بعض جاہل کہا کرتے ہیں کہ جب حضرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے**

ساتھ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہا جائے، محض باطل و بے اصل ہے۔ علمائے کرام اہلسنت و جماعت کثرہم اللہ تعالیٰ نے باتباع قرآن و حدیث، صحابہ کرام کے اسمائے طیبہ اور ان میں سے ہر ایک کے نام کے ساتھ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ کسی صحابی کو اس سے مستثنیٰ کرنا، نئی شریعت گھڑنا ہے۔

## حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اول ملک اسلام اور مسلمان سلاطین میں پہلے سلطان مسلمین ہیں۔ اسی کی طرف تورات مقدس میں اشارہ ہے کہ **مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَهِيَ جَدَّةُ طَيْبَةَ وَمَذْكُورٌ بِاللُّشَارِمِ**، یعنی ”وہ نبی سے آخر الزماں (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) مکہ میں پیدا ہوگا۔ مدینہ کو ہجرت فرمائے گا اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی“

تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے۔ سلطان السلاطین ہی کی بادشاہت ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج جرار، جاں نثار کے ساتھ، عین میدان جنگ میں بالقصد و بالاختیار ہتھیار رکھ دیئے اور خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اور یہ صلح وہ صلح ہے جو پسندیدہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ عزوجل کے بتائے اسے جانا، اس کی بشارت دی اور امام حسن کی نسبت، اپنی زبان وحی ترجمان سے ارشاد فرمایا **اِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ لِّعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يُصَدِّقَ بِهٖ بَيْنَ رَفِئْتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ**۔ میرا یہ بیٹا سید دوسروں (مسلمین) ہے میں امید فرماتا ہوں کہ اللہ عزوجل، اس کے باعث، اس کی بدولت، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرادے“

پھر جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت، ہر قرن اور ہر طبقہ میں مسلمہ رہی تو ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم اور حدیث شریف میں جو مناقب و محامد اور فضائل و کمالات وارد ہوئے ہیں وہ سب کے سب ان کی ذات میں موجود تھے اور اسی کے ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا خلاف کرنے والوں اور ان کے ساتھ بغض و عناد اور سو بر عقیدت رکھنے والوں

کا جو حکم شریعت مطہرہ میں ہے وہ بھی بلاشبہ ان مخالفین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قطعاً لازم ہے۔ اور جہاں تک صحابیت کا مقام ہے آپ سنتے پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ ورسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہوں میں انہیں جو مقام و نعت حاصل ہے وہ کسی کو میسر نہیں۔ صحابہ کرام کا طبقہ وہ ہے جن کی تقدیس و تطہیر کی کلیاں چمنستان شریعت میں چٹک رہی ہیں۔ اور خدا ورسول کے نزدیک یہ طبقہ کا طبقہ مقدس، مطہر، پاک دامن، پاک باطن، عدول و صالح القلب ہے۔ کیا آپ نے نہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبُّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ .

یعنی جس نے میرے ان صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے اس لئے بغض کیا کہ اس کے دل میں میری طرف سے بغض ہے؛ تو کیا کوئی کلمہ گو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عناد رکھنے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ اسے بارگاہ رسالت سے پروانہ خوشنودی میسر آسکتا ہے۔ لا واللہ ہرگز نہیں۔ رہے صحابہ کرام کے مابین اختلافات تو وہ کہاں نہیں ہوتے اور کن میں نہیں ہوتے۔ فرق یہ ہے کہ ان کے اختلافات محض حق کے لئے، دین کی سر بلندی کے لئے اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے تھا اور ہم قطعاً یقیناً اسی پر اعتقاد جازم رکھتے ہیں اور ایک ان کے لئے بھی کسی صحابی کی طرف اتباع نفس اور بالقصد والارادہ، شریعت مطہرہ کی مخالفت کی نسبت گوارا نہیں کرتے بلاشبہ فتنہ و فساد ہر اسے اور بہت برا، لیکن اس کا ارتکاب وہی کر سکتے ہیں جن کی نیتیں فاسد اور غرضیں کاسد ہو۔ جن کے دل و دماغ پر ذاتی اغراض و مقاصد کا ہجوم ہو۔ رہی خطائے اجتہادی تو وہ نہ گناہ ہے نہ قابل گرفت پھر کون نہیں جانتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے امراء و سلاطین کے مابین ترجمان بھی۔ کہ مکتوب گرامی تحریر فرماتے اور باہر سے آتے ہوئے خطوط حضور کو سناتے۔ اب اگر ان سے اعتماد اٹھ جائے تو شریعت مطہرہ کی قابل اعتماد ٹھہرے۔ پھر ایمان کی خیر کہاں مولائے کریم ہمیں مذہب اہلسنت و جماعت پر استقامت نصیب فرمائے آمین۔ بجاہ حبیبہ و صفیہ رضی اللہ عنہما و سلم عقیدہ ہر ام المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قطعاً جنتی اور یقیناً آخرت میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ عروس ہیں۔ جو انہیں ایذا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو ایذا دیتا ہے۔ حضرت طلحہ و حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ ان صاحبوں سے بھی بمقابلہ امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم خطبے اجتہادی واقع ہوئی مگر ان سب نے بالآخر رجوع فرمائی۔

عرف شرع میں بغاوت مطلقاً بمقابلہ امام برحق کو کہتے ہیں۔ عناداً ہو خواہ اجتہاداً ان حضرات پر بوجہ رجوع اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ گروہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حسب اصطلاح شرع اطلاق فنہ باغیہ (باغی گروہ) آیا ہے مگر اب کہ باغی یعنی مفسد و معاند و سرکش ہو گیا اور دشنام سمجھا جاتا ہے، کسی صحابی پر اس کا اطلاق جائز نہیں۔

## قند مکرر

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ہر صحابی کی توقیر و تعظیم، مذہب اہلسنت میں لازم و واجب ہے۔ ان کے حق میں بدگوئی حرام حرام سخت حرام ہے۔ ان سے حسن ظن اور ان کے قول و فعل پر خیر و صلاح پر محمول کرنا ضروری ضروری نہایت ضروری۔ ان پر اعتماد و اتق اور یقین راسخ لابدی لابدی۔ ان پر زبان طعن و ملامت دراز کرنا، ان پر نکتہ چینی کرنا، ان کو خود ساختہ معیاروں پر پرکھنا ممنوع ممنوع ممنوع۔ یہی مذہب ہے اہل سنت و جماعت کثر ہم اللہ تعالیٰ کا۔ اور اسی پر قدیم سے تمام علماء فضلاء صلحاء اولیاء مجتہدین، محدثین اور ساطین دین و ملت کا عمل ہے یہی قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس کا خلاف کرنے و ملا جہنم کا لہندھن۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

## أَهْلُ الْمُؤْمِنِينَ

### ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فضائل

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے۔

۱۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ دَرَجَاتُكُمْ

آیہ کریمہ میں ان کو ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب عالی سے یاد فرمایا تو یہ خطاب فی الواقع اس



بات کا مظہر ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لئے اتصال حاصل ہے اور ان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اتحاد ظاہری و معنوی اور وحدت ازدواجی و ایمانی پائی جاتی ہے۔

۲۔ نَسْتُنُّكَ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ۔ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔

النساء میں صنف نازک کا ہر فرد شامل ہے اور کوئی عورت ذات بھی اس سے باہر نہیں رہ جاتی اس سے ثابت ہوا کہ ازواج مطہرات کا درجہ، ہر ایک عورت سے بالا و متمیز و ممتاز اور شان خاص کا ہے۔

۳۔ اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ۔ اے نبی ہم نے حلال فرمائیں تمہارے لئے تمہاری

بیبیاں۔ زن و مرد، تزویج کے بعد زن و شوہر بن جاتے ہیں لیکن کوئی زن و شوہر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس عقد کا درگاہ رب العزت میں کیا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرما کر اعلان کر دیا کہ نبی کی بیبیوں کا ازواج البنی ہونا منظور رب العلمین ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ منظوری فی الواقع ان کے لئے فضیلت عظمیٰ ہے۔

۴۔ تَبَّتْ بَنِي مَرْصَاةَ اَزْوَاجِكَ۔ آپ اپنی بیبیوں کی مرضی چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا

ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی خوشنودی کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور یہ بات ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، غلطی کے شائبہ سے بالاتر ہیں اور ہم حضور اقدس کے کسی فعل کو خطا یا غلطی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ توجب حضور ان پاک مقدس بیبیوں کی خوشنودی کے جو بیا رہتے تھے تو یہ امر بھی ان کی فضیلت پر ایک روشن دلیل ہے۔ اور فی الواقع یہ چیز زوجین کے مابین حسن

معاشرت اور تدبیر منزل کی جان ہے اور امت کے لئے اسوہ حسنہ۔

۵۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ اِجْعَلُ اِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمٍ

”اے نبی اپنی بیبیوں سے فرمادے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی و انیوں کے لئے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے“

آیہ کریمہ میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ اگر وہ دنیا اور زینت دنیا چاہیں تو وہ نہیں متیا کر دیا جائے گا۔ لیکن اس صورت میں انہیں علیحدگی اختیار کرنا ہوگی۔ اور اگر خدا و رسول اور دار

آخرت پسند ہے تو دنیاوی ساز و سامان سے زہد اختیار کرنا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت انہیں نصیب رہے گی۔ اور تمام ازدواج کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو چاہتی ہیں۔ اور اس صورت میں وہ ان مَحْسِنَات میں داخل ہوئیں جن کے لئے اجر عظیم کا وعدہ خدا نذی ہے اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔

۶ - وَأَنَّ دَاجِرًا مَّهْمًا ۝ اس (نبی) کی بیبیاں، مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ آیہ کریمہ میں اس شفقت و تعلق کا ذکر بھی ہے جو حضور کی اپنی امت پر مبذول رہتی ہے۔ اور اس تعلق کا بھی جو ایک صاحب ایمان کو حضور کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہ حضور کو اپنی جان شیریں سے زیادہ محبوب اور حضور کو اپنی جان سے بڑھ کر سمجھے، اور اس تعلق کا بھی جو ایک امتی کو ازدواج مطہرات سے ہے کہ وہ تقدس و تعظیم میں انہیں وہی مقام دے جو اس کی ماں کو حاصل ہے اور ان کی رضا جوئی اور خدمتگاری میں کوئی کمی نہ آنے دے۔ تکمیل ایمان کے لئے ازدواج مطہرات کی تعظیم و تجلیل اتنی ہی ضرور و لازمی ہے جتنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر۔ ان کے حقوق کی بجا آوری، شرائط ایمان کے ساتھ منسلک ہے ہاں یہ شرف حاصل اسی وقت ہوتا ہے جب ولاد نبوی اور جمال ایمان کی دولتیں نصیب ہوں۔

۷ - اِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔

” اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرمادے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔“ یعنی گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو۔

آیہ کریمہ اہل بیت کے مناقب و فضائل، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وسلم کے گھر والوں کے مزید شرف و احترام کا اظہار ہے۔ اور جس سیاق و سباق میں یہ آیہ کریمہ وارد ہوئی ہے اس سے بالکل ظاہر ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد ازدواج مطہرات ہیں اور یہی مفہوم، سلف صالحین سے منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عروہ بن زبیر اور عکرمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواج مطہرات ہیں (قرطبی)

اور یہ بات تو ادنیٰ تامل سے معلوم ہو سکتی ہے اور بالکل ظاہر ہے کہ خطاب کا آغاز ہی یا نساء البنی کے الفاظ سے کیا گیا ہے اور ما قبل و ما بعد کی پوری تقریر میں وہی مخاطب ہی۔ علاوہ بریں



ان حجروں کے علاوہ تو تھا نہیں تو یہاں بُوْتُكُنَّ لاکر یہ بات بھی مسلمانوں کو بتائی گئی کہ زوجہ کریمین میں کمال اتحاد و یگانگت موجود ہے۔ ان میں سے کسی کو حضور کے دامن کرم سے علیحدہ نہ کرنا، ایمان وغیرت ایمانی کے منافی ہے۔

۹۔ اور آیہ کریمہ میں اس بات کی بھی تصریح ہے کہ ان گھروں میں وحی و حکمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ گھر مہبط وحی الہی ہیں۔ یہ گھر حکمت ربانی کا گہوارہ ہیں اور ظاہر ہے کہ مکان کی عزت، ملکین سے ہوتی ہے۔ اب ازواج مطہرات کے لئے خود ہی اندازہ لگائیے کہ انہیں بارگاہ الہی میں کس قدر عزت و حرمت کا مقام حاصل ہے۔ پھر جب نزول وحی و حکمت، خاص ان گھروں میں ہوتا ہے تو ازواج مطہرات سے بڑھ کر علوم و معارف قرآنیہ اور حقائق و دقائق شرعیہ کا حامل ان سے بڑھ کر عورتوں میں اور کون ہو سکتا ہے۔

۱۰۔ وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ "اور تمہارے آپس میں محبت و رحمت رکھی"

اس آیت میں جب عام طور پر زوجین کی یہ صفت بیان فرمائی گئی ہے تو بالضرور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات بھی اس صفت کے مظہر تھے۔ تو علام الغیوب کے ارشاد گرامی سے ثابت ہوا کہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضور کے لئے سکینہ قلب تھیں۔ اور ان کے دلوں میں حضور کی محبت و رحمت بھری ہوئی تھی۔ جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وازواجہ وبارک وسلم کے قلب اطہر میں ان کے لئے مودت و رحمت موجود تھی۔ اور یہ خود بڑی فضیلت کا مقام ہے اور ازواج مطہرات کے لئے موجب فخر و باعث ہزار افتخار۔

۱۱۔ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ يَاتِ مِنْكُنَّ بِفَا حِشَّةٍ مَّبِيْنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ

اے نبی کی بیویو! جو تم میں صریح حیا کے خلاف کوئی جرأت کرے اس پر اوروں سے دونا عذاب ہوگا۔"

اہل علم نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ لفظ فاحشہ جب ال کے ساتھ معرفہ ہو کر وارد ہوتا ہے اس سے زنا اور لواطت مراد ہوتی ہے۔ اور جب تنوین کے ساتھ صیغہ منکرہ میں آئے گا تو اس مفہوم میں ہر قسم کی معصیت داخل ہوگی اور جب موصوف ہو کر استعمال ہوگا تو اس سے شوہر نافرمانی اور معاشرتی برائی اور حقوق زوجیت کی عدم ادائیگی مراد ہوگی۔ اور یہاں آیت میں یہی ص

ہے تو یقینی طور پر مراد اس سے یہ ہے کہ اگر تم سے سو معاشرت، اور عدم ادائیگی حقوق زوجیت جیسی کوئی ایسی بات صادر ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو ملکر کرے تو سزا دوگنی ملے گی۔ یعنی جتنی دوسرے شخص کو ملتی اس سے دوگنی۔

فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ خواص و علماء پر بمقابلہ عوام امت کے، گرفت زیادہ سخت ہوگی اور اسی طرح ان کا اجر و ثواب بھی عوام سے کہیں زیادہ ہے۔ کیونکہ جس شخص کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس سے اگر قصور واقع ہو تو وہ قصور بھی دوسروں کے قصور سے زیادہ سخت قرار دیا جاتا ہے۔ اور ازواج مطہرات چونکہ تمام جہاں کی عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ اس لئے ان کی ادنیٰ بات بھی سخت گرفت کے قابل ہے۔ اور اسی سے ان کی بارگاہ الہی میں مقربات میں سے ہونا ثابت ہوا اور ان کی فضیلت اور پر نہ مانی جائے تو عذاب و سزا میں اوروں کے مقابل یہ امتیاز کیسا۔ اس میں یہ بشارت بھی ہے کہ ازواج مطہرات سے ایسی ناشائستہ حرکات کا صدور نہ ہوگا اور یہ آیت از قبیل لئن اشرکت لیحبطن عملک ہے۔

## مختصر حالات

### ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

ان کے والد خویلد بن اسد، عرب کے مشہور تاجر اور قریش میں معزز و نامور تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان کا سلسلہ نسب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، قصی میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کا لقب جاہلیت میں بھی طاہرہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمرو بن اسد نے ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پچیس سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا اور اس نکاح کی درخواست حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے کی گئی تھی۔ یہ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہوئیں ان پر کسی مرد یا عورت کو تقدم فی الاسلام کا شرف حاصل نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تمام دنیا و آخرت کی چار برگزیدہ عورتوں میں سے ایک حضرت خدیجہ کو شمار کیا ہے۔

حضرت صدیقہ عائشہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی۔

(۱) وہ مجھ پر ایمان لائی جب اوروں نے کفر اختیار کیا۔

(۲) اس نے میری تصدیق کی جب اوروں نے مجھے جھٹلایا۔

(۳) اس نے اپنے مال میں مجھے شریک کیا جب اوروں نے مجھے کسبِ مال سے روکا۔

(۴) خدا نے مجھے اس کے بطن سے اولاد دی جبکہ کسی اور بیوی سے نہیں ہوئی۔

ان کی زندگی میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ نکاح کے بعد پچیس برس تک زندہ رہیں۔ اور ہجرت سے تین سال قبل ۶۵ سال کی عمر میں انتقال فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قبر میں اتارا۔ رب العالمین کی طرف سے ان پر سلام ایک ایسا شرف ہے جو زمانہ ماقبل میں حضرت خدیجہ کے سوا، دنیا کی کسی عورت کو حاصل نہیں ہوا تھا۔

## ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

ازواجِ مطہرات میں یہی وہ خاتون ہیں جن کی اسلامی خون سے ولادت اور اسلامی شیر سے پرورش ہوئی۔ امہات المؤمنین میں یہی وہ طیبہ ہیں جن کا پہلا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ بلکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ صدیقہ کی شادی کا اہتمام خطیرۃ القدس میں کیا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کو بجانب اللہ قرار دیا (مسلم شریف) آپ کے فضائل میں بہت سی احادیث صحیحہ وارد ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مردوں میں تو بہت تکمیل کے درجہ کو پہنچے مگر عورتوں کے اندر صرف مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون ہی تکمیل کو پہنچیں۔ اور عائشہ کو سب عورتوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے ثرید کو سب کھانوں پر۔ اس فضیلت کی وجہ حضرت صدیقہ کے وہ کمالات روحانیہ ہیں جن کی وجہ سے ان کا منصب بارگاہِ الہی میں نہایت بلند تھا۔ اور جن کے وجود سے، ان کو انوارِ نبوت سے بدرجہ اتم، منور ہونے کی قابلیت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کا ذکر صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے جسے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا "یہ عائشہ ہی ہے کہ میں اس کے لحاف میں ہوتا ہوں تو اس وقت بھی وحی کا نزول ہوتا ہے مگر دیگر ازواج کے بستروں پر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضرات صدیقہ کے کمالات علیہ پر یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ جسے صحیحین میں روایت کیا گیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا "یہ جبریل ہیں اور تم کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت صدیقہ نے جواب میں فرمایا "ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو"

تو یہ وہ صدیقہ عائشہ ہیں کہ جبریل امین باں فضل مبین انہیں سلام کریں اور ان کے کاشانہ عزت و طہارت میں بے اذن لئے حاضر نہ ہوں۔

یہ وہ ام المؤمنین ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سفر میں، بے ان کے تشریف لے جائیں ان کی یاد میں "واعرؤساہ" فرمائیں۔

وہ صدیقہ کہ یوسف صدیق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برائت میں، شہادت "اہل زینچا سے ایک دودھ پیتا بچہ ادا کرے۔ حضرت بتول مریم کو حضرت روح اللہ و کلمۃ اللہ کی گواہی سے، لوگوں کی بدگمانی سے نجات بخٹے۔ مگر ان پر تہمت لگائی گئی اور بہتان اٹھا تو خود مولائے کریم نے ان کے پاکدامنی و برائت کی گواہی دی اور سترہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اگر چاہتا ایک ایک پتھر اور ایک ایک درخت سے گواہی دلواتا مگر منظور یہ ہوا۔ کہ محبوبہ محبوب کی طہارت و پاکدامنی پر خود گواہی دیں اور ان کی عزت و امتیاز بڑھائیں۔ اس بہتان سے ان کی شان رفیع میں ذرا بھی فرق نہ آیا بلکہ رتبہ بڑھ گیا۔ ان کی پاکی اور طہارت کی آواز سے زمین و آسمان گونج اٹھے۔ وہ وحی نازل ہوئی جس کے قیامت تک نمازوں میں اور محرابوں میں تلاوت کی جائے گی۔

یہ وہی ام المؤمنین ہیں کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پانی پینے میں دیکھتے رہیں کہ کوزہ میں کس جگہ لب مبارک رکھ کر پانی پیا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبہائے مبارک خدا پسند، وہیں رکھ کر پانی نوش فرمائیں۔ (افادات رضویہ)

عائشہ صدیقہ جن خصوصیات کا ذکر بطور فخر فرمایا کرتی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی فقرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھڑیوں، میری ثوبت میں، میرے سینہ و گلہ کے درمیان وفات پائی اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ ملا دیا۔ اور

وہ اس طرح کہ (میرے بھائی) عبدالرحمن مسواک لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضعف تھا۔ یہ دیکھ کر کہ حضور مسواک فرمانا چاہتے ہیں) میں نے مسواک لے کر پہلے اپنے دانتوں سے نرم کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرا دی۔“

عقیدہ ۵: ام المومنین حضرت صدیقہ عائشہ بنت الصدیق، محبوبہ محبوب رب العلمین جلّ و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہما و سلم پر، معاذ اللہ، تممت ملعونہ افسوس سے اپنی زبان آلودہ کرنے والا قطعاً یقیناً کافر مرتد ہے۔ اور اس کے علاوہ اور طعن کرنے والا رافضی تبرائی بددین جہنمی۔

ام المومنین حضرت صدیقہ عائشہ کی یہ بھی ایک خصوصیت تھی کہ جب کوئی نہایت مشکل اور پیچیدہ مسئلہ، صحابہ میں آپرٹنا تھا تو وہ حضرت صدیقہ کی جانب رجوع کرتے تھے اور ان کے پاس سے متعلق ضرور علم پایا جاتا تھا۔ پھر آپ جس طرح اپنے فرزند ان شریعت کی، شیر علم سے پرورش فرمایا کرتی تھیں اسی طرح اپنے وجود سخاوت سے فقراء و مساکین کی بھی تربیت فرمایا کرتی تھیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

عائشہ صدیقہ رحمہ نے ۶۳ سال کی عمر میں، ۵۷ھ کو مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا اور بنت البقیع میں استراحت فرمائی۔

## بقیہ اہمات المومنین کے اسمائے گرامی

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| ۳ - ام المومنین سوردہ بنت زمعہ۔        | سال وفات ۵۲ھ یا ۵۵ھ ہے (بعمرہ سال) |
| ۴ - ام المومنین حفصہ بنت فاروق۔        | شعبان ۴۵ھ (۵۵ سال)                 |
| ۵ - ام المومنین ام سلمہ بنت ابی امیہ   | ۵۹ھ یا ۶۱ھ یا ۶۳ھ (۵۶ سال)         |
| ۶ - ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان | ۲۲ھ (۵۷ سال)                       |
| ۷ - ام المومنین زینب بنت جحش اسدیہ     | ۲۲ھ (۵۷ سال)                       |
| ۸ - ام المومنین زینب بنت خزیمہ         | ۳۳ھ (۵۵ سال)                       |
| ۹ - ام المومنین میمونہ بنت حارث        | ۵۱ھ (۵۹ سال)                       |
| ۱۰ - ام المومنین جویریہ بنت الحارث     | ۵۷ھ (۵۷ سال)                       |
| ۱۱ - ام المومنین صفیہ بنت یتیمی        | ۵۶ھ (۵۶ سال)                       |



## اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نسب اور قربت کے وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ ان میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں۔ اور اولاد امجاد بھی۔ اگرچہ عوام کے اردو محاورے میں اہلبیت سے مراد، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہراء حضرت مولیٰ علی مشکل کش اور حضرات حسنین کریمین ہوتے ہیں اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اہل بیت کرام کی شان میں جو آیات و احادیث وارد ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ:-

- ۱۔ اہلبیت کرام سے اللہ تعالیٰ نے رخص و ناپاکی کو دور فرمادیا اور انہیں خوب پاک کیا۔ اور جو چیز ان کے مرتبہ کے لائق نہیں اس سے، ان کے پروردگار نے انہیں محفوظ رکھا۔
- ۲۔ اہل بیت رسول پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔
- ۳۔ صدقہ ان پر حرام کیا گیا کہ صدقہ بدن کا میل ہے۔
- ۴۔ اول گروہ جس کی حضور شفاعت فرمائیں گے اور حوض کوثر پر آئیں گے حضور کے اہل بیت ہیں۔
- ۵۔ اہلبیت کی محبت فرائض دین سے ہے اور جو ان سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔
- ۶۔ ان کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے کہ جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو اس سے دور رہا ہلاک و برباد ہوا۔

۷۔ اہلبیت کرام اللہ کی وہ مضبوطی ہیں جسے مضبوطی سے تھامنے کا ہمیں حکم ملا۔

ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تم میں دو چیزیں چھوڑوں ہوں۔ جب تک تم انہیں نہ چھوڑو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ ایک قرآن اور ایک میری آل۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی اولاد کو تین خصلتیں سکھاؤ۔ اپنے نبی کی محبت، اہلبیت کی محبت۔ اور قرآن پاک کی قرأت۔

## خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں اور چاروں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے

بلن طاہرہ سے ہیں اور سب کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی۔

۱۔ زینب جو قاسم سے چھوٹی اور دیگر اولاد النبی سے بڑی ہیں۔

۲۔ رقیہ جو زینب سے چھوٹی ہیں۔

۳۔ ام کلثوم جو رقیہ سے چھوٹی ہیں۔

۴۔ سیدۃ نساء العالمین جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔

ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ سے بڑھ کر کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشابہ بات چیت میں نہ تھا۔ وہ جب باپ کے پاس آیا کرتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے۔ پیشانی پر بوسہ دیتے اور مرحبا فرمایا کرتے تھے۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے تشریف لے جاتے تو وہ بھی اسی طرح ملا کرتی تھیں۔

ایک صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا۔ صدیقہ نے جواب دیا، فاطمہ، انہوں نے پوچھا مردوں میں کون تھا۔ جواب دیا، شوہر فاطمہ اور یہ بھی بتایا کہ علی تو بڑے صوام و قوام (روزے دار، تہجد گزار) تھے حدیث شریف میں ہے کہ فاطمہ رہا کا نام فاطمہ اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی نسل کو قیامت میں آگ سے محفوظ فرمادیا۔

(ابن عساکر)

اور ایک حدیث شریف میں ارشاد نبوی ہے کہ بے شک فاطمہ نے اپنی حرمت نگاہ رکھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی تمام نسل کو آگ پر حرام فرمادیا۔ (طبرانی حاکم)

ایک اور حدیث شریف میں وارد کہ فاطمہ میرا جزو ہیں۔ جو امیں ناگوار، وہ مجھے ناگوار۔ اور جو انہیں پسند وہ مجھے پسند۔ ایک حدیث میں مروی کہ حضور نے فرمایا، اے فاطمہ! تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے۔ اور تمہاری رضا سے اللہ راضی ہے۔

اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے اہل میں سب سے زیادہ پیاری فاطمہ ہیں۔

حضرت خاتون جنت کو اپنی ہمشیروں پر یہ خاص شرف حاصل ہے کہ دنیا میں انہیں کی ذریت پھولی پھلی اور پردان چڑھی اور انہیں کی اولاد امجاد، سادات کرام کہلائی اور انہیں کی ذریت سے ائمہ عظام ہوئے جن کی شان اسلام میں نہایت ارفع و اعلیٰ ہے۔

حضرت پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کی اولاد کے لئے خصوصاً ارشاد فرمایا کہ جو میری اہلبیت میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا (ابن عساکر) حضرت خاتون جنت کی وفات شب سہ شعبہ ۳ رمضان المبارک ۱۱ھ کو ہوئی۔ ان کی وصیت کے مطابق اسما بنت عمیس زوجہ ابو بکر صدیق اور علی رضی نے ان کو غسل دیا۔ حضرت عباس یا حضرت علی نے نماز پڑھائی۔ اہلبیت میں وہی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں ملیں۔ جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔

اکثر مورخین کا رجحان ہے کہ آپ کی قبر مبارک بقیع میں ہے۔

**عقیدہ ۱۰:** حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہراءؑ ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ اور دوسری والدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن قطعی جنتی ہیں۔ اور انہیں اور بقیہ بنات مکرّمات (دوسری شاہزادیوں) اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو تمام صحابیات پر فضیلت حاصل ہے۔ ان کی طہارت کی گواہی قرآن عظیم نے دی۔

**عقیدہ ۱۱:** اہلبیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، مقتدایان اہلسنت ہیں۔ جو ان سے محبت نہ رکھے مردود و ملعون خارج ہے۔

## امایین جلیلین حسین کریمین

یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی اور صاحب روایت صحابی ہیں جس پر جمہور محدثین مورخین اور اصولیین وغیرہم کا اتفاق ہے۔ اندر میں صورت قرآن و حدیث میں صحابہ کرام کے جو مناقب و فضائل اور محامد و محاسن اور احوال و مقامات قلب وارد ہوئے ہیں۔ پھر خصوصیت سے اہل بیت کے جو فضائل اور خصوصیات ثابت ہوئی ہیں وہ سب کی سب انہی شہزادگان اہل بیت کے لئے ثابت ہیں۔ یہی اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے۔ انہی کے ساتھ صحابہ کرام پر، اپنے معیار مفروضہ کو مبنی بنا کر، ان کی ذوات مقدسہ پر تنقید کرنے والوں کے لئے جو احکام آئے اور وعیدیں وارد ہیں وہ بھی بلاشبہ ان دونوں شہزادوں کے مخالفین پر عائد ہوتی ہیں۔

بخاری و مسلم دونوں کی مسلمہ روایات سے ثابت ہے کہ جب آیہ تطہیر انما یرید اللہ الایہ نازل

ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ردا ئے مبارک میں اپنے جن اہلبیت کو جمع فرمایا ان میں حسنین کریمین بھی تھے۔

اسی طرح جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی اور آپ اپنے اہلبیت کو لے کر نصاریٰ کے مقابلہ میں مباہلہ کے لئے تشریف لے گئے تو ان میں یہ دونوں حضرات بھی شامل تھے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ دونوں ابناءؤنا کا مصداق ہے جن کو مباہلہ میں لانے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ دونوں صحابی بھی ہیں یعنی صحبت یافتہ نبوی صحابی۔ اور اہلبیت میں بھی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں بھی شامل اور جزیر رسول اللہ ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے انہیں شہزادوں کے بارے میں فرمایا کہ  
اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأُحِبُّهُمَا وَأُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُمَا

”اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں۔ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے“

انہیں کے مناقب میں یہ حدیث ہے۔

إِنَّهُمَا سَيِّدَا الشَّبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

یہ دونوں جوانان بہشت کے سردار ہیں۔“

حضرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ امام حسن کا نصف پیکر بالائی۔ اور امام حسین کا نصف پیکر زیریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تر تھا۔ ولنعم ما قال الامام رضا البریلوی قدس سرہ۔

معدوم نہ تھا سایہ شاہِ ثقلین     :     اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذاتِ حسنین

تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کئے     :     آدھے سے حسن بنے ہیں۔ آدھے سے حسین

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔“ اور فرمایا ”جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے عداوت کی۔ اس نے مجھ سے عداوت کی۔“

نیز ارشاد فرمایا ”جس شخص نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں کے والد و والدہ سے محبت رکھی وہ

میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔

خاص امام حسن کے متعلق ارشاد ہوا "یہ میرا فرزند سید ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک باقی رکھے گا کہ اس کے وسیلے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح ہو جائے۔" اور خاص امام حسین کے بارے میں فرمایا "الہی میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔" ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں "میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا کہ حسین بچہ ہی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں کلائیوں کو پکڑا۔ اس وقت حسین کے قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت قدم پر تھے۔ پھر فرمایا "چڑھو۔ چڑھو۔ حسین اور پھر چڑھتے جلتے تھے حتیٰ کہ ان کے پاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر تھے اور منہ کے برابر منہ تھا۔ پھر فرمایا "منہ کھولو" انہوں نے منہ کھولا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ چوم لیا۔ اور مذکورہ بالا الفاظ زبان مبارک سے ارشاد فرمائے۔

امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف رمضان ۳۰ھ میں پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں روز دومینڈھے عقیقہ کے ذبح کئے اور سر کے بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ دیا۔ آپ نے ۲۶ سال کی عمر میں ماہ ربیع الاول ۵۹ھ وفات پائی اور والدہ مکرمہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر خوزد ہیں۔ ۵ شعبان ۳۰ھ کو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف سے عقیقہ میں مینڈھا ذبح کیا۔ آپ کی شہادت بروز جمعہ عشرہ محرم ۳۰ھ کو، میدان کربلا میں جسے طغی بھی کہتے ہیں آغاز وقت زوال میں ہوئی۔ عمر شریف اس وقت چھپن سال، پانچ ماہ پانچ یوم تھی۔

**عقیدہ ۱۵۔** حضرات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یقیناً اعلیٰ درجہ کے شہدائے کرام سے ہیں۔ ان میں سے کسی کی شہادت کا منکر، گمراہ بددین خاسر ہے اور ان میں سے کسی کے حق میں بدگونی، بدظنی، بدکلامی اور بداعتمادی رکھنے والا، یقیناً خارجی اور فاسق و فاجر ہے۔

فائدہ ۱۔ ائمہ اہلبیت میں سب سے اول حضرت موسیٰ علی ہیں۔ پھر حضرت امام حسن۔ پھر حضرت امام حسین۔ پھر حضرت امام زین العابدین۔ پھر حضرت امام باقر۔ پھر حضرت امام جعفر صادق۔ پھر حضرت امام موسیٰ کاظم۔ پھر حضرت امام علی موسیٰ رضا۔ پھر حضرت امام محمد تقی۔ پھر حضرت امام نقی۔ پھر حضرت امام حسن عسکری۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرب قیامت میں

ظاہر ہوں گے۔

**عقیدہ ۱۔** یزید پلید، فاسق فاجر مرتکب کبار تھا۔ معاذ اللہ اس سے اور ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نسبت آج کل جو بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملہ میں کیا دخل۔ ہمارے وہ بھی شہزادے۔ وہ بھی شہزادے، یہ سخت مذموم و ممنوع ہے اور ایسا بکنے والا مردود، خارجی ناصبی مستحق جہنم ہے۔ ہاں یزید کو کافر کہنے اور اس پر نام لے کر لعنت کرنے میں علمائے اہلسنت کے تین قول ہیں۔ اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک سکوت ہے۔ یعنی اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا، نہ کافر کہیں نہ مسلمان۔

**تشریح:** یزید بن زبامیہ میں وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہلبیت کرام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے اور جس پر رہتی دنیا تک اس کا نام حقارت کے ساتھ لیا جاتا ہے حقارت و نفرت سے لیا جاتا رہتا رہے گا۔ یہ بد باطن ۲۵ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا ہوا۔ نہایت موٹا۔ بد نما، بد اخلاق، شرابی بدکار۔ ظالم و گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بیہودگیاں ایسی ہیں جن سے بد معاشوں کو بھی شرم آتے۔ سود وغیرہ کو اس بے دین نے علانیہ رواج دیا اور مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ یزید کا ذاتی فسق و فجور بھی کچھ کم نہ تھا لیکن جس فسق نے اسے مبعوض خلأئق بنایا وہ اس کا اجتماعی فسق و فجور تھا جس نے امت میں فتنہ پیدا کر دیا اور امت کی اجتماعیت کو تہ و بالا کر دیا۔ اور وہ جو احادیث میں آیا ہے کہ "فرمایا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت کی ہلاکت و تباہی، چند قریشی چھوکر دوں کے ہاتھوں ہوگی۔" اس باب میں علمائے کرام فرماتے ہیں کہ ان احادیث و آثار کا مصداق یزید اور اس کے نو عمر، نوخیز، تاجر کار، تدبیر و نظام مملکت سے کورے، سیاسی اقتدار کے بھوکے اور سفیہ و بد عقل رفقاءے کار ہیں۔ جنہوں نے برسرِ اقتدار آکر، اپنی امارت کے نفسانی مقاصد کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے مشائخ و اکابر ملت کو یکے بعد دیگرے اپنی راہ سے ہٹا دیا۔

ارباب فراست اور اصحاب اسرار، اسی لئے دعا کیا کرتے تھے کہ الہی ہمیں ۶۰ کے آغاز اور رکوں کی حکومت سے اپنی پناہ میں رکھتا۔ انہیں میں حضرت ابوہریرہ رحمہم ہیں جن کی دعا مقبول ہوئی اور انہوں نے ۶۰ میں بمقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بد نصیبی و شقاوت کا یہ مجسمہ، تخت حکومت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لئے اطراف و ممالک سلطنت میں مکتوب روانہ کئے۔ مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرما دیا۔ اس سے یزیدیوں میں آتش عناد بھڑک اٹھی اور آخر کار سانحہ کربلا پر منہج ہوئی۔ اور رضا و تسلیم کی امتحان گاہ میں حضرت شہزادہ گلگوں قبا اور ان کے جاں نثاروں نے وہ ثابت قدمی دکھائی کہ آج تک دنیا اس کی مثال نہ پیش کر سکی ہے نہ قیام قیامت تک پیش کر سکے گی۔

آخر کار یزید پلید بھی اپنی بد نصیبی بد بختی اور شقاوت قلبی کو ساتھ لئے، تین برس، سات مہینے تخت حکومت پر شیطانت کر کے ۱۵ ربیع الاول ۶۲ھ کو، جس روز اس پلید کے حکم سے کعبہ معظمہ کی بے حرمتی ہوئی تھی، شہر حمص، ملک شام میں انا لیس برس کی عمر میں اس دنیا سے سدھارا۔

## چند مسائل ضروریہ

۱۔ عشرہ محرم میں مجلس منعقد کرنا اور ان میں واقعات کربلا بیان کرنا جائز ہے جبکہ روایات صحیحہ بیان کی جائیں۔ ان واقعات میں صبر و تحمل، و رضا و تسلیم کا بہت مکمل درس ہے اور پابندی احکام شریعت و اتباع سنت اور علی الاعلان تبلیغ حق و ترویج دین و ملت کا زبردست عملی ثبوت ہے کہ دین حق کی حفاظت میں تمام اعزہ و اقرباء و رفقاء اور خود اپنے آپ کو راہ خدا میں قربان کیا اور جنوع فرزع درکنار حق پوشی و تقیہ کا نام بھی نہ آنے دیا۔ مگر اس مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی ذکر خیر، اور ان کے فضائل و مناقب کا بیان بھی ہونا چاہیے تاکہ اہلسنت اور شیعہوں کی مجالس میں فرق و امتیاز رہے۔

۲۔ اظہار غم کے لئے سر کے بال بکھیرنا، کپڑے پھاڑنا، گریبان چاک کرنا، سر پر خاک ڈالنا اور بھوسا اڑانا یہ سب ناجائز اور جاہلیت کے کام ہیں۔ ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ احادیث میں ان کی سخت ممانعت آئی ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے اپنی براءت کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جو مرد خواہ عورت، اپنے منہ پر تھلے نچے مارے، اپنا گریبان پھاڑے اور

زمانہ جاہلیت کا سانوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔“ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسے امور سے پرہیز کریں اور وہ کام کریں جن سے اللہ ورسول، جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم راضی ہوں یہی نجات کا راستہ ہے اور اسی میں نجات ہے۔

۳۔ تعزیہ داری: جن میں از اول تا آخر، خرافات کی بھرمار ہے قطعاً ناجائز و بدعت و حرام ہے اگر روضہ مبارکہ حضرت شہزادہ گلگوں قبا حسین شہید ظلم و جفا، صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علی جدہ الکریم وعلیہ وعلیٰ اعوانہ و انصارہ کی صحیح نقل بنا کر، محض بہ نیت تبرک رکھتے تو شرعاً کوئی حرج نہ تھا۔ مگر حاشا، تعزیہ ہرگز اس کی نقل نہیں۔ نقل ہونا درکنار، بنانے والوں کو نقل کا قصد بھی نہیں ہر جگہ نئی تراش نئی گڑھت ہے جسے اس اصل سے نہ کچھ علاقہ۔ نہ کوئی نسبت۔ کسی ہیں پر یاں۔ کسی میں براق اور کسی میں اور بیہودہ طمطراق۔ پھر کوچہ بکوچہ و دشت بدشت اشاعت غم کے لئے اس کا گشت۔ پھر اس کے گرد سینہ زنی۔ ماتم سازی کی شورا فگنی۔ حرام مریوں سے نوحہ کنی۔ غرض بیسیوں خرافات پر مشتمل اس بدعت سنیہ اور بیہودہ رسموں نے، عشرہ محرم الحرام کو کہ اگلی شریعتوں نے اس شریعت تک نہایت بابرکت اور محل عبادت ٹھہرا ہوا تھا جاہلوں اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا۔ مردوں عورتوں کا لاتوں کو میل، اور طرح طرح کے بیہودہ کھیل، ان سب پر طرہ ہیں۔ کاش۔ مسلمان اہلسنت اپنی آنکھوں سے، دین و ایمان کی روشنی میں ان بیہودگیوں کا جائزہ لیں اور خدا و رسول کے احکام کی خلافت درزی سے بچیں۔

۴۔ بعض لوگ اس موقع پر خیر خیرات بھی کرتے ہیں مگر خیرات کو بھی بطور خیرات نہ رکھا۔ ریاء و تفاخر اعلانیہ ہوتا ہے۔ پھر وہ بھی یہ نہیں کہ سیدھی طرح محتاجوں کو دیں۔ بلکہ چھتوں پر بیٹھ کر پھینکیں گے۔ روٹیاں وغیرہ زمین پر گر رہی ہیں۔ رزق الہی کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ پیسے دینے میں گر کر غائب ہو رہے ہیں مال کی اضاعت ہو رہی ہے۔ مگر نام تو ہو گیا کہ فلاں صاحب لنگر لٹا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، صدقہ حضرات شہدائے کربلا علیہم الرضوان والثناء کا، مسلمانوں کو نیک توفیق بخشے اور بدعات سے توبہ دے۔ آمین۔

(افادات رضویہ۔ بہار شریعت)



## اولیاء اللہ کا بیان

قَالَ اللهُ تَعَالَى اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ . لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ .

”سن لو بے شک، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ وہ جو ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں۔“

اولیاء جمع ہے ولی کی۔ ولی کی اصل دلا ہے۔ جو قرب و نصرت کے معنی میں ہے۔ ولی کا ترجمہ کسی ایک لفظ سے مشکل ہے۔ رفیق دوست۔ پشت پناہ۔ سرپرست۔ قریب والی۔ اور مددگار سب کے مفہوم اس میں شامل ہیں۔ بگڑے کام بنانے والا، اڑے وقت میں کام آنے والا، سب اس کے معنی میں داخل ہیں۔ اور اصطلاحی معنی میں ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولیٰ عزوجل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔

قرب کی دو قسمیں ہیں ایک وہ قرب جو ہر مسلمان کو کہ صاحب ایمان ہو اپنے خالق سے ہے۔ کُلُّ مُؤْمِنٍ وَّلِيٌّ لِّلّٰهِ فِيْ اٰی اٰتِیٰتِہٖۤ اَشْرَہٗہٗ۔ دوسرا قرب خاص، جسے قرب محبت بگھکتے ہیں۔ یہ صرف خاص بندوں کو حاصل ہے۔ قرب محبت کے بہت مراتب ہیں۔ دولت ایمان سے مشرف ہونے کے بعد عزم و ہمت سے آگے بڑھنے والے، درجات قرب کو طے کرتے ہوتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جس کے لئے حدیث شریف میں فرمایا کہ ”اللہ عزوجل فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں نے اسے لڑائی کا اعلان دے دیا۔ اور میرا بندہ کسی چیز سے میرا قرب نہیں چاہتا جو مجھے اپنے ذرائع سے زیادہ پیاری ہو جو میں نے اس بندے پر رکھے ہیں اور ہمیشہ بندہ نفل عبادتوں سے میرا قرب چاہتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ پھر جب میں اسے اپنا محبوب کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے۔“

(صحیح بخاری شریف بروایت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں، کرامات اولیائے کرام پر اقامت دلائل کی حجت ششم میں اسی حدیث کریم سے فرماتے ہیں کہ ”جب بندہ ہمیشہ طاعت ربانی میں لگا رہتا ہے تو اس مقام

تک پہنچتا ہے۔ جس کی نسبت اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میں خود اس کے کان ہو جاتا ہوں۔" تو جب جلال الہی کا نور اس کا کان ہو جاتا ہے، بندہ نزدیک و دور سب سنتا ہے اور جب وہ نور اس کی آنکھ ہو جاتا ہے، بندہ نزدیک و دور سب دیکھتا ہے اور جب وہ نور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے بندہ سہل و دشوار دور و نزدیک میں تصرف کرتا ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ مومن کامل کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔" اور ایک حدیث میں اتنا اور بھی زائد ہے کہ "وہ اللہ کی توفیق سے بات کرتا ہے۔" (ترمذی) لیکن یہ مقام حاصل اسی وقت ہوتا ہے کہ آدمی دل و بدن دونوں پر جتنے احکام الہیہ ہیں سب بجالائے۔ نہ کسی کبیرہ کا ارتکاب کرے نہ کسی صغیرہ پر مصر رہے۔ قلب و قالب کو صفات ذمیمہ سے خالی اور اعلیٰ اخلاق سے معمور رکھے۔ حاشا اس سے وہ مراد نہیں کہ صرف اپنا ظاہر، احکام شرع سے آراستہ اور معاصی سے منزہ کر لیا اور متقی و پرہیزگار ولی اور اللہ کے دوستان بن گئے اگرچہ باطن، مثلاً ریا و عجب و تکبر و حب جاہ و حب شہرت۔ امر لو کی تعظیم۔ فقراء و مساکین کی تحقیر۔ خواہشات نفسانی کا اتباع اور حرص و تجمل کا انقیاد وغیرہا آفتوں سے ملوث ہو۔ اور عبادات و ریاضت میں تساہل اور اپنے نفسِ جبیت کی پرورش جیسی، ہلاکت خیز صفات سے گندہ ہو رہا ہو۔ جیسے مژنبہ (گندگی اور کوڑے کرکٹ کی جگہ) پر زربفت کا خیمہ، اوپر زینت اور اندر نجاست۔ کہ یہ باطنی گندگیاں، اس ظاہری صلاح پر بھی قائم نہیں رہنے دیتیں۔

غرض ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور طاعات الہی میں مشغول رہے اور اس کا دل، نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق رہے۔ جب دیکھے۔ دلائل قدرت کو دیکھے اور جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے۔ اور جب حرکت کرے طاعت الہی میں حرکت کرے۔ اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے۔ جو قرب الہی کا ذریعہ ہو۔ اللہ کے ذکر سے نہ تنگے اور چشم دل سے خدا کے سوا، غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفات اولیاء اللہ کے ہیں اور جب بندہ اس حال کو پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے اللہ وِیِّ الدَّائِنِ . اٰمَنُوْا میں اسی کا بیان ہے۔ متکلیں کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح، مبنی بر دلیل رکھتا ہو۔ اور اعمال صالحہ، شریعت کے مطابق بجالاتا ہو۔ "بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا۔" اور جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے کسی چیز

کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ اور نہ کسی شے کے فوت ہو جانے کا غم ہوتا ہے۔ یعنی نہ آنے والے ہلکا  
 وحوادث کا کوئی اندیشہ۔ اور نہ چھوٹ جانے والی چیزوں کا غم۔ صوفیائے عارفین نے کہا ہے کہ حزن  
 (غم) پیدا ہوتا ہے ناکامی مدعا سے۔ اور عاشقان سوختہ جان کوئی آرزو ہی نہیں رکھتے جو انہیں  
 نامرادی کا اندیشہ ہو سکے۔ اسی طرح خوف پیدا ہوتا ہے، امر مکروہ کے پیش آ جانے سے، اور محبین  
 عارفین تو بجز محبوب کے اور کسی کا وہم بھی نہیں رکھتے تو انہیں خوف سے کیا واسطہ۔ اسی لئے فرمایا  
 گیا ہے کہ ولایت وہی شے ہے۔ نہ یہ کہ آدمی اعمال شاقہ سے خود حاصل کر لے۔ البتہ غالباً، اعمال  
 حسنہ، اس عطیہ الہی کے لئے ذریعہ ہوتے ہیں اور بعضوں کو ابتداءً مل جاتی ہے۔ پھر چونکہ ولایت  
 آفتاب نبوت کا آئینہ ہے اس لئے یہ دولت، بے علم کو نہیں ملتی۔ خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا  
 اس مرتبہ پر پہنچنے سے پیشتر اللہ عزوجل کی عنایت بے غایت نے اس پر علوم منکشف کر دیے ہوں۔  
**عقیدہ ۱۰۔** تمام اولیائے اولین و آخرین سے اولیائے محمدین یعنی اس امت کے اولیاء  
 افضل ہیں اور تمام اولیائے محمدین میں سب سے زیادہ معرفت و قرب الہی میں خلفائے اربعہ  
 رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں اور ان میں ترتیب وہی ترتیب افضلیت ہے۔ یعنی سب سے زیادہ معرفت  
 و قرب صدیق اکبر کو ہے۔ پھر فاروق اعظم کو۔ پھر عثمان ذوالنورین کو۔ پھر مولیٰ علی مرتضیٰ کو۔ رضی اللہ  
 تعالیٰ عنہم اجمعین۔

ہاں مرتبہ تکمیل پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جانب کمالات نبوت میں، حضرات  
 شیخین کو قائم فرمایا اور جانب کمالات ولایت میں۔ حضرت مولیٰ مشکل کشا کو۔ تو جملہ اولیائے مابعد  
 نے، مولیٰ علی ہی کے گھر سے نعمت پائی اور انہیں کے دست نگر تھے۔ اور ہیں اور رہیں گے۔

**عقیدہ ۱۱۔** طریقت، منافی شریعت نہیں۔ وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے۔ بعض جاہل  
 متصوف یعنی صوفی نا جاہل جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے، شریعت اور۔ یہ محض گمراہی  
 ہے۔ اور اس زعم باطل کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا مزح کفر و الحاد ہے۔  
**تشریح ۱۲۔** احکام شرعیہ کی پابندی سے، کوئی ولی، کیسا ہی عظیم ہو سبکدوش نہیں ہو سکتا  
 بعض جاہل جو یہ بگ دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے۔ اور راستہ کی حاجت ان کو ہے جو مقصود  
 تک نہ پہنچے ہوں ہم تو پہنچ گئے۔ یہ محض جہالت بلکہ دوسرے شیطانی ہے۔

حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی۔ کچھ لوگ زعم کرتے ہیں کہ احکام شریعت تو وصول کا ذریعہ تھے اور ہم واصل ہو گئے۔ یعنی اب ہمیں شریعت کی کیا حاجت۔ آپ نے ارشاد فرمایا صِدَقُوا فِي الْوُصُولِ وَلَكِنْ اِلَى سَقَرٍ لَمْ يَسْعُرُوْا كَيْفَ يَسْعُرُوْنَ۔ واصل ضرور ہوئے بے شک پہنچے۔ مگر کہاں تک، جہنم تک۔ چور اور زانی ایسے عقیدے والوں سے بہتر ہیں۔ میں اگر ہزار برس جیوں، تو فرائض و واجبات تو بڑی چیز ہیں، جو نوافل و مستحبات مقرر کر لئے ہیں۔ بے عذر شرعی ان میں سے کچھ کم نہ کروں۔“

خلاف پیغمبر کے رہ گزیدہ کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید  
البتہ اگر مجذوبیت سے عقل نائل ہوگئی ہو جیسے غشی والا۔ تو اس سے قلم شریعت اٹھ جائے گا۔ مگر یہ بھی سمجھ لیں کہ جو اس قسم کا ہوگا۔ اس کی ایسی حرکتیں کبھی نہ ہوں گی۔ شریعت کا مقابلہ کبھی نہ کرے گا۔ یہی پہچان ہے سچے مجذوب کی۔

حضور پر نور غوث الاغواث، سیدنا محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ولایت پر تو نبوت ہے اور نبوت پر تو الوہیت۔ اور ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے قانون پر ٹھیک اترے۔ یعنی خلاف شرع نہ ہو۔ نیز ارشاد فرمایا "فقہ حاصل کر، اس کے بعد خلوت نشین ہو۔ جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرے وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ اپنے ساتھ شریعت الہیہ کی شمع لے لے۔"

(بہجتہ الامراء شریف)

حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی نے ایک شخص کے بارے میں سنا کہ زہد و تقویٰ میں مشہور اور خواص و عوام کا مرجع بنا ہوا ہے۔ شوق ملاقات میں تشریف لے گئے۔ اتفاقاً اس شخص نے قبلہ کی طرف تھوکا۔ حضرت ابو یزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس آئے۔ اس سے سلام علیک بھی نہ کی اور فرمایا "یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے ایک ادب پر تو امین ہے نہیں جس چیز کا ادعا رکھتا اور دعویٰ کرتا ہے اس پر کیا امین ہوگا؟" آپ ہی کا اہم شاد گرامی ہے "اگر تم کسی شخص کو دیکھو ایسی کرامت دیا گیا کہ ہوا پر چار زانو بیٹھ سکے تو اس سے فریب نہ کھانا جب تک یہ نہ دیکھو کہ فرض واجب، مکروہ و حرام، اور محافظت حدود و آداب شریعت میں اس کا حال کیسا ہے۔ (تشریح)

## اسے عزیز! شریعت راہ کو کہتے ہیں

اور شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحمیہ کا ترجمہ ہے "محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ" اور یہ قطعاً عام و مطلق ہے نہ کہ صرف چند احکام جسمانی سے خاص۔ یہی وہ راہ ہے کہ پانچوں وقت ہر نماز بلکہ ہر رکعت میں اس کا مانگنا اور اس پر ثبات و استقامت کی دعا کرنا، ہر مسلمان پر واجب ٹھہرایا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہم کو صراطِ مستقیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چلا ان کی شریعت پر ثابت قدم رکھ۔

یہی وہ راہ ہے جس کا منہا اللہ ہے۔ قرآن عظیم میں فرمایا اِنَّ رَبِّيْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ "بے شک اسی سیدھی راہ پر میرا رب ملتے ہے" یہی وہ راہ ہے جس کا مخالف بددین گمراہ ہے۔ یہی وہ راہ ہے جس سے وصول الی اللہ ہے۔ اس کے سوا آدمی جو راہ چلے گا، اللہ سے دور پڑے گا۔ شریعت تمام احکام جسم و جان و روح و قلب و جملہ علوم الہیہ و معارف نامتناہیہ کو جامع ہے۔ جن میں سے ایک ایک مکروے کا نام طریقت و معرفت ہے۔ طریقت یہی شریعت ہے۔ اسی روشن راہ کا ٹکڑا ہے۔ اس کا اس سے جدا ہونا محال و ناممکن ہے۔ جو اسے شریعت سے جدا جانتا ہے اسے راہ خدا سے توڑ کر، راہ ابلیس مانتا ہے۔ مگر حاشا طریقت حقہ، راہ ابلیس نہیں۔ قطعاً راہ خدا ہے۔ یقیناً وہ شریعت مطہرہ ہی کا ٹکڑا ہے طریقت میں جو کچھ منکشف ہوتا ہے۔ شریعت ہی کے اتباع کا صدقہ ہے۔ ورنہ بے اتباع شرع بڑے بڑے کشف، راہیوں جو گیوں سنیا سیوں کو ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہاں تک لے جاتے ہیں اسی نارنجیم و عذاب الیم تک پہنچاتے ہیں۔

شریعت مطہرہ ایک ربانی نور کا فانوس ہے کہ دینی عالم میں، اس کے سوا کوئی روشنی نہیں۔ اس کی روشنی بڑھنے کی کوئی حد نہیں۔ زیادت چاہنے، افزائش پانے کے طریقے کا نام طریقت ہے۔ یہ روشنی بڑھ کر، صبح۔ اور پھر آفتاب اور پھر اس سے بھی غیر متناہی درجوں تک ترقی کرتی ہے کہ باختلاف مراتب، اس کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔

بالجملہ شریعت کی حاجت، ہر مسلمان کو، ایک ایک سانس، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ پر مرتے دم تک ہے اور طریقت میں قدم رکھنے والوں کو اور زیادہ۔ کہ راہ جس قدر باریک اسی قدر ہادی کی حاجت

زیادہ۔ ولہذا حدیث میں آیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمُتَّعِبُ دَا بَعْدَ فِتْنَةٍ  
 كَالْجِمَارِ فِي الطَّاحُونِ۔ بغیر فقہ کے عبادت میں پڑنے والا، ایسا ہے جیسا چکی کھینچنے  
 والا گدھا۔ کہ مشقت جھیلے اور نفع کچھ نہ پائے۔ ولہذا دوسری حدیث میں فرمایا "ایک فقیہ، شیطان پر  
 ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے" بے علم مجاہدہ و ریاضت والوں کو شیطان انگلیوں پر نچاتا ہے۔  
 منہ میں لگام، ناک میں نیل ڈال کر، جدھر چاہے کھینچتا پھرتا ہے اور وہ اپنے جی میں سمجھتے ہیں ہم نیک  
 کام کر رہے ہیں۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ۔ (مقالہ العرفاء)

**عقیدہ**۔ کرامت اولیاء حق ہے اس کا منکر گمراہ ہے۔

**تشریح**۔ حکیم مطلق جل جلالہ نے اپنی حکمت کاملہ سے، عالم اسباب میں، ہر چیز کو کسی نہ  
 کسی سبب سے مربوط فرمادیا ہے کہ جب وہ سبب پایا جاتے سبب وجود و ظہور میں آئے۔ لیکن جیسا  
 کہ ہم معجزات کے بیان میں بت چکے کہ بعض اسباب ایسے ہیں جن کا سراغ لگانے سے ہماری عقلیں  
 قاصر اور فہم و ادراک عاجز ہیں۔ گویا ہماری نگاہوں میں، کسی ظاہر سبب کے بغیر سبب کا ظہور ہو گیا۔  
 اسی کو ہم خرق عادت سے تعبیر کر دیا کرتے ہیں۔ یہی خرق عادت انبیائے کرام سے، صادر ہوتا ہے معجزہ  
 اور اولیائے کاملین سے صدور میں آتے تو کرامت ہے۔ معجزہ نبی کے دعویٰ نبوت میں پچھے ہونے کی  
 دلیل ہے اور کرامت، اولیائے برحق کی تکریم کرامات اولیاء کرام، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے  
 معجزوں کا پر تو ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ نبی پر اپنے دعویٰ نبوت کا اظہار فرض ہے اور ولی پر اپنے حال  
 کا اظہار لازم۔ ہاں اگر کسی مجبوری سے اظہار کرنا پڑے یا خود بخود اس کا اظہار ہو جائے تو کوئی مضائقہ  
 نہیں۔ یوہیں ولی کو اپنی کرامت کا اظہار حتی الامکان ممنوع ہے کہ کرامات الاولیاء حیض النساء  
 اور ضرورت یا بدرجہ مجبوری اس کا اظہار ہو جائے تو کوئی مواخذہ نہیں۔

اولیائے کرام کی کرامات کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ہے اور احادیث و اخبار و آثار صحیحہ  
 سے بھی کرامتوں کا برحق ہونا ثابت ہے۔ مثلاً سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں مذکور کہ جب سیدنا  
 سلیمان علیہ السلام نے اپنے اہل دربار سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا اَيُّكُمْ يَأْتِيَنِي بَعْرُ شَيْهَانَا  
 تم میں سے ایسا کون ہے کہ اس (ملکہ سبا) کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے  
 حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں۔ تو ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل

اس کے کہ حضور اجلاس برخواست کریں۔ آپ نے فرمایا میں اس سے جلد چاہتا ہوں۔ اس پر ایک ”بندہ خدا“ نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا یہ کہا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ قَبْلُ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ۔ یہاں چند باتیں قابل لحاظ ہیں۔ (۱) ملائکہ سب نے اپنا تخت، اپنے سات مملوں میں سے، سب سے پچھلے محل میں محفوظ کر کے تمام دروازے مقفل کر دیئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا انتظام کیا۔ (۲) ملک یمن اور فلسطین کا درمیانی فاصلہ تقریباً ڈیڑھ ہزار میل ہے اور بحری رستے سے پہنچنے میں اس وقت مہینوں کا ذکر نہیں، دو، دو تین تین، سال لگ جایا کرتے تھے (۳) سیدنا سلیمان علیہ السلام کو، ایک زبردست بادشاہ کی قاہرانہ طاقتوں کا مظاہرہ مقصود نہ تھا بلکہ اپنے کمالات باطنی کے ساتھ، اپنی قوت اعجاز کا اظہار منظور تھا تاکہ ملائکہ سب کے لئے اطاعت و انقیاد اور قبول حق کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ رہے (۴) جس شخص کے لئے قرآن عزیز نے یہ کہا ہے کہ قَالَ الَّذِي عِنْدَنَا لَا يَعْلَمُ مِّنَ الْكِتَابِ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس کا نام آصف بن برخیا ہے جو آپ کے وزیر و معتمد خاص تھے جیسا کہ جمہور کا قول ہے اور یہ قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جانب منسوب ہے۔

حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے شرف صحبت سے ان کو تورات و زبور اور اسماء و صفات الہی سے متعلق، اسرار و حقائق کا زبردست علم تھا۔ اسی لئے آپ نے یہ سمجھ کر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس واقعہ کو معجزہ اور خرق عادت کے بطور ظاہر فرمانا چاہتے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مبارک توجہ، اس اعجاز کو پورا کر دکھائے گی۔ اسی لئے آپ نے عرض کیا کہ آپ نبی بن نبی ہیں اور جو توبہ بارگاہ الہی میں آپ کو حاصل ہے یہاں کس کو میسر ہے۔ آپ دعا کریں تو وہ آپ کے پاس ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو اور دعا کی اسی وقت تخت زمین کے نیچے چل کر آپ کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور آصف بن برخیا کی کرامت رہا قرآن کریم نے پلک جھپکتے، ملکہ سبا کا تخت شاہی لانے والے کا نام نہیں لیا بلکہ اس کے لئے یہ بات بیان فرمائی کہ اس کے پاس علم من الکتاب تھا۔ جس کا صریح مفاد یہ ہے کہ علم من الکتاب ہی باعث تھا۔ انہیں اس قوت و طاقت کے مظاہرہ کا کہ پل بھر میں پندرہ سو میل کی مسافت سے، ملکہ سبا کا تخت، سبا سے بیت المقدس پہنچا دیا۔ یہی خرق عادت ہے اور اسی کا نام کرامت ہے۔ پھر جب

سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی، اسم اعظم یا علم من الکتاب کی بدولت ایسے امور انجام دے سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام کی شان اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے۔ اب بھی اولیائے کرام کی کرامت کا انکار وہی کرے گا جسے حق کی تابشوں سے ضد ہے اور جو درحقیقت معجزات کا منکر ہے۔

## واجب الحفظ چند امور

۱۔ اولیائے کرام کو اللہ عزوجل نے بہت بڑی طاقت دی ہے۔ ان میں جو اصحاب خدمت ہیں ان کو تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے۔ سیاہ سفید کے مختار بنا دیئے جلتے ہیں۔ یہ حضرات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں۔ ان کو اختیارات و تصرفات، حضور کی نیابت میں ملتے ہیں۔ علوم غیبیہ ان پر منکشف ہوتے ہیں۔ ان میں بہت کو ماکان و مایکون اور تمام لوح محفوظ پر اطلاع دیتے ہیں۔ مگر یہ سب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے اور عطا سے ہے بے وساطت رسول۔ کوئی غیر نبی، کسی غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔

۲۔ مردے زندہ کرنا۔ مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا۔ مشرق سے مغرب تک اس معجزہ کے، جس کی بابت دوسروں کے لئے ممانعت ثابت ہو چکی ہے جیسے قرآن مجید کے مثل کوئی سورت لے آنا، یا دنیا میں بیداری کی حالت میں، اپنے چشم سر سے، اللہ عزوجل کے دیدار، یا کلام حقیقی سے مشرف ہونا اس کا جو اپنے یا کسی ولی کے لئے دعویٰ کرے کافر ہے کہ انکار کرتا ہے قطعی و یقینی الثبوت، حقائق سے اسلام کا۔

۳۔ ان کے مزارات پر حاضری، مسلمان کے لئے سعادت و باعث برکت ہے۔ ان کی قبور کو بوسہ دینا بعض علماء نے جائز کہا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ منع ہے (اشعة البعات) اور قبر کا طواف تعظیمی منع ہے۔ اور اگر برکت لینے کے لئے گرد مزار پھرا تو حرج نہیں۔ مگر عوام منع کئے جائیں۔ بلکہ عوام کے سامنے کیا بھی نہ جائے کہ کچھ کا کچھ سمجھیں گے۔

۴۔ اولیاء اللہ کے مزارات پر، بلکہ عوام مسلمین کی قبروں پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جیب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا۔ اسی لئے حکم ہے کہ قبر پر سے، تر گھاس نوچنا نہ چاہئے۔



کہ اس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کو انس ہوتا ہے اور نوچنے میں میت کا حق ضائع کرتا ہے۔ (ردالمحتار)

۵۔ عورتوں کے لئے بھی بعض علماء نے مزارات پر جانا، جائز بتایا۔ مگر عزیزوں کی قبور پر جائیں گی تو حزرع فرع کریں گی لہذا ممنوع ہے۔ اور صالحین کی قبور پر برکت کے لئے جائیں تو بوڑھیوں کے لئے حرج نہیں اور جوانوں کے لئے ممنوع (ردالمحتار) اور راہ سلامت یہ ہے کہ عورتیں مطلقاً منع کی جائیں کہ اپنوں کی قبور کی زیارت میں وہی جزع و فرع ہے اور صالحین کی قبور پر، یا تعظیم میں حد سے گزر جائیں گی۔ یا بے ادبی کریں گی کہ عورتوں میں یہ دونوں باتیں بہ کثرت پائی جاتی ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ) علمائے کرام نے فرمایا "مرد حاضرین مزار، مہمان ہوتے ہیں مگر عورتیں ناخواندہ مہمان۔"

۶۔ مزار کسی ولی یا محققین علماء میں سے کسی عالم کا ہے تو وہاں شمعیں روشن کرنا ہرگز ممنوع نہیں وہاں روشنی کرنے میں متعدد فائدے ہیں مثلاً وہاں کوئی مسجد ہو یا مقبرے سر راہ ہوں تو روشنی سے نمازیوں کو بھی آرام ملے گا، مسجد میں بھی روشنی ہوگی، اور راہ گیروں کو نفع پہنچے گا۔ اور اموات کو بھی کہ مسلمان، مقابر مسلمین کو دیکھ کر سلام کریں گے فاتحہ پڑھیں گے دعا کریں گے ثواب پہنچائیں گے اور مزارات اولیائے کرام سے فیض پائیں گے۔ اور خاص ولی کے مزار پر روشنی کرنے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس روشنی سے لوگ جانیں گے کہ یہ ولی کا مزار ہے اس سے تبرک کریں گے اور وہاں اللہ عزوجل سے دعا مانگیں گے اور ان کے طفیل، ان کی دعائیں مقبول ہوں گی۔ ہاں عام قبور پر محض عبت اور بلا فائدہ شمعیں روشن کرنا یا روشنی کرنا ممنوع و بدعت ہے (فتاویٰ رضویہ)

۷۔ انہیں ایصال ثواب نہایت موجب برکات و امر مستحب ہے۔ اسے عرفاً براہ ادب، نذر و نیاز کہتے ہیں۔ یہ نذر شرعی نہیں۔ جیسے بادشاہوں کو نذر و نیاز دینا۔ ان میں خصوصاً گیارہویں شریف کی فاتحہ نہایت عظیم برکت کی چیز ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ خواہ ربیع الآخر کے ماہ میں ہو یا کسی اور ماہ میں۔ اور تاریخ کو ہو یا کسی اور تاریخ میں جو فاتحہ دلانے والوں اور آنے والوں کی سہولت کے لئے مقرر کر لی جاتی ہے۔

۸۔ اولیائے کرام اپنی قبور میں حیات ابدی کے ساتھ زندہ ہیں۔ ان کے علم و ادراک و سمع و بصر پہلے کی بہ نسبت بہت زیادہ قوی ہیں۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ پاک جانیں، جب بدن کے علاقوں

سے جدا ہوتی ہیں تو عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ اباد رکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں  
شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں۔

”روح راقب و بعد مکانی یکساں ست“

۹۔ عرس اولیائے کرام یعنی قرآن خوانی و فاتحہ خوانی و نعت خوانی، و وعظ و ایصالِ ثواب، سب  
اچھی چیزیں ہیں اور باعثِ برکت و رحمت۔ رہے منہیات شرعیہ یعنی وہ امور کہ شرعاً منع ہیں تو وہ  
ہر حالت میں مذموم ہیں اور مزاراتِ طیبہ کے پاس اور زیادہ مذموم۔ مثلاً عورتوں کے جھگڑے، مخلوطِ مجمعے  
اور قوالی کی محفلوں میں نئی نئی ایجادیں قسم قسم کی بدعتیں۔ خلافتِ شرع امور پر، واپسی تباہی حرکتیں۔

۱۰۔ اولیاء اللہ سے استمداد و استعانت محبوب ہے۔ ان کو دور و نزدیک سے پکارنا، سلف صالح  
کا طریقہ ہے۔ یہ مدد مانگنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ کسی جائز لفظ کے ساتھ ہو۔ رہا ان کو فاعل مستقل  
جاننا، تو یہ وہابیہ کا فریب ہے۔ مسلمان کبھی ایسا خیال نہیں کرتا۔ مسلمان کے فعل کو خواہ مخواہ قبیح  
رسومات پر ڈھالنا وہابیت کا خاصہ ہے۔

**تشریح :-** استعانت کی دو صورتیں ہیں۔ استعانتِ حقیقیہ اور استعانتِ غیر حقیقی۔ استعانت  
حقیقیہ یہ ہے کہ جس سے مدد چاہیں اسے قادر بالذات و مالکِ مستقل و غنی بے نیاز جانیں۔ کہ بے  
عطلے الہی وہ خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے۔

اس معنی کا غیر خدا کے ساتھ اعتقاد ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے۔ نہ ہرگز کوئی مسلمان غیر  
خدا کے ساتھ اس معنی کا قصد کرتا ہے۔ مگر وہابیہ کی بد عقلی کو کیا کہئے۔

استعانتِ غیر حقیقی یہ ہے کہ جس سے مدد کا خواہاں ہو اسے وصولِ فیض کا ذریعہ، اور قضاے  
حاجت کا ذریعہ و وسیلہ جانے۔ اور یہ قطعاً سچی ہے۔ خود رب العزت نے قرآنِ عظیم میں حکم فرمایا۔

وَابْتَغُوا إِلَيْهَا الْوَسِيلَةَ ۗ اللَّهُ فِي سُبُلِهِ مَخْرُجَاتٌ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرَاتُ ۗ  
والسلام سے یہی استعانت کرتے ہیں۔ ایک بیوقوف وہابی نے کہا ہے اور اب بھی کہہ دیتے ہیں کہ

وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے ؛ جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے  
جواب دیا گیا اور یہی جواب دیا جائے گا کہ

تو تسل کر میں سکتے خدا سے ؛ اسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے

یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے، اسے کسی کے یہاں وسیلہ و ذریعہ بنائے۔ اسی وسیلہ بننے کو ہم اولیائے کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ بارگاہ الہی میں ہمارا وسیلہ و ذریعہ، اور فضلے حاجات کا واسطہ ہو جائیں تاکہ وہ مولائے غنی و بے نیاز ہماری حاجتیں روا فرمادے۔

اسی لئے احادیث کریمہ میں حکم فرمایا گیا کہ "فضل میرے رحمدل امتیوں کے پاس طلب کرو کہ ان کے سائے میں چین کرو گے۔ کہ ان میں میری رحمت ہے؛ نیز فرمایا "اپنی حاجتیں میرے رحمدل امتیوں سے مانگو رزق پاؤ گے مرادیں پاؤ گے" (حاکم و طبرانی وغیرہما) نیز ارشاد ہوا "میرے نرم دل امتیوں سے نیکی و احسان مانگو۔ ان کے ظل عنایت میں آرام کرو گے (حاکم فی المستدرک)

انصاف کی آنکھیں کہاں ہیں ذرا ایمان کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ اور اسی مضمون کی دوسری حدیثیں کیسا صاف صاف و اشکاف فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نیک امتیوں سے استعانت کرتے ان سے حاجتیں مانگتے۔ ان سے خیر و احسان طلب کرنے کا حکم دیا۔ اور امید بندھائی کہ وہ تمہاری حاجتیں بکشاہدہ پیشانی روا کریں گے۔ ان سے رزق مانگو تو رزق پاؤ گے مرادیں پاؤ گے۔ ان کے دامن حمایت میں چین کرو گے۔ ان کے سایہ عنایت میں عیش اٹھاؤ گے؛ یارب مگر استعانت اور کس چیز کا نام ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا صورت استعانت ہوگی۔ پھر حضرات اولیاء سے زیادہ کون سا امتی نیک و رحمدل ہوگا کہ ان سے استعانت شرک ٹھہرا کر۔ اس سے حاجتیں مانگنے کا حکم دیا جائے گا۔ مگر وہاں یہ کامتہ خدا نے مارا ہے۔ انہیں اس عیش، آرام، چین، خیر و برکت سایہ رحمت، دامن رافت میں حصہ کہاں جس کی طرف مہربان خدا کا، مہربان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بلا رہا ہے۔ (برکات الامداد)

۵ گھر بر تو حرام ست حرمت بادہ

فائدہ ہتمہدہ وہاں یہ بیچارے کم علموں کو اکثر دھوکے دیتے ہیں کہ "یہ تو زندہ ہیں فلاں عقیدہ یا معاملہ ان سے شرک نہیں۔ وہ مردہ ہیں ان سے شرک ہے" یا یہ تو پاس بیٹھے ہیں ان سے شرک نہیں وہ دور ہیں ان سے شرک ہے" و علی ہذا القیاس طرح طرح کے یہودہ و سواں سے مسلمان بیچاروں کو بہکاتے ہیں۔ مگر یہ سخت جہالت بے مزہ ہے۔ جو شرک ہے وہ جس کے ساتھ کیا جائے شرک ہی ہوگا۔ اور ایک کے لئے شرک نہیں تو وہ کسی کے لئے شرک نہیں ہو سکتا

کیا اللہ کا شریک مردے نہیں زندہ ہو سکتے ہیں۔ دور کے نہیں پاس کے ہو سکتے ہیں۔ انبیاء نہیں ہو سکتے حکیم ہو سکتے ہیں۔ انسان نہیں فرشتے ہو سکتے ہیں۔ حاشا اللہ۔ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو مثلاً جو بات نداء خواہ کوئی شے جس اعتقاد کے ساتھ کسی پاس بیٹھے ہوئے زندہ آدمی سے شرک نہیں، وہ اتنی اعتقاد سے کسی دور والے یا مردے بلکہ اینٹ پتھر سے بھی شرک نہیں ہو سکتی اور جو ان میں کسی سے شرک ٹھہرے وہ یقیناً قطعاً تمام عالم سے شرک ہوگی۔ اس استعانت ہی کو دیکھئے کہ جس معنی پر، غیر خدا سے شرک ہے یعنی اسے قادر بالذات و مالک مستقل جان کر، مدد مانگنا بایں معنی اگر دفع مرض میں، طبیب یا دوا سے استمداد کرے۔ یا حاجت فقر میں امیر یا بادشاہ کے پاس جاوے۔ یا انصاف کرانے کو کسی کچہری میں مقدمہ لڑاتے۔ بلکہ کسی نے روزمرہ کے معمولی کاموں ہی میں مدد لے۔ جو بالیقین تمام وہابی صاحبان روزانہ اپنی عورتوں بچوں نوکرانوں سے کرتے کراتے رہتے ہیں مثلاً یہ کہنا کہ فلاں چیز اٹھا دے۔ یا کھانا پکا دے۔ یا پانی پلا دے، یہ سب شرک قطعی ہے کہ جب یہ جانا کہ اس کام کر دینے پر انہیں خود اپنی ذات سے بے عطائے الہی قدرت ہے تو صریح کفر و شرک میں کیا شہہ رہا۔ اور جس معنی پر ان سب سے استعانت شرک نہیں یعنی عون و مدد الہی کا منظر اور فضل خداوندی کا وسیلہ و واسطہ و سبب و ذریعہ سمجھنا، اس معنی پر حضرات انبیاء و اولیاء علیہم افضل السلوٰۃ و الثنا سے کیوں شرک ہونے لگی بلکہ یہ حضرات علیہ تو اعلیٰ منظر و اعظم سبب، و افضل وسائل بلکہ منتہی الاسباب و نہایت الوسائل ہیں۔ ایسا سمجھنا شرک ہو گیا تو ہزار تفت ایسی بے عقلی پر۔ مسلمان اس نکتہ کو خوب محفوظ و ملحوظ رکھیں۔ جہاں ان چالاکوں عیاروں کو فرق کرتے دیکھیں کہ فلاں عمل یا فلاں اعتقاد فلاں کے ساتھ شرک ہے فلاں سے نہیں یقین جان لیں کہ نرے جھوٹے ہیں۔ جب ایک جگہ شرک ہیں تو اس اعتقاد سے کسی جگہ شرک نہیں ہو سکتا۔

(برکات الامداد)

## ایک اور ضروری تنبیہ

چونکہ عموماً مسلمانوں کو بحمدہ تعالیٰ اولیائے کرام سے نیاز مندی اور مشائخ کے ساتھ انہیں ایک خاص عقیدت ہوتی ہے اور ان کے سلسلہ میں منسلک اور ان کے غلاموں کفیش برداروں۔ خدمتگاروں میں اپنا شمار اپنے لئے فلاح دارین اور سعادت کونین تصور کرتے ہیں اس وجہ سے

زمانہ حال کے بد مذہبوں بالخصوص وہابیہ نے اہلسنت کا لبادہ اوڑھ کر سوادِ اعظم اہلسنت کے مذہبِ مہذب کی تائید و حمایت کا نام لے کر اپنی چرب زبانی کی آرٹ میں، ناواقف و کم علم سیدھے سارے، بھولے بالے، سنی مسلمانوں، بالخصوص ان کی عورتوں کو گمراہ کرنے کے لئے یہ جال پھیلا رکھا ہے کہ پیری مریدی بھی شروع کر دی۔ حالانکہ اولیائے الہی کی عظمتوں کے یہ منکر۔ ان کی کرامتوں سے انہیں انکار۔ ان کی تنقیص تو توہین کے یہ مرتکب۔ محبوبانِ خدا کی تذلیل ان کا شعار۔ لہذا جب کسی سلسلہ میں مرید ہونا ہو تو اچھی طرح تفتیش اور دھورہ کر تحقیق احوال کر لیں۔ اگر پاس گئے اور ہوا وہ بد مذہب بے دین تو سلسلہ مشائخ میں داخل ہونا الگ رہا۔ ایمان بھی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے

۱۔ اے بسا ابلیس آدم روتے ہست ۛ پس بہر دستے، نباید داد دست  
مرشد خاص جسے پیر و مرشد کہتے ہیں یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا تک متصل حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم اجمعین وبارک وسلم الی یوم الدین تک متصل ہو جائے اس کے لئے چار شرطیں ہیں بے ان کے بیعت جائز نہیں۔

۱۔ شیخ کا سلسلہ با اتصال صحیح، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا ہو۔ بیچ میں منقطع نہ ہو کہ منقطع کے ذریعے اتصال ناممکن۔ بعض لوگ بلا بیعت محض وراثت کے زعم میں، اپنے باپ دادا کے سجادے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یا بیعت تو کی تھی مگر خلافت نہ ملی تھی۔ بلا اذن شیخ، مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں اس بیعت سے ہرگز اتصال حاصل نہ ہوگا۔ بیل سے دودھ یا بانجھ سے بچہ ملنے کی مت جدا ہے۔

۲۔ شیخ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ بد مذہب گمراہ کا سلسلہ شیطان تک پہنچے گا۔ نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آج کل بہت کھلے ہوئے بد دینوں بلکہ بے دینوں حتیٰ کہ وہابیہ نے کہ سرے منکر دشمن اولیاء ہیں، بدکاری کے لئے پیر مریدی کا جال پھیلا رکھا ہے۔ ہوشیار خبردار احتیاط احتیاط۔

۳۔ ہر کہ پسے کور شد ۛ در چہ و در گور شد

۳۔ عالم ہو کہ عقائد اہلسنت سے پورا واقف، کفر و اسلام و ضلالت و ہدایت کے فرق کا خوب عارف ہو ورنہ آج بد مذہب نہیں کل ہو جائے گا۔ سد ہا کلمات و حرکات ہیں۔ جن سے کفر لازم آتا ہے اور جہاں براہِ جمالت ان میں پڑ جاتے ہیں اور سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اور جب علم نہیں تو اپنی خطا

پر مطلع بھی نہ ہوں گے اور دوسرے کی براہِ نقسانیت مانیں گے نہیں لاجرم یہ سلسلہ کہ ٹوٹ چکا ہے جاری رکھیں گے۔ لہذا عالم عقائد ہونا اور اتنا علم رکھنا کہ اپنی ضروریات کے مسائل، فقہ کی کتابوں سے نکال سکیں لازم و ضرور ہے۔ اور پیر بننے کے لئے علم دین کی شدید ضرورت ہے۔

۴۔ فاسق معین نہ ہو کہ نہ گناہ کبیرہ کا علی الاعلان ارتکاب کرتا ہے نہ صغیرہ گناہوں پر اسے اصرار ہے۔ اور نہ ایسے امور اس سے سرزد ہوتے ہیں جو غیرت ایمانی دمرت کے خلات ہیں۔ مثلاً ڈارچی موڈنیا یا ترشوانا۔ یا عورتوں کی طرح بال بڑھا کر شانوں سے ٹسکانا۔ یا مریدوں کو گالی گلوچ سے نوازنا یا غیروں کے ساتھ، بلاوجہ شرعی بد اخلاقی سے پیش آنا۔ یا سربراہ، بلا جھجک کھانا پینا وغیرہا۔

اور یہ سب اس لئے کہ پیر کی تعظیم لازم ہے اور فاسق معین کی توہین واجب۔ تو دونوں کا اجتماع باطل۔ پیر کی عظمت دل میں نہ ہو تو فیض کے دروازے بند۔ اور فاسق معین کی تعظیم و توقیر بجالائے تو دین کی تباہی کا اندیشہ۔ لہذا لازم کہ پیر فاسق معین نہ ہو۔

محبوبانِ خدا کے غلاموں کے دفتر میں نام لکھ جانا۔ ان سے سلسلہ متصل ہو جانا فی نفسہ بڑی سعادت ہے اور بہت مفید اور دنیا و آخرت میں بکار آمد ہے۔ محبوبانِ خدا آیہ رحمت ہیں وہ اپنا نام لینے والوں کو اپنا کر لیتے ہیں اور اس پر نظر رحمت رکھتے ہیں۔ لیکن جو خود فلاح پیر نہیں وہ اپنے نام لیووں کی بگڑی کیا بنائیں گے۔ اور وہ جاہل اجہل یا ضال اضل کہ بے پڑھے یا چند کتابیں پڑھ کر بزعم خود عالم دین بلکہ شیخ باکمال بن کر، علمائے دین و مشائخ کرام سے بے نیاز ہو بیٹھے، یہ خود ہی نفس و شیطان کا شکار ہیں دوسروں کی کیا رہنمائی کریں گے۔ لہذا مرید ہونے سے پہلے پیر کو خوب اچھی طرح دیکھ لیں۔ اس کے احوال کی تحقیق کر لیں۔ کہ دین باقی ہے تو انجام کار رستگاری ہے اور جب دین ہی نہ رہا تو ظاہری دینداری، عذابِ آخرت سے بچا نہ سکے گی۔ مولائے کریم اپنا فضل فرمائے۔ آمین۔

## تقلیدِ ائمہ سے متعلق چند ضروری امور

۱۔ تقلید کے شرعی معنی ہیں "کسی کے قول و فعل کو اپنے لئے حجت بنا کر، دلیل شرعی پر نظر کرنے بغیر مان لینا۔ یہ سمجھ کر کہ وہ اہل تحقیق سے ہے اور اس کی بات شرعاً محقق و قابل اعتماد، جیسا

کہ ہم حنفی، مسائل شرعیہ میں، امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول و فعل اپنے لئے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شرعیہ میں نظر نہیں کرتے۔

۲۔ مطلق تقلید فرض ہے اور تقلید شخصی واجب۔

۳۔ اصول عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔ یوہیں جو احکام قرآن و حدیث سے صراحتاً ثابت ہیں ان میں کسی کی تقلید روا نہیں۔ کوئی مجتہد کہے نہ کہے ان کی فرضیت ثابت ہے۔ وہ مسائل جو قرآن و حدیث و اجماع امت سے اجتہاد کر کے نکالے جائیں ان میں غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے اور مجتہد کے لئے تقلید منع۔ ائمہ مجتہدین میں جو اختلافات پائے جلتے ہیں ان کی وجہ وجہیہ ہی ہے کہ وہ اپنے منصب اجتہاد کے باعث، بلا دلیل کسی کی بات نہیں مان سکتے۔

۴۔ وہ احکام جو قرآن و حدیث سے صراحتاً ثابت ہیں، کسی مجتہد کے اجتہاد یا قیاس کو ان کے ثبوت میں کوئی دخل نہیں مثلاً نماز پنجگانہ۔ روزہ ماہ رمضان۔ زکوٰۃ اور حج بیت اللہ۔ وغیرہا۔

۵۔ وہ مسائل جزئیہ عملیہ اور احکام شرعیہ جو قرآن و حدیث میں جا بجا مذکور ہیں۔ ائمہ مجتہدین نے عامہ المسلمین کی آسانی کے لئے، جس موقع سے اور جس طرح مفہوم ہوتے تھے ان کو اسی عنوان سے اخذ کیا۔ یوہیں اجماع امت اور قیاس سے ثابت شدہ مسائل کو لے کر انہیں جدا گانہ بابوں اور متفرق فصلوں میں یک جا کر دیا۔ اسی مجموعہ کا نام فقہ ہے۔ اور اس علم میں ماہر علماء کو فقیہ کہا جاتا ہے۔

۶۔ دین کے فروعی مسائل اور احکام جزئیہ میں۔ کسی امام مجتہد کا وہ آئین یا دستور العمل، جو انہوں نے قرآن و حدیث اور اجماع امت سے اخذ کیا۔ اسے مذہب کہتے ہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ دین ایک عظیم دریا ہے اور مذہب اس سے نکلی ہوئی نہر۔ دین اصل ہے اور مذہب اس کی شاخ۔

## فرقہ غیر مقلدین

ان بہتر فرقوں میں سے ایک نیا فرقہ ہے جو بحکم حدیث، سب جہمی ہیں۔ فرقہ ناجیہ صرف ایک ہے۔ اور یہی وہ فرقہ ہے۔ جس کے متعلق حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ وہ فرقہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یعنی سنت کے پیرو۔ دوسری روایت میں فرمایا "وہ جماعت ہے" یعنی مسلمانوں کا

بڑا گروہ جسے سوادِ اعظم فرمایا اور فرمایا جو اس سے الگ ہوا جہنم میں الگ ہوا۔ اسی وجہ سے اس فرقہ کا نام "اہل سنت و جماعت" ہوا۔ اور اہل سنت کا یہ ناجی گروہ، اب چار مذہب میں مجتمع ہے۔ حنفی مالکی۔ شافعی حنبلی۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے۔ اب جو ان چار سے باہر ہے بدعتی اور حکمِ حدیث جہنمی ہے۔ شاد ولی اللہ صاحب دہلوی نے رسالہ انصاف میں الصافاً فرمایا کہ ایک مذہب کا اختیار کر لینا ایک راز ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے، علماء کے قلوب میں القاد فرمایا اور انہیں اس پر جمع فرمایا۔ چاہے اس راز کو سمجھ کر اس پر متفق ہوتے ہوں یا بے جانے، اور یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ بارہ سو سال سے بڑے بڑے علماء و فضلاء جو علم و فن میں یکتائے روزگار گزرے بلکہ محدثین و مفسرین بلکہ مشائخ کرام میں حضرت غوثِ اعظم اور خواجہ غریب نواز جیسی عظیم المرتبت ہستیاں، مقلد ہی گزریں۔ تو جو ان سے جدا ہو کر تمام مسلمانوں سے الگ ایک نئی راہ نکالتا ہے وہ آپ اپنی عاقبت خراب کرتا اور جہنم میں گرنے کا سامان کرتا ہے۔ والعیاذ باللہ رب العالمین۔

یا معشر المسلمین! یہ فرقہ غیر مقلدین کہ تقلید ائمہ دین کے دشمن، اور بیچارہ عوام اہل اسلام کے رہن ہیں۔ مذاہب اربعہ حنفی شافعی مالکی حنبلی کو چوراہہ بتائیں، ائمہ ہدیٰ مثلاً امام اعظم ابوحنیفہ کوفی، امام محمد بن ادریس شافعی، امام مالک بن انس، امام احمد بن حنبل وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اجبار و زبان، یہودیوں نصرانیوں کے مذہبی پیشوا ٹھہرائیں اور یوں درپردہ سچے مسلمانوں کو یہودی نصرانی اور عذابیہ کافر و مشرک بنائیں۔ قرآن و حدیث کی آپ سمجھ رکھنا، ارشاداتِ ائمہ کو جانچنا پر کھنا، ہر عامی جان کا کام کہیں۔ بے راہ چل کر بیگاہ چل کر، حرام خدا کو حلال کر دیں۔ حلال خدا کو حرام کہیں۔ ان کا بدعتی بد مذہب گمراہ بے ادب ہونا نہایت جلی و اظہر ہے۔ بلکہ عند الانصاف یہ طائفہ بہت سے اہل بدعت فرقوں سے مسلمانوں کے حق میں سخت نقصان دہ اور سخت فتنوں کا موجب ہے۔

صحیح بخاری شریف میں وارد کہ کان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یری الخوارج شذار خلق اللہ وقال انہم انطلقوا الی ایات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خارجیوں کو بدترین خلق اللہ جانتے کہ انہوں نے وہ آیتیں جو کافروں کے حق میں اتریں، اٹھا کر مسلمانوں پر رکھ دیں، "بعینہم یہی حالت ان حضرات کی ہے۔ آیہ ذکر یہہ اذخروا احبہم و رعبہم انہم ارباب ایتہم" دُونَ اللہ کہ کفار اہل کتاب اور ان



کے عمائد دارباب میں اتری ہمیشہ یہ بیباک لوگ اہل سنت وائمہ اہلسنت کو اس کا مصداقہ بتلاتے ہیں اور یہود کے حق میں جو آیتیں اتریں انہیں امت مرحومہ کے علماء پر ڈھالتے ہیں۔ پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو خیر البریۃ یعنی قرآن اور قول خیر البریۃ یعنی حدیث پر چلتے ہیں۔ سبحن اللہ یہ منہ اور یہ دعویٰ۔ غرض واقعی یہ لوگ ان پرانے خارجیوں کے ٹھیک ٹھیک بقیہ و یادگار ہیں۔ وہی مسئلے وہی دعویٰ۔ وہی انداز وہی دتیرے۔ انصاف کیجئے تو صرف اتنی ہی بات ان کے ابطال مذہب میں کافی و دافی ہے کہ اگر ان کا مذہب حق ہے تو قدیم سے اہل مدینہ و اہل حجاز و اہل عرب و اہل تمام بلاد اسلام سب کے سب معاذ اللہ مشرکین بے دین ٹھہرے اور مسلمان صرف یہی گنتی کے بے لگام اور بے مہار شتر ان اللہ و ایت الیہ راجعون۔

(الہنی الاکید وغیرہ)

## عرضِ اخیریں

وہابیہ میں ایک مرض، جس میں ان کے تمام اصاغر و اکابر شامل ہیں یہ ہے کہ وہ بات بات پر نہ صرف عوام کو بلکہ تمام اہلسنت و جماعت و سواد اعظم ملت کو، بلکہ ہزاروں ائمہ شریعت و طریقت کو معاذ اللہ بدعتی گمراہ ٹھہراتے ہیں اور مطلقاً خونِ خدا و ترس روزِ جتنا دل میں نہیں لاتے۔ لہذا چند اجالی کلمے حاضر ہیں۔ مسلمان انہیں ذہن میں رکھیں تاکہ ان وہابیہ کے کید و مکر اور فریب و دجل سے محفوظ و مامون رہیں۔

۱۔ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ یعنی جس چیز کی ممانعت شرعِ مطہر سے ثابت اور اس کی برائی پر دلیل شرعی قائم ہو۔ وہی تو ممتنع و مذموم ہے۔ باقی سب چیزیں جائز و مباح رہیں گی تو جو شخص جس فعل کو ناجائز یا حرام یا مکروہ کہے اس پر واجب کہ اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کرے اور جائز و مباح کہنے والوں کو ہرگز دلیل کی حاجت نہیں۔ کہ ممانعت پر کوئی دلیل شرعی نہ ہونا۔ یہی جواز کی دلیل کافی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں "حلال وہ ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا اور جس کا کچھ ذکر نہ فرمایا وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے یعنی اس کے فعل پر کوئی مواخذہ نہیں۔"

۲۔ نیک بات، کسی زمانہ کسی قرن کسی وقت میں ہو، نیک ہے اور برا کام، کسی زمانہ میں ہو، اسے زمانہ یا قرن کو کسی فعل کے اچھے برے ہونے میں دخل نہیں۔ آخر واقعہ کربلا و حادثہ حرہ خارجیوں

کی بدعتیں، انیسویں کی خباثیں، اور معتزہ وغیرہم کی شناختیں کہ زمانہ صحابہ و تابعین میں ہوئیں اس وجہ سے وہ نیک نہیں ٹھہر سکتیں۔ اور دینی مدارس کا قیام، کتابوں کی تصنیف، علوم دین کی ترویج، نحو و صرف کا تعلم و تعلیم وغیرہا امور حسنہ، کہ ان کے بعد شائع ہوئے اس وجہ سے بد نہیں قرار پاسکتے اور ایسا ہی ہے تو ذرا حضرات و ہابسیہ اپنی خبر لیں۔ ہزاروں باتیں کہ اس فرقہ کے اصاغر و اکابر میں رائج ہیں قرون ثلاثہ میں صحیحہ و تابعین و تبع تابعین کے دور میں کہاں تھیں۔ تو پھر کتابیں لکھنا۔ لکھوانا، چھاپنا چھپوانا۔ واعظوں کا شہر شہر گشت لگانا مناظروں کے لئے جلسے اور بیچ مقرر کرنا۔ نذرانے لینا۔ دعوتیں اڑانا۔ یہ سب بدعتیں ہیں اور سب جہنم میں جانے کے سامان۔ یا ان کے لئے پروانہ معافی آگیا ہے کہ جو چاہو کرو۔ تم پر کچھ مواخذہ نہیں۔ یا یہ نکتہ چینیاں انہیں باتوں میں ہیں جن میں تعظیم و محبت حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علاقہ ہو۔ باقی سب حلال و شیر مادر۔

لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

۳۔ ہر بدعت حرام نہیں ہوتی بلکہ کبھی واجب ہوتی ہے۔ جیسے گمراہ فرقوں پر رد کے لئے دلائل قائم کرنا اور نحو وغیرہ وہ علوم سیکھنا جن کی مدرسے قرآن و حدیث بخوبی سمجھ میں آسکیں۔ اور کبھی مستحب ہوتی ہے جیسے سرائے اور مدرسے بنانا۔ کبھی مباح جیسے لذیذ کھانے پینے اور کپڑوں میں وسعت کرنا۔ اور کبھی حرام ہوتی ہے جیسے داڑھی کی نئی تراش خراش۔ اور کبھی مذمومہ و قبیحہ۔ اور یہی وہ بدعت ہے جو کسی سنت کے مخالف و مزاحم ہو۔ اور اسی بدعت سنیہ کے لئے فرمایا کہ کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اگر ہر بدعت و نوپید چیز، مطلقاً گمراہی بدعت ہو تو امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جو تراویح کی نسبت فرماتے ہیں بَعْدَتِ الْبِدْعَةُ هَذَا۔ یہ اچھی بدعت ہے۔ و ہابسیہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے۔ مگر ان کے یہاں تو یہ ٹھہری ہے کہ محبوبان خدا کی عظمت کے جتنے امور ہیں سب بدعت اور جس میں ان کا مطلب ہو

وہ حلال و سنت و لا حول ولا

قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

# خرف آخر

الحمد للہ کہ یہ کتاب مستطاب شعیٰ عجاب جامع خیر و برکات ادا ان ذی قعد ۱۳۹۹ھ مطابق اکتوبر ۱۹۷۹ء میں شروع اور آج ۲۵ رجب المرجب ۱۴۰۰ھ مطابق ۹ جون ۱۹۸۰ء روزجاں افروز دو شنبہ مبارکہ کو انجام پذیر ہوئی۔ امید ہے کہ علماء بائینین کے صدقہ میں حضور پر نور عفو غفور، جواد و کریم، رؤف و رحیم، سید المرسلین، خاتم النبیین شیخ المذنبین محمد رسول رب العالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہ و علیٰ آلہ وصحبہ و ابنتہ سیدنا الغوث الاعظم و حزبہ اجمعین کی بارگاہ بیکس پناہ میں شرف قبول پاتے اور حق تبارک و تعالیٰ عامہ مومنین کو دارین میں اس سے اور فقیر کی سب تصانیف سے فائدہ پہنچاتے۔ و اخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین و الصلوٰۃ والسلام

علی سید المرسلین و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین  
سبحان ربك رب العزّة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب  
العلمین و اللہ تعالیٰ اعلم و علمہ جل مجدہ اتق و احکم

کتبہ العبد محمد خلیل خاں قادری البرکاتی المارہری

عفی عنہ بہ حمدان المصطفیٰ النبی الامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

## تہت

مَنْ يُرِيدِ اللَّهُ تَجَارِبَهَا، يُفْقِهْ فِي الدِّينِ

اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی (کرنا) چاہتا ہے اسے دین کی فقہ (مجھ) عطا فرماتا ہے

# سُؤَالِ مُبْتَدِئِيْنَ فِي بَابِ رِيْوَايَةِ (كامل)

جلد اول

(حصہ اول تا پنجم)

خلیل ملت حضرت علامہ مفتی محمد خلیل خان برکاتی قدس سرہ

الناشر

فرید بک سٹال

۴۰۔ اردو بازار، لاہور ٹی فون نمبر ۳ - ۳۱۲

مَنْ يَرْكَبِ اللّٰهَ تَبَرَّأَ مِنْ خَيْرِ الْبَشَرِ فِي الدِّينِ

اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی (کرنا) چاہتا ہے اسے دین کی نصیحت (مجھ) عطا فرماتا ہے

# سُؤَالُ الْبَارِئِ (کامل)

جلد دوم

(حصہ ششم تا نہم)

خلیل نکت حضرت علامہ مفتی محمد خلیل خان برکاتی قدس سرہ

فرید بک سٹال

۴۰ - اُردو بازار، لاہور ۲ فون نمبر ۳۱۲۱۶۳

نور توں کی عزت و ناموس سے متعلق احکام و ہدایات پر مشتمل شمع فروزاں

# سورة النور

ترجمہ

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں قادری برکاتی قدس سرہ

تفسیر و تشریح مستفی بہ

## چار اور چار دیواری

مفتی محمد خلیل خاں قادری برکاتی ماہرہری

صدر المدرسین دارالعلوم احسن البرکات حیدرآباد سندھ

فرید بک ٹرانسمارو بازار لاہور

شریعت، طریقت اور حقیقت کے فوائد و مقاصد

# نور علی نور

ترجمہ

سَيِّدُ الْخَلْقِ الْعَبَّادِ فِي الْوَصِيَّاتِ وَالْمَعَادِ

تصنیف: حضرت شاہ ابوالکسین احمد نوری دہلوی مدظلہ العالی

ترجمہ: مفتی محمد خلیل خاں برکاتی

فرید بک ٹرانسکریپشن ہاؤس، لاہور

سراج الامۃ - امام الائمہ امام عظیم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ و اجہاد کی  
روشنی میں اہل اسلام کی صحیح رہنمائی کرنے والی تمام سال کے نوافل مخصوصہ اور  
جمعہ عیدین و جنازہ وغیرہ کے احکام پر مشتمل اپنی نوعیت کی قابل مطالعہ کتاب جو اپنے

# الصَّلَاةُ

تصنیف لطیف

خلیل العلماء مولانا مفتی محمد خلیل خاں نقاد سی اے برکاتی لاہوری

فرید بک ٹرانس۔ ۴۰۔ اردو بازار لاہور



رسالہ ہدایت قبالہ

# فیصلہ ہفت مسئلہ

شیخ المشائخ حضرت شاہ اللہ صاحب  
مدد اصحاب

مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

مع

## توضیحات و تشریحات

از

مفتی محمد خلیل خان قادری برکتی ماہری

مفتی محمد صدیق المدین دارالعلوم حسن البرکات (ٹرسٹ)

سید آباد (سندھ) پاکستان

۴۰ اردو بازار

لاہور - ۲

# فریدی بک سٹال

# سبع سنابل

جسے بارگاہِ مُسطفیٰ علیہ التَّحیَّۃ وَاٰلِہٖٓ سَلَامٌ شَرِیْفٌ قَبُوْلٌ حَاصِلٌ ہُوَ

مصنف

میر عبدالواحد بگرامی

مترجم

مفتی محمد خلیل خاں بیکانی

مقدمہ

از

پروفیسر ڈاکٹر محمد ایوب قادری

ناشر

فریدی کمال پبلشرز  
۴۰۔ اردو بازار لاہور

اولاد کی صحیح تربیت، نوافل میں شغولیت سے بہتر ہے۔

اہل اسلام اہل سنت و جماعت کی صحیح رہنمائی کرنیوالا، مسلمان بچوں اور بچیوں کو سچا پکاسی حنفی محمدی بنانے والا ایک نفیس و مبارک سلسلہ

یعنی

ہمارا اسلام

مُرتَبَّہ

خلیل العلماء مفتی محمد خلیل خاں قادری برکاتی

شیخ الحدیث دارالعلوم حسن البرکات (ٹرسٹ)

حیدرآباد (سید) پاکستان

فرید پکستان ۲۰ اردو بازار، لاہور

